بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما

اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان (سب) کیلئے اللہ نے (ان کے کئے کا) بدلہ بھی (گناہوں کی) مغفرت اور (ثواب کی) بڑی مزدوری تیار کر رکھی ہے

حصن حصین

LANSDOWNE TRUST LIBRARY
LIBRARY NO. 1378
RAWALPINDI

مع ترجمہ و شرح

قولِ متین

toobaa-elibrary.blogspot.com

مولانا محمد عبد العلیم ندوی

ناشر

نور محمد، اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ، کراچی

toobaa-elibrary.blogspot.com

فہرست مضامین

مطالب	نمبر صفحات
پہلی منزل (جمعرات) شروع کتاب سے	۱
خطبۂ کتاب	۱
علامات اسماء کتب احادیث (رموز)	۶
اُن مطالب کا ذکر جن پر یہ کتاب مشتمل ہے	۱۰
دُعا کی فضیلت	۱۳
ذکر کی فضیلت	۲۰
دُعا کے آداب	۴۱
ذکر (یادِ الٰہی) کے آداب	۵۲
دعا کی قبولیت کے اوقات	۵۶
جمعہ کی فضیلت	۵۸
اعمالِ جمعہ	۵۸
احکامِ جمعہ	۵۹
دعا کے قبول ہونے کی حالتیں	۶۲
دعا قبول ہونے کے مقامات	۶۳
مستجاب الدعوات لوگ	۶۶
اسمِ اعظم	۷۱
اسماءِ حسنیٰ اور ان کے خواص	۷۶

مطالب	نمبر صفحات
اجابتِ دُعا کے کلمات	۱۰۱
دعا کے قبول ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا	۱۰۲
دُوسری منزل (جمعہ) "اَلَّذِیْ یُقَالُ فِیْ صَبَاحِ" سے	۱۰۳
صبح و شام کی دعائیں	۱۰۳
ادائے قرض اور رنج و غم دور ہونے کی دعائیں	۱۲۰
صرف شام کی دعا	۱۲۰
صرف صبح کی دعا	۱۲۱
طلوعِ آفتاب کی دعائیں	۱۲۵
دن کی دعائیں	۱۲۶
مغرب کی اذان کے وقت کی دعا	۱۲۸
صرف رات کی دعائیں	۱۲۹
دن اور رات کی دعائیں	۱۳۳
شام ہونے کا بیان	۱۳۴
گھر میں آمد و رفت کی دعائیں	۱۳۴
سوتے وقت کی دعائیں اور اسکے آداب	۱۳۵
خواب دیکھنے کا بیان اور اس کی دعائیں	۱۴۹

toobaa-elibrary.blogspot.com

مطالب	نمبر صفحات
ڈر، خوف اور نیند اُچٹ جانے کی دعائیں	۱۵۱
بیداری کی دعائیں	۱۵۴
کروٹ لیتے وقت کی دعا	۱۵۵
رات کو بستر سے اُٹھ کر دوبارہ بستر پر لیٹنے کا طریقہ اور اس کی دعا	۱۵۵
پاخانہ میں آمد و رفت کی دعائیں	۱۵۶
پیشاب پاخانہ کے آداب	۱۵۷
وضو کی دعائیں	۱۵۹
وضو کا طریقہ	۱۶۰
نواقض وضو	۱۶۲
پنج وقتہ نیا وضو کرنا	۱۶۲
ہمیشہ باوضو رہنا	۱۶۲
پنج وقتہ مسواک کرنا	۱۶۳
تہجد کی نماز	۱۶۴
وتر کا طریقہ	۱۷۱
وتر کی دعائیں	۱۷۴
فجر کی سنتوں کا بیان	۱۷۶
گھر سے باہر جانے کی دعائیں	۱۷۷
نماز کے لئے جانے کی دعائیں	۱۷۸
مسجد میں آمد و رفت کی دعائیں	۱۸۱
مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈنے کی ممانعت	۱۸۲
مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت	۱۸۲
مسجد کے حقوق و آداب	۱۸۲
مساجد کی تعمیر	۱۸۳

مطالب	نمبر صفحات
ضروریات مسجد	۱۸۵
تیسری منزل (ہفتہ) "وَالْاَذَانُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً"	۱۸۷
اذان و اقامت	۱۸۷
اذان کے جوابی کلمات	۱۸۷
اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا بیان	۱۸۹
غرزدہ کا بیان	۱۹۱
اقامت کا بیان	۱۹۲
اذان کی فضیلت اور اس کے احکام	۱۹۲
اذان کے کلمات	۱۹۳
تکبیر کے الفاظ	۱۹۴
فرض نماز شروع کرتے وقت کی دعا	۱۹۵
نماز کی دعائیں	۱۹۷
ثناء	۱۹۷
آمین اور آمین کے ساتھ کی دعائیں	۱۹۹
رکوع کی دعائیں	۱۹۹
قیام کی دعائیں	۲۰۱
سجدہ کی دعائیں	۲۰۳
سجدۂ تلاوت کی دعائیں	۲۰۶
تلاوتِ قرآن کے سجدے	۲۰۷
جلسۂ استراحت کی دعائیں	۲۱۰
قنوتِ فجر	۲۱۰
مصیبت کے وقت ہر نماز میں قنوتِ نازلہ کا پڑھنا	۲۱۰

toobaa-elibrary.blogspot.com

مطالب	نمبر صفحات
التحیات اور تشہد	۲۱۲
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنے کا طریقہ	۲۱۴
تشہد اور درود کے بعد کی دعائیں	۲۱۹
سید الاستغفار	۲۲۲
نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی دعائیں	۲۲۳
صبح کی نماز کے بعد کی دعائیں	۲۳۴
صبح اور مغرب کی نماز کے بعد کی دعائیں	۲۳۵
نماز چاشت کے بعد کی دعا	۲۳۶
دعوت کا قبول کرنا	۲۳۶
دعوتِ ولیمہ	۲۳۶
نماز کے اوقات	۲۳۷
نماز کے شرائط وارکان	۲۳۸
استقبال قبلہ وترکیب نماز	۲۳۹
سترہ	۲۴۲
نماز باجماعت کی فضیلت اور اس کی تاکید	۲۴۲
پابندیٔ جماعت	۲۴۲
نماز میں خشوع وخضوع	۲۴۴
روزہ افطار کرنے کی دعائیں	۲۴۶
روزہ کا بیان	۲۴۶
روزہ کے متعلق صحابہؓ کا ذوق وشوق	۲۵۰
صوم رمضان	۲۵۰
سفر میں روزہ رکھنا	۲۵۱
صوم عاشوراء	۲۵۱

مطالب	نمبر صفحات
صوم داؤدی	۲۵۱
صوم وصال	۲۵۲
دوشنبہ اور پنجشنبہ کے روزے	۲۵۲
ایام بیض کے روزے	۲۵۲
صائم الدہر رہنا	۲۵۲
نفلی روزے رکھنا	۲۵۳
مُردوں کی جانب سے روزہ رکھنا	۲۵۳
بچوں سے روزہ رکھوانا	۲۵۳
کھانا شروع کرنے کا ذکر	۲۵۴
کھانے کے بعد کی دعائیں	۲۵۷
کپڑے پہننے کی دعائیں	۲۶۱
کپڑے اتارنے کی دعا	۲۶۲
چوتھی منزل (اتوار) "وَاِذَا هَمَّ بِاَمْرٍ" سے	۲۶۳
دعائے استخارہ	۲۶۳
نکاح کے لئے استخارہ	۲۶۷
نکاح کا خطبہ	۲۶۹
نکاح کی مبارکباد	۲۶۹
حضرت فاطمہؓ کے نکاح کا ذکر	۲۷۰
میاں بیوی کے اجتماع اور غلام خریدنے کی دعائیں	۲۷۲
بیوی کے ساتھ صحبت کی دعا	۲۷۲
انزال کی دعا	۲۷۲

toobaa-elibrary.blogspot.com

مطالب	نمبر صفحات
بچہ کی پیدائش کی دعائیں	۲۷۳
بچہ کے کان میں اذان واقامت کہنا	۲۷۳
بچہ کے نام رکھنے اور عقیقہ کا حکم	۲۷۳
بچہ کا تعویذ	۲۷۳
بچہ کی پہلی تعلیم	۲۷۳
بچہ کو نماز کے لئے تنبیہ	۲۷۴
مسافر کو رخصت کرنا	۲۷۵
سفر کی دعائیں	۲۷۵
سردار لشکر کو نصیحتیں	۲۷۷
سوار ہونے کی دعائیں	۲۸۰
سفر سے واپسی کی دعائیں	۲۸۰
سفر کی مشقت سے پناہ	۲۸۱
بلندی پر چڑھنے اور اترنے کی دعا	۲۸۲
جانور کا پہچاننا	۲۸۲
پانی کے سفر کی دعا	۲۸۳
سفر میں جانور کے بھاگ جانے اور مدد مانگنے کا ذکر	۲۸۳
اونچائی پر چڑھنے کا ذکر	۲۸۳
شہر دیکھنے کی دعا	۲۸۴
شہر میں داخل ہونے کی دعا	۲۸۴
مسافر کا کسی جگہ قیام کرنا	۲۸۵
حج کا طریقہ	۲۸۸
احرام کا بیان	۲۸۸
تلبیہ کے بعد کی دعا	۲۸۹

مطالب	نمبر صفحات
طواف کا ذکر	۲۹۰
صفا و مروہ کی سعی	۲۹۳
کوہ صفا کی دعا	۲۹۶
صفا و مروہ کے درمیان کی دعا	۲۹۶
عرفات کا ذکر	۲۹۶
عرفہ کے دن کی دعا	۲۹۶
عرفات کی دعائیں	۲۹۷
مشعر حرام کی دعا	۲۹۸
رمی جمار کا بیان	۲۹۸
قربانی کی دعائیں	۳۰۰
اونٹ کی قربانی کا طریقہ	۳۰۱
خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی دعائیں	۳۰۳
خانہ کعبہ میں نماز کا طریقہ	۳۰۳
آب زمزم پینے کے آداب اور دعا	۳۰۵
فریضۂ حج	۳۰۵
ماں باپ کی طرف سے حج کرنا	۳۰۶
عمرہ	۳۰۶
قربانی کرنا	۳۰۷
جہاد کا سفر اور اس کی دعائیں	۳۰۹
دشمن کے شہر پر چڑھتے وقت کی دعا	۳۰۹
کسی سے خوفزدہ ہونے کی دعا	۳۰۹
دشمن سے گھبرا جانے کی دعا	۳۰۹
دشمن کی شکست کے بعد دعا	۳۱۰
اسلام لانے والے شخص کی تعلیم	۳۱۲

toobaa-elibrary.blogspot.com

مطالب	نمبر صفحات
سفر جہاد سے واپسی کی دعا	۳۱۲
وطن میں پہنچنے کی دعا	۳۱۳
اہل و عیال کے پاس پہنچکر پڑھنے کی دعا	۳۱۳
شوقِ جہاد	۳۱۳
شوقِ شہادت	۳۱۳
رنج و غم اور مصیبت کے وقت کی دعائیں	۳۱۵
پانچویں منزل (پیر) "وَمَا قَالَ عَبْدٌ" سے	۳۱۹
رنج و غم اور بے قراری کے وقت کی دعائیں	۳۲۱
رنج و غم کی دعا	۳۲۱
مصیبت کے وقت کی دعا	۳۲۱
کسی سے ڈرنے کی دعا	۳۲۲
بادشاہ یا ظالم کے خوف کے وقت کی دعا	۳۲۳
شیطان وغیرہ سے ڈرنے کی دعائیں	۳۲۵
چھلا وا ظاہر ہونے کے وقت کی دعا	۳۲۶
نمازِ حاجت کا طریقہ	۳۲۷
حفظِ قرآن کی دعا	۳۳۰
توبہ اور نمازِ توبہ کا بیان	۳۳۲
طلبِ باران کی دعا	۳۳۵
نمازِ استسقاء کا طریقہ	۳۳۶
بادل آتا ہوا دیکھنے کی دعا	۳۳۸
بارش کے وقت کی دعا	۳۳۸
بارش سے پناہ کی دعا	۳۳۸

مطالب	نمبر صفحات
بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کی دعائیں	۳۳۹
آندھی کا بیان	۳۴۰
مرغ، گدھے اور کتے کی آواز کا بیان	۳۴۱
سورج یا چاند گہن کا بیان	۳۴۱
نمازِ کسوف و خسوف	۳۴۱
چاند دیکھنے کی دعا	۳۴۴
لیلۃ القدر کا بیان	۳۴۵
آئینہ دیکھنے کی دعا	۳۴۶
سلام کرنے کے آداب	۳۴۷
سلام کی ممانعت	۳۴۷
چھینکنے کا بیان	۳۵۰
خوشخبری سننے کی دعا	۳۵۱
اچھی چیز دیکھنے کی دعا	۳۵۱
مال بڑھنے کی دعا	۳۵۱
کسی کو ہنستا ہوا دیکھنے کی دعا	۳۵۲
دوستی کا بیان	۳۵۲
حال دریافت کرنے والے کا جواب	۳۵۲
محسن کا شکریہ	۳۵۳
ادائے قرض پر قرض خواہ کا طریقہ	۳۵۴
پسندیدہ اور خیر پسندیدہ چیز دیکھنے کا ذکر	۳۵۴
ادائے قرض کی دعائیں	۳۵۵
کسی کام سے تھک جانے کا بیان	۳۵۶

toobaa-elibrary.blogspot.com

	مطالب	نمبر صفحات
	وسوسہ دُور کرنے کی دعائیں اور اس کا طریقہ	۳۵۷
۸	غصہ دفع کرنے کا طریقہ	۳۵۹
	بدزبانی کا ذکر	۳۶۰
	مجلس میں آنے اور جاتے سلام کرنا	۳۶۰
	مجلس میں شرکت کا بیان	۳۶۰
۸	بازار میں آمد و رفت کی دعائیں	۳۶۱
	نئے پھل دیکھنے کا ذکر	۳۶۲
	مصیبت زدہ کے دیکھنے کا بیان	۳۶۲
	گم شدہ چیز کا بیان	۳۶۳
	پیشگوئی کا بیان	۳۶۴
	نظر لگ جانے کا ذکر	۳۶۴
	جن، آسیب وغیرہ کے دفع کرنے کا بیان	۳۶۶
	دیوانگی کا منتر	۳۷۲
	بچھو کے کاٹے کا عمل	۳۷۲
	جلے ہوئے کی دعا	۳۷۴
	آگ بجھانے کی دعا	۳۷۴
	پیشاب بند ہو جانے کی دعا	۳۷۴
	پھوڑے اور زخم کی دعا	۳۷۵
	پاؤں سُن ہو جانے کا ذکر	۳۷۵
	دُکھ درد کی دعائیں	۳۷۵
	آنکھ دُکھنے کی دعا	۳۷۷
	بخار کی دعا	۳۷۸
۸	تکالیف سے تنگ آکر موت مانگنے کا ذکر	۳۷۸
	عیادت کا بیان	۳۷۸

مطالب	نمبر صفحات
بیماری میں پڑھی جانے والی دعائیں	۳۸۱
شہادت طلب کرنے کا بیان	۳۸۲
جان کنی کے وقت کی دعا	۳۸۳
مرنے کا بیان	۳۸۳
میت کے پس ماندگان کا بیان	۳۸۴
بچہ کے مرنے کا ذکر	۳۸۵
رسول اللہ کی وفات کا ذکر	۳۸۸
جنازہ اٹھانے کی دعا	۳۹۱
نمازِ جنازہ	۳۹۱
دفن کرنے کی دعا	۳۹۵
دفن سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا	۳۹۵
زیارتِ قبور کا بیان	۳۹۵
چھٹی منزل (منگل) "اَلَّذِیْنَ کُرَّالَّذِیْ وَرَدَ فَضْلُہٗ" سے	۳۹۷
وہ ذکر جو کسی وقت یا سبب یا جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے	۳۹۷
کلمہ توحید کی فضیلت	۴۰۰
کلمہ تمجید کی فضیلت	۴۰۲
کلمہ شہادت کی فضیلت	۴۰۲
تسبیح و تحمید کی فضیلت	۴۰۶
تسبیح کے الفاظ اور اس کی فضیلت	۴۱۶
صلوٰۃ التسبیح	۴۲۱
سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الٰہ الا اللہ، اللہ اکبر کی فضیلت	۴۴۳

toobaa-elibrary.blogspot.com

مطالب	نمبر صفحات
لاحول ولاقوۃ الا باللہ کی فضیلت	۴۲۷
استغفار کا بیان	۴۳۰
استغفار کا طریقہ	۴۳۶
آداب تلاوت قرآن	۸ ۴۴۱
ساتویں منزل (بُدھ) "فَضْلُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ" سے	۴۴۷
قرآن عظیم اور اس کی سورتوں اور آیتوں کی فضیلت	۴۴۷
سورۂ فاتحہ کی فضیلت	۴۵۰
سورۂ بقرہ کی فضیلت	۴۵۱
سورۂ بقرہ اور سورۂ آل عمران کی فضیلت	۴۵۲
آیۃ الکرسی کی فضیلت	۴۵۳
آمن الرسولُ کی فضیلت	۴۵۳
سورۂ انعام کی فضیلت	۴۵۳

مطالب	نمبر صفحات
سورۂ کہف کی فضیلت	۴۵۵
سورۂ طٰہٰ، طواسین اور حوامیم کی فضیلت	۴۵۵
سورۂ یٰسین کی فضیلت	۴۵۵
سورۂ فتح کی فضیلت	۴۵۵
سورۂ تبٰرک کی فضیلت	۴۵۷
سورۂ اذا زلزلت کی فضیلت	۴۵۸
سورۂ قل یٰاَیُّھَا الْکٰفِرُوْن کی فضیلت	۴۵۸
سورۂ اخلاص کی فضیلت	۴۵۸
سورۂ انا انزلناہ کی فضیلت	۴۵۸
سورۂ فلق اور سورۂ ناس کی فضیلت	۴۵۹
وہ دعائیں جو کسی وقت اور کسی سبب کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں	۴۶۱
درود شریف کی فضیلت	۴۹۷

مہمات کے لئے تقسیم منازل

		صفحہ
منزل اوّل	جمعرات کی شب	شروع کتاب سے ۱
منزل دوم	جمعہ کی شب	وَکَیْفِیَّۃُ الصَّلٰوۃِ سے ۲۱۴
منزل سوم	ہفتہ کی شب	وَاِذَا رَاٰی بِاَلْوَرَۃَ ثُمَّ سے ۳۶۲
منزل چہارم	اتوار کی شب	اَلَّذِیْ وَرَدَ فَضْلُہٗ سے ۳۹۷

toobaa-elibrary.blogspot.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الحمد للہ جل جلالہ والصلوٰۃ علیٰ محمد وآلہ المعروف الوطن ورجالہ
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عُدَّةٌ لِّلِقَآئِهٖ قَالَ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ الضَّعِيْفُ الْمِسْكِيْنُ الْمُنْقَطِعُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الرَّاجِيْ مِنْ كَرَمِهٖ اَنْ يُّنْجِيَهٗ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ اِبْنُ الْجَزَرِيِّ الشَّافِعِيُّ لَطَفَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ فِيْ شِدَّتِهٖ

منزل اول پنجشنبہ

ترجمہ: اے اللہ مخلوق کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل واصحاب پر درود وسلام نازل فرما لا الٰہ الا اللہ خدا کے دیدار کا سامان ہے۔

کہتا ہے، بندہ محتاج ضعیف وعاجز، اللہ کی طرف منقطع ہونے والا، اس کے کرم سے یہ امید رکھتا ہے کہ ظالم قوم سے اسے محفوظ رکھے گا یعنی محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری الشافعی، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت وسختی میں اس پر کرم فرمائے

شرح: حصن حصین کے بعض نسخوں میں درود شریف کلمۂ توحید سے پہلے ہے اور بعض میں بعد کو، لیکن چونکہ محدث علامہ ملا علی قاری نے اس کی شرح حزب اعظم میں درود شریف کو کلمۂ توحید سے پہلے لکھا ہے، اسلئے ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے حدیث قدسی میں ہے لا الٰہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا الٰہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعہ میں داخل ہوگیا، میرے عذاب سے محفوظ رہا، مصنفؒ کا یہ جملہ اسی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے۔

مصنفؒ نے قرآن وحدیث کے مطابق اپنے آپ کو فقیر، ضعیف، مسکین کہا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ" "اللہ بے نیاز ہے، اور تم محتاج ہو" "وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا" "اور انسان کمزور بنایا ہے" اور جیسے کہ حضورؐ کا ارشاد ہے "اللّٰهُمَّ احْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ" اے اللہ مجھے مسکین بناکر زندہ رکھ اور مسکینی ہی کی حالت میں موت دے اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر فرما۔

اور دعا میں اپنی حالت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ظالم (یعنی بادشاہ تیمور اور اس کی فوجوں) نے گھیر رکھا تھا

فقیر: اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو، **مسکین:** وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، **جزری:** نسبت ہے جزیرۂ ابن عمر کی طرف جس میں مصنفؒ پیدا ہوئے تھے، **شافعی:** نسبت ہے امام المحدثین محمد بن ادریس شافعی کی طرف جو ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام ہیں

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَمَّا بَعْدُ حَمْدِ اللّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الدُّعَاءَ لِرَدِّ الْقَضَاءِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْاَنْبِیَاءِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهِ الْاَتْقِیَاءِ الْاَصْفِیَاءِ فَاِنَّ هٰذَا الْحِصْنَ الْحَصِیْنَ مِنْ کَلَامِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَسِلَاحِ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ خِزَانَةِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ وَالْهَیْکَلِ الْعَظِیْمِ مِنْ قَوْلِ الرَّسُوْلِ الْکَرِیْمِ وَالْحِرْزِ الْمَکْنُوْنِ مِنْ لَفْظِ الْمَعْصُوْمِ الْمَاْمُوْنِ بَذَلْتُ فِیْهِ النَّصِیْحَةَ وَاَخْرَجْتُهٗ مِنَ الْاَحَادِیْثِ الصَّحِیْحَةِ اَبْرَزْتُهٗ عُدَّةً عِنْدَ کُلِّ شِدَّةٍ وَجَرَّدْتُهٗ جُنَّةً تَقِیْ مِنْ شَرِّ النَّاسِ وَالْجِنَّةِ تَحَصَّنْتُ بِهٖ فِیْمَا دَهَمَ مِنَ الْمُصِیْبَةِ وَاعْتَصَمْتُ مِنْ کُلِّ ظَالِمٍ بِمَا حَوٰی مِنَ السِّهَامِ الْمُصِیْبَةِ وَقُلْتُ شِعْرًا اَلَا قُوْلُوْا لِشَخْصٍ قَدْ تَقَوّٰی ۞ عَلٰی ضَعْفِیْ وَلَمْ یَخْشٰی رَقِیْبَهٗ ۞ خَبَاْتُ لَهٗ سِهَامًا فِی اللَّیَالِیْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَکُوْنَ لَهٗ مُصِیْبَهٗ ۞

ترجمہ: اس قادرِ مطلق کی حمد وثنا کے بعد جس نے دعا کو تقدیر کا بدل ٹالنے والا بنایا، اور سردارِ انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پرہیزگار و برگزیدہ آل واصحاب پر درود وسلام کے بعد (واضح رہے) کہ یقیناً یہ کتاب سردارِ انبیاء علیہ السلام کے کلام سے منتخب کیا ہوا) مضبوط قلعہ ہے اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ سے (جمع کیا ہوا) مؤمنوں کا ہتھیار ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے (لکھا ہوا) بڑا تعویذ ہے، اور نبی معصوم و مامون کے الفاظ کا محفوظ نقش ہے ۞

میں نے اس میں خیر خواہی سے کام کیا ہے، اور اس (کتاب) کو صحیح حدیثوں سے تیار کیا ہے، اور ہر سختی کے وقت اسے کام کا سامان بنا کر پیش کیا ہے، اور انسان وجنات کی شرارت سے بچنے کے لئے محض بنایا ہے اور پیش آنے والی مصیبت میں اس کے ذریعہ قلعہ نشین بنا اور یہ کتاب جن نشانوں پر بیٹھنے والے تیروں پر مشتمل تھی، ان کے ذریعہ ہر ظالم سے بچاؤ کیا ۞

میں نے یہ قطعہ کہا ہے، خبردار! اس شخص سے کہ وہ تجھے کمزور سمجھ کر زور دکھا رہا ہے، اور اپنے نگہبان[۴] (حقیقی) سے نہیں ڈرتا، میں نے راتوں میں اس کے لئے تیر چھپا رکھے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ تیر اسے لگ کر رہیں گے۔

شرح: تقدیر کی دو قسمیں ہیں، معلق، مبرم، تقدیر معلق جو کسی شرط کے ساتھ متعلق ہو، تقدیر مبرم جو قطعی ہو کسی شرط کے ساتھ معلق نہ ہو، تقدیر مبرم کبھی نہیں بدل سکتی ہے، یہاں تقدیر معلق ہی مراد ہے۔

اس کتاب[۵] میں صرف ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا ہے جو ہر قسم کی حاجت روائی کے لئے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔

تیروں[۶] سے مراد دعائیں ہیں، جس طرح تیر نشانہ پر کام کرتا ہے، اسی طرح یہ دعائیں حاجت کیلئے کارگر ہیں کیونکہ سب دعائیں ماثورہ ہیں اور آپ[۷] کے فرمانے میں خطا کی گنجائش ہی نہیں پھر کیونکر تاثیر نہ کریں۔

رقیب[۸]۔ اس نگہبان کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو اور یہ صفت پروردگار ہی کی ہے، ارشاد خداوندی ہے: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ" ——— اور ہرگز ایسا نہ سمجھنا کہ خدا (ان) ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، اور (یہ جو فوراً ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ) بس (یہ ہے کہ) خدا ان کو اسی دن تک کی مہلت دے رہا ہے جب کہ (مارے خوف کے لوگوں کی) آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ "وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا" ——— اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

یہاں تیروں[۹] سے پچھلی رات کی دعائیں مراد ہیں جو بہت مقبول ہوتی ہیں، یعنی میں نے دشمن کے دفع کرنے کے لئے راتوں میں دعائیں کی ہیں جو بمنزلہ تیروں کے ہیں۔

مولانا محمد احسن صاحب نانوتویؒ نے اس کا اردو نظم میں ترجمہ کیا ہے:۔

قطعہ

کہو اس شخص سے جس نے نہ کیا خوف خدا ؛ ناتوانی پہ میری زور دکھایا اپنا
خفیہ اس کے لئے راتوں میں کئے میں نے تیر ؛ اور توقع ہے خدا سے کہ کریں اسکو فنا

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ أَنْ يَّنْفَعَ بِهٖ وَأَنْ يُّفَرِّجَ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ بِسَبَبِهٖ عَلٰى أَنَّهٗ مَعَ اقْتِصَارِهٖ وَاخْتِصَارِهٖ لَمْ يَدَعْ حَدِيْثًا صَحِيْحًا فِيْ بَابِهٖ إِلَّا اسْتَحْضَرَهٗ وَأَتٰى بِهٖ وَلَمَّا أَكْمَلْتُ تَرْتِيْبَهٗ وَتَهْذِيْبَهٗ طَلَبَنِيْ عَدُوٌّ لَّا يُمْكِنُ أَنْ يُّدْفَعَ إِلَّا اللهُ تَعَالٰى فَهَرَبْتُ مِنْهُ مُخْتَفِيًا وَتَحَصَّنْتُ بِهٰذَا الْحِصْنِ فَرَأَيْتُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ عَلٰى يَسَارِهٖ وَكَأَنَّهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا تُرِيْدُ فَقُلْتُ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ اللهَ لِيْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ الْكَرِيْمَتَيْنِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَدَعَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ الْكَرِيْمَ وَكَانَ ذٰلِكَ لَيْلَةَ الْخَمِيْسِ فَهَرَبَ الْعَدُوُّ لَيْلَةَ الْأَحَدِ وَفَرَّجَ اللهُ عَنِّيْ وَعَنِ الْمُسْلِمِيْنَ بِبَرَكَةِ مَا فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اس سے نفع بخشے اور اس کے ذریعہ ہر مسلمان کا رنج وغم دُور فرمائے، (راقم الحروف نے) باوجودیکہ یہ کتاب چھوٹی سی اور مختصر ہے، مگر اپنے باب کی کوئی صحیح حدیث بغیر لائے اور ذکر کئے نہیں چھوڑی۔

جب میں اس کتاب کی ترتیب واصلاح مکمل کر چکا، تو مجھے ایک (میرے) ایسے دشمن نے طلب کیا، کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی دفع کرنے والا نہ تھا اس لئے میں اس سے چھپ کر بھاگ گیا، اور اس (مضبوط ومستحکم) قلعہ سے اپنی حفاظت کی، (یعنی وظیفہ کے طور پر اسے پڑھنا شروع کیا) پس میں نے سرورِ انبیاء علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ گویا میں آپ کے بائیں جانب بیٹھا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ "تم کیا چاہتے ہو؟" میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے واسطے دُعا فرمائیں (فوراً) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (میری درخواست پر) اپنے مبارک ہاتھ اُٹھائے، میں آپ

کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر آپ نے دعا فرمائی۔ اور اپنے رُوئے مبارک پر پھیر لئے۔
جمعرات کی رات میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اتوار کی رات میں دشمن بھاگ گیا، اور ان احادیث نبویہ کی برکت سے جو اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں، اللہ تعالےٰ نے میری اور تمام مسلمانوں کی مصیبت دُور فرمائی۔

شرح: بائیں جانب جیمنا اس لئے تھا کہ وہ دل کی جانب ہے۔ لفظ یسار سے یسر یعنی آسانی کی طرف اشارہ ہے، اور "ادع اللہ لی وللمسلمین" سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کا دشمن یا ظالم تھا۔

اقتصار = اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ و معنی دونوں تھوڑے ہوں، اختصار = اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَقَدْ رَمَزْتُ لِلْكُتُبِ الَّتِي خَرَّجْتُ مِنْهَا هٰذِهِ الْاَحَادِيْثَ بِحُرُوْفٍ تَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ سَلَكْتُ فِيْهَا اَخْصَرَ الْمَسَالِكِ فَجَعَلْتُ عَلَامَةَ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ خ وَمُسْلِمٍ م وَسُنَنِ اَبِيْ دَاوٗدَ د وَالتِّرْمِذِيِّ ت وَالنَّسَائِيِّ س وَابْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِيِّ ق وَهٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ عَهْ وَهٰذِهِ السِّتَّةُ ع وَصَحِيْحِ الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ مُسْ وَصَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ حِبْ وَاَبِيْ عَوَانَةَ عَوْ وَابْنِ خُزَيْمَةَ مَهْ وَالْمُوَطَّاِ طَا وَسُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قُطْ وَمُصَنَّفِ ابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ مُصْ وَمُسْنَدِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ اَ وَالْبَزَّارِ ر وَاَبِيْ يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ ص وَالدَّارِمِيِّ مِيْ وَمُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيْرِ ط وَالْاَوْسَطِ طس وَالصَّغِيْرِ صَطْ وَالدُّعَاءِ لَهٗ طَبْ وَلِابْنِ مَرْدُوْيَةَ هَرْ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ الْكَبِيْرِ لَهٗ سُنِّيْ وَعَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِابْنِ السُّنِّيْ

ترجمہ: جن کتابوں سے میں نے یہ حدیثیں انتخاب کی ہیں، ان کے حروف سے اُن کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ حدیث فلاں کتاب سے لی گئی ہے (مثلاً) صحیح بخاری کا خ صحیح مسلم کا م سنن ابی داؤد کا د ترمذی کا ت نسائی کا س ابن ماجہ کا ق اور ان چاروں یعنی ابوداؤد، ترمذی نسائی اور ابن ماجہ کا عہ اور ان چھوں یعنی بخاری مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں ع، صحیح مستدرک کا مس، صحیح ابن حبان کا حب، ابوعوانہ کا عو، ابن خزیمہ کا مہ، موطا امام مالک کا طا، سنن دارقطنی کا قط، مصنف ابن ابی شیبہ کا مص، مسند امام احمد حنبل کا ا، بزار کی ر، ابویعلے موصلی کی ص، مسند دارمی کی می، معجم کبیر طبرانی کا ط، اوسط کا طس، صغیر کا صط، کتاب دعائے طبرانی کا طب، کتاب دعائے ابن مردویہ کا هر، کتاب دعائے بیہقی کی قی، سنن کبیر بیہقی کا سنی، کتاب عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کا سی

شرح : حصن حصین کو مہمات میں پڑھنے کے لئے مذکورہ بالا علامتیں ہیں، ان ہی حرکات سے جو اصل الفاظ میں ہیں پڑھی جاتی ہیں، مثلاً بخاری میں خ مفتوح ہے تو پڑھنے میں خ کو زبر، مسلم کی میم کو پیش، ترمذی کی ت کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، کل ستائیس[۲۷] علامتیں، جن میں سے بارہ یک حرفی ہیں اور چودہ دو حرفی اور ایک سہ حرفی ہے، یک حرفی میں صرف میم کو پیش سے پڑھتے ہیں اور ت اور ص زیر سے باقی سب زبر سے پڑھی جاتی ہیں، دو حرفی علامتوں میں تین کسر اوّل و سکون ثانی ہیں۔ جِبْ، مِیْ، قِفْ اور تین ضم اوّل و سکون ثانی ہیں۔ مُشْ، قُطْ، مُضْ باقی نو اوّل و سکون ثانی ہیں۔ اختصار وہ اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَ أُقَدِّمُ رَمْزَ مَنْ لَهُ اللَّفْظُ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ مَوْقُوْفًا جَعَلْتُ قَبْلَ رَمْزِهٖ **مَوْ** لِيُعْلَمَ أَنَّهٗ مَوْقُوْفٌ لِمَا بَعْدَهٗ مِنَ الْكُتُبِ وَذٰلِكَ قَلِيْلٌ حَيْثُ عُدِمَ الْمُتَّصِلُ أَوِ اخْتُلِفَ فِيْهِ عَلَى أَنِّيْ لَمْ أَجْعَلْ هٰذِهِ الرُّمُوْزَ إِلَّا لِعَالِمٍ يَرُبُّ بِنَفْسِهٖ عَنِ التَّقْلِيْدِ أَوْ لِمُتَعَلِّمٍ يَتَعَرَّفُ صَحِيْحَ الْكُتُبِ وَالْمَسَانِيْدِ وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيْقَةِ لَا إِحْتِيَاجَ إِلَيْهَا لِعُمُوْمِ النَّاسِ فَلْيُعْلَمْ أَنِّيْ أَرْجُوْا أَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعُ مَا فِيْهِ صَحِيْحًا فَزَالَ الْإِلْتِبَاسُ وَقَدْ جَمَعَ بِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى هٰذَا الْمُخْتَصَرُ اللَّطِيْفُ مَا لَمْ تَجْمَعْهُ مُجَلَّدَاتٌ مِنَ التَّالِيْفِ وَإِذَا انْتَهٰى نَرْجُوْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى أَنْ نَجْعَلَ فِيْ آخِرِهٖ فَصْلًا يَفْتَحُ مَا أُقْفِلَ مِنْ لَفْظٍ مَا فِيْهِ قَدْ أَشْكَلَ

ترجمہ: جس کتاب کے الفاظ لکھے ہیں اس کی علامت سب سے پہلے لکھی ہے، اور اگر حدیث موقوف ہے تو اس کی علامت سے پہلے لفظ مو لکھ دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث ان کتابوں میں موقوف ہے جن کی علامت سے پہلے لفظ مو ہے۔

اور اس کتاب میں حدیث موقوف بہت کم ہیں، حدیث موقوف صرف اس جگہ بیان کی ہے جہاں اس باب کی حدیث متصل نہ ملی یا تو مل نہ سکی یا ملی تو اس میں اختلاف تھا، علاوہ ازیں میں نے یہ علامتیں صرف اس عالم کے لئے بیان کی ہیں جو تقلید سے بالاتر ہے، اور اس طالب علم کے واسطے جو صحیح و مسند کو پہچانتا ہے، ورنہ عام لوگوں کو ان علامتوں کی کوئی ضرورت نہ تھی (اس لئے کہ ان کے لئے کسی عالم کی تقلید ہی کافی ہے)

معلوم رہے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے صحیح ہے، لہٰذا صحیح غیر صحیح کا شبہ جاتا رہا اور خدا کا شکر ہے یا یہ تلخیص مختصر ان تمام حدیثوں کی جامع ہے کہ بڑی بڑی تالیفات

بھی ان پر مشتمل نہیں، اور جب یہ ختم ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتے ہیں کہ اس کے اخیر میں ایک ایسی فصل لکھ دیں جو اس مُغلق لفظ کو کھول دے کہ جس میں اشکال ہو۔

شرح: جہاں کتابوں کے الفاظ مختلف ہیں تو اُس کتاب کی علامت جس کے الفاظ حدیث لکھے گئے ہیں، اور کتابوں کی علامت سے پہلے لکھی گئی ہے اگرچہ وہ رتبہ میں کم ہو، مثلاً ایک حدیث بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی اور دونوں کے الفاظ مختلف ہیں اور مصنفؒ نے ترمذی کے الفاظ روایت کئے ہیں تو مصنف سب سے پہلے لکھی ہے اور اگر الفاظ ایک ہی سے ہیں تو پھر علامتیں ہر ترتیب بیان کی ہیں۔

حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں جن میں سے ایک موقوف ہے۔

حدیث موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، بلکہ صحابی پر ہی ختم ہو جائے مثلاً حضرت ابن عباسؓ نے یہ فرمایا ہے اور حضرت عکرمہؒ نے یہ کہا ہے۔

حدیث متصل وہ حدیث ہے جس کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی راوی نہ چھوٹا ہو۔

مسند، حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کی روایتیں بغیر ابواب کی ترتیب کے مروی ہوں، جیسے مسند امام احمد حنبلؒ وغیرہ۔ برخلاف بخاری و مسلم وغیرہ کے کہ ان کو صحیح کہتے ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَهٰذِهٖ مُقَدِّمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلٰى اَحَادِيْثَ فِىْ فَضْلِ الدُّعَآءِ وَ الذِّكْرِ ثُمَّ اٰدَابُ الدُّعَآءِ وَالذِّكْرِ وَاَوْقَاتُ الْاِجَابَةِ وَاَحْوَالُهَا وَاَمَاكِنُهَا ثُمَّ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى الْاَعْظَمُ وَاَسْمَآؤُهُ الْحُسْنٰى ثُمَّ مَا يُقَالُ فِى الصَّبَاحِ اِلَى الْمَسَآءِ وَفِىْ طُوْلِ الْحَيٰوةِ اِلَى الْمَمَاتِ مِنْ جَمِيْعِ مَا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ وَصَحَّ النَّصُّ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الذِّكْرُ الَّذِىْ وَرَدَ فَضْلُهٗ وَلَمْ يَخْتَصَّ بِوَقْتٍ مِّنَ الْاَوْقَاتِ ثُمَّ الْاِسْتِغْفَارُ الَّذِىْ يَمْحُو الْخَطِيْٓئَاتِ ثُمَّ فَضْلُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَسُوَرٍ مِّنْهُ وَاٰيَاتٍ ثُمَّ الدُّعَآءُ الَّذِىْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذٰلِكَ

ترجمہ: یہ کتاب ایک مقدمہ ہے، جو دعا و ذکر کے فضائل کی حدیثوں پر مشتمل ہے، پھر دعا و ذکر کے آداب اور قبولیت کے اوقات و احوال اور مقامات کا ذکر ہے، پھر اسم اعظم اور اسمائے حسنیٰ کا بیان ہے پھر وہ دعائیں ہیں جو صبح سے شام تک پڑھی جاتی ہیں، اور زندگی بھر میں مرنے تک کے تمام مطالب کی وہ دعائیں ہیں جن کی ہر وقت انسان کو ضرورت رہتی ہے اور ان کی تصریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایۂ صحت کو پہنچ چکی ہے، پھر اس ذکر کا بیان ہے جس کی فضیلت حدیث میں وارد ہے، اور کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پھر استغفار کا بیان ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، پھر قرآن کریم اور اس کی چند سورتوں اور آیتوں کی فضیلت ہے، پھر ان دعاؤں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بلا تعیین اوقات بصحت مروی ہیں۔

شرح: یعنی کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، جس وقت چاہے پڑھے، اس صورت میں لفظ "کذالک" صرف دعا سے متعلق ہوگا، مگر علامہ ملا علی قاری نے اس توجیہ پر شبہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ لفظ "کذالک" استغفار، قرأت، ذکر، تینوں سے متعلق ہے کیونکہ ان میں سے کسی کا بھی کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اسلئے

انسان کو چاہیے کہ ہر حالت اور ہر جگہ میں انہیں جاری رکھے، کیونکہ ذکر کی مداومت اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے: "یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِیْرًا" ـــــ "مسلمانوں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو"۔ اسی طرح "تلاوتِ قرآن کا بھی کوئی وقت خاص نہیں ہے، جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے: "اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ الْكِتٰبِ" ـــــ یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہو، اسی طرح استغفار بھی کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے" طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارًا کثیرًا" ـــــ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نامۂ اعمال میں بکثرت استغفار ہو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

ثُمَّ خَتَمْتُهٗ بِفَضْلِ الصَّلٰوةِ عَلٰى سَيِّدِ الْخَلْقِ وَرَسُوْلِ الْحَقِّ الَّذِىْ هَدَى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَ بِهٖ مِنَ الْعَمٰى فَاَوْضَحَ الْمَحَجَّةَ وَلَمْ يَدَعْ لِاَحَدٍ حُجَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

ترجمہ: اب میں اس کتاب کو سرورِ کائنات رسولِ برحق صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے ختم کرتا ہوں جن کے سبب سے اللہ تعالےٰ نے گمراہی سے ہدایت دی اور نابینائی سے بینائی عطا فرمائی اور راستہ کو ظاہر کر دیا اور کسی کے لئے کوئی حجت نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت وسلام بھیجے، جب تک بھی یاد کرنے والے انہیں یاد کرتے رہیں اور جب تک بھی ان کے ذکر سے غفلت برتنے والے غافل رہیں۔

شرح: یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ پر رحمت وسلام بھیجے، کیونکہ کوئی وقت بھی غفلت یا ذکر سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض محدثین نے اس درود شریف کو تمام درودوں سے افضل لکھا ہے۔

اَلْمَحَجَّة: سیدھا راستہ، صحیح بات۔

فَضْلُ الدُّعَاءِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ تَلَا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَلْاٰيَةَ مُصْعَبٌ حَدِيْثٌ مُسْلِمٌ

"دُعا کی فضیلت"

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دُعا عبادت کی جڑ ہے، پھر آپ نے (بطور استدلال) یہ آیت پڑھی "اور (لوگو!) تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہم سے دعائیں مانگتے رہو ہم تمہاری (دعا) قبول کریں گے۔" ابن ابی شیبہ، سنن اربعہ، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان حاکم، احمد (عن نعمان بن بشیرؓ)

شرح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر کے الفاظ "الدعاء هو العبادة" مبالغہ کے طور پر دُعا کی اہمیت جتلانے کے لئے فرمائے ہیں کہ دُعا عبادت کا بہت بڑا رکن ہے جیسے دوسری حدیث میں ہے "الحج عرفة" یعنی حج (دراصل) عرفات ہی میں ٹھیرنے کا نام ہے تو یہ حصر مبالغہ کے طور پر ہے، نہ یہ کہ اور ارکان حج چھوڑ دیئے جائیں، ہاں! اگر عرفات میں قیام نہ کرے گا تو حج ہی نہ ہوگا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ (سورہ مومن آیت ۶۰) اور (لوگو!) تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہم سے دعا مانگتے رہو ہم تمہاری (دُعا) قبول کریں گے، جو لوگ (ہمارے غرور کے) ہماری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں عنقریب (میرے پیچھے ذلیل) خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اس آیت میں عبادت سے مُراد دُعا ہی ہے اور آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنے پر اجر و ثواب ہے اور نہ مانگنے پر خفگی و ناراضگی ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ فُتِحَ لَهٗ فِي الدُّعَاءِ مِنْكُمْ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يُّسْأَلَ الْعَافِيَةَ

تِ

ترجمہ: جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے واسطے قبولیت کے دروازے بھی کھول دیئے جاتے ہیں، ابن ابی شیبہ (عن علیؓ و ابن عمرؓ)

اس کے لئے بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، مستدرک حاکم (عن ابن عمرؓ)

اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دعا اس سے عافیت مانگنا ہے۔ ترمذی (عن ابن عمرؓ)

شرح: دعا کی توفیق ہوجانا ہی اس کے قبول ہونے کی علامت ہے، مختلف روایتوں کے یک جا ذکر کرنے میں ایک لطیف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ دعا بہرحال فائدہ سے خالی نہیں، یا قبولیت کا سبب ہوتی ہے، یا مانگی مراد ملتی ہے اور اگر مصلحت وقت کی بنا پر مطلب براری میں تاخیر ہوئی تو جزا ہاتھ سے نہیں جاتی، کیونکہ بہشت میں دروازے کھلنے کا سبب اور آخرت میں ذخیرہ ہوتی ہے، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى" آخرت دنیا سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔

اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی جن کی دعا دنیا میں مقبول نہ ہوئی ہوگی وہ جب اس نعمت کو جو آخرت میں ان کے لئے ذخیرہ ہوگی تو کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی کہ یہاں ثواب کا پورا پورا ذخیرہ پالیتے۔

عافیت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام ظاہری و باطنی آفات و مصائب اور رنج و آلام سے سلامتی کی دعا کرے۔

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ
وَحَبْ مُسْ لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا
نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ
فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُسْ رَطْسٍ

ترجمہ: دُعا کے سوا کوئی چیز تقدیر (کے فیصلہ) کو نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر بڑھا سکتی ہے، ترمذی، ابن ماجہ (عن سلمانؓ) ابن حبان، حاکم (عن ثوبانؓ)

(قضاؤ) قدر سے ڈرنا (کچھ) فائدہ نہیں دیتا، اور دعا اس (بلاء) سے بھی فائدہ دیتی ہے، جو نازل ہو چکی اور اس بلا سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے۔

اور بلا جب اُترنے کو ہوتی ہے اور دعا اس سے جا ملتی ہے، تو یہ دونوں قیامت تک آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں۔ حاکم، بزار، طبرانی فی الاوسط (عن عائشہؓ)

شرح: یہاں تقدیر سے بری چیز (بلا و مصیبت) مُراد ہے، جس کے آنے کو آدمی ہر حال میں بُرا سمجھتا ہے، جب اس کو دُعا کی توفیق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دُور کر دیتے ہیں یا اس قدر آسان کر دیتے ہیں جو بلا سے زلہ دور ہونے کے ہو جاتی ہیں۔

بِر کے ظاہری معنی طاعت و فرمانبرداری کے ہیں، جو ہر عبادت کو شامل ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: "وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ" (البقرہ رکوع ۲۲) لیکن (اصل) نیکی تو ان کی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔

پس حدیث کے دو معنی ہوں گے، اوّل یہ کہ عمر کی زیادتی مجازاً ہو، مثلاً تمام عمر خیر و طاعت میں بسر ہوئی، لہو و لعب میں ضائع و برباد نہیں ہوئی، تو گویا عمر زیادہ ہوئی، دوسرے یہ کہ عمر کی زیادتی حقیقتاً مراد ہو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ" (الرعد رکوع ۵) (پھر اس میں سے) خدا جس کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب (یعنی لوحِ محفوظ موجود) ہے (کہ اس میں سب کچھ لکھا رہتا ہے) مثلاً اللہ تعالیٰ نے "ام الکتاب" میں لکھ دیا کہ اگر فلاں شخص حج کرے گا تو اس کی عمر ساٹھ برس ہوگی اور اگر جہاد بھی کرے گا تو ساٹھ برس ہوگی، اگر اس نے (حج و جہاد) دونوں کئے اور اس کی عمر ساٹھ برس ہوگئی تو یہ عمر کی زیادتی ہے اور صرف حج کیا اور چالیس ہی برس عمر پائی تو یہ عمر کی کمی ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

جن بلا و مصیبت کا آنا تقدیرِ الٰہی میں مقدر ہو چکا ہے، وہ ڈرنے اور خوف کھانے سے ٹل نہیں سکتی البتہ دعا کرنے سے وہ بلا دُور ہو جاتی ہے، دعا ہمیشہ بلا و مصیبت کے ٹل جانے کا سبب بنتی ہے اور آلام و مصائب سے اس طرح بچاتی اور محفوظ رکھتی ہے جس طرح لڑائی میں سپر تیر کو روکتی اور اس کے ضرر و نقصان سے حفاظت کرتی ہے۔

بعتلجان : دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کشتی لڑتی ہیں، جنگ کرتی ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ تِ قَ حِبْ مُسْ
مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ تِ مُسْ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ غَضِبَ
عَلَيْهِ مُصْ لَا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ
حِبْ مُسْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ
وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ تِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز باعزت نہیں، (ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، عن ابی ہریرہؓ) جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ (ترمذی، حاکم، عن ابی ہریرہؓ)
دعا کرنے میں کوتاہی نہ کرو، اس لئے کہ دعا کے ساتھ ہرگز کوئی ہلاک نہیں ہوگا، (ابن حبان، حاکم، عن انسؓ) ـــــ جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختی اور غم کے وقت (بھی) قبول کرے تو اسے چاہئے کہ فراخی اور خوش حالی کے وقت خوب دعائیں کرے۔ (ترمذی، عن ابی ہریرہؓ)

شرح: قولی عبادتوں میں سے دعا سب سے بڑھکر عبادت ہے، اس لئے کہ اس میں عاجزی وانکساری، بیچینی وتڑپ، گریہ وزاری، آہ وبکا اور عبادتوں سے زیادہ ہوتا ہے، البتہ نماز اور روزہ جو کہ عبادت بدنیہ ہیں دعا سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اس لئے ناراض اور غصہ ہوتا ہے کہ دعا جو اس کی انتہائی محبوب ومرغوب چیز تھی اس نے اسے ٹھکرایا اور تکبر کیا۔
اس لئے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مربی ومحسن کو راحت ومصیبت، رنج وغم، تکلیف وآرام، تنگی وفراخی سب وقت یاد کرتا ہے اور اسی سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے، برخلاف مشرکوں اور کفاروں کے وہ مصیبتوں اور سختیوں میں تو اس سے دعائیں کرتے اور حاجتیں مانگتے ہیں اور خوش حالی وفراخی میں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کنارہ کش ہوجاتے ہیں "وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ" (پ ۲۴ حم سجدہ، رکوع ۶) اور جب ہم آدمی پر اپنا (فضل) وکرم کرتے ہیں تو (وہ ہماری طرف سے) منہ پھیر لیتا ہے اور (ہم سے) کنارہ کش ہوجاتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (لمبی) چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُسْ مَرَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ مُّبْتَلِيْنَ فَقَالَ اَمَا كَانَ هٰؤُلَاءِ يَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ ر

ترجمہ: دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان وزمین کی روشنی ہے، حاکم عن ابی ہریرہؓ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گذرے جو کسی بلا میں گرفتار تھی، آپؐ نے انھیں دیکھ کر فرمایا کیا یہ لوگ (آرام وراحت کے زمانہ میں) اللہ سے عافیت نہیں مانگا کرتے تھے؟ بزار (عن انسؓ)

شرح: دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمان وزمین کی روشنی اس لئے ہے کہ مومن دعا کے ذریعہ اپنی اور غیروں کی بلاؤ مصیبتیں دُور کرتا ہے اور اس سے ظاہر و باطن اور آسمان وزمین کی تاریکیاں جاتی رہتی ہیں۔

رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں نماز کو بھی دین کا ستون فرمایا ہے، تو اس میں اور اُس حدیث میں کوئی منافات نہیں ہے اس لئے کہ ایک چھت کے کئی کئی ستون ہوتے ہیں، علاوہ ازیں نماز کے اندر دعا بھی تو ہے۔

اس حدیث مبارک میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص فراخی و خوش حالی میں دُعا کا التزام کرتا ہے وہ بلا اور آفت سے محفوظ رہتا ہے اور جو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ بلا و مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَّنْصِبُ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِيْ مَسْأَلَةٍ اِلَّا أَعْطَاهُ اِيَّاهُ اِمَّا أَنْ يُّعَجِّلَهَا لَهٗ وَاِمَّا أَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهٗ

ترجمہ: جو کوئی مسلمان اللہ تعالےٰ کی طرف (کوئی چیز) مانگنے کے لئے اپنا منہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے یا تو مانگی مُراد مل جاتی ہے یا اس کے واسطے آخرت میں اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ مسند احمد (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی قبولیت کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو فوراً مانگی مراد مل جاتی ہے یا اس کے سبب سے آنے والی بلا ٹل جاتی ہے، یا گناہ معاف ہو کر آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، "وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ" (البقرۃ - رکوع ۲۶) اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بُری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ "وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ" (البقرۃ رکوع ۱۰) اور اللہ ہی باخبر ہے اور تم بے خبر ہو۔

بندہ اپنی بھلائی و بُرائی سے بے خبر ہے، اسے چاہئے کہ وہ ہر وقت اپنے منعم حقیقی کے حکم کی بجاآوری میں لگا رہے اور جو کچھ پیش آئے اسے اپنے پروردگار کا حکم سمجھے۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لطف و کرم سے شرفِ قبولیت سے نواز دیتا ہے۔

حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو بلائیگا اور اسکو سامنے کھڑا کر کے پوچھیگا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو مجھ سے دعا کرے اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا قبول کرونگا، کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہیگا ہاں اے پروردگار! پھر اللہ تعالیٰ فرمائیگا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جو میں نے قبول نہ کی ہو کیا تو نے فلاں دن دعا نہیں کی تھی؟ کہ تیرا وہ غم جس میں تو مبتلا تھا دُور کر دوں اور میں نے وہ غم تجھ سے دور کر دیا، وہ عرض کرے گا سچ ہے، اے پروردگار! پھر فرمائیگا وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی تھی کہ اس کو بھی دور کر دوں مگر تو نے اس غم سے چھٹکارا نہیں پایا، وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار! تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس دُعا کے بدلہ تیرے لئے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اسی طرح اور حاجتیں پوچھ کر بھی یہی فرمائے گا۔

پھر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نے کوئی دعا نہ کی ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ جلد قبول کرنا یا ذخیرہ رکھنا بیان نہ فرما دے، اُس وقت مومن یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، اس لئے بندہ کو ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہئے۔

اَلذِّکْرُ

ذکر کی فضیلت

قرآن مجید کی بے شمار آیتوں سے ذکر کی فضیلت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " فَاذْکُرُونِیْٓ اَذْکُرْکُمْ " البقرۃ۔ رکوع ۱۸۔ تم ہماری یاد میں لگے رہو کہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر (خیر) ہوتا رہے۔ " یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِیْرًا " (الاحزاب رکوع ۶) مسلمانو! کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔

سنیاں ابن ماجہ فرماتے ہیں مجھ حدیث قدسی پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " میں نے اپنے بندوں کو ایسی چیز دی ہے اگر جبریل و میکائیل کو دیتا تو ان کو بڑی نعمت دیتا "۔ اور وہ یہ آیت ہے: " فَاذْکُرُونِیْٓ اَذْکُرْکُمْ "

علامہ امام نووی کی مشہور تصنیف (ریاض، علوم الدین) میں ثابت بنانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں جس وقت میرا پروردگار مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ آپ کیونکر جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔

قاری شیخ علی متقی نے لکھا ہے۔ ذکر یہ ہے کہ انسان کو غفلت و نسیان سے نجات حاصل ہو جائے اور حق جل علی کے ساتھ حضور قلب کا دوام میسر آجائے اور ہمیشہ دل و زبان سے اللہ کا نام جاری رہے، افضل تو یہ ہے کہ ذکر دل و زبان دونوں سے ہو، اور اگر ایک سے ہو تو دل سے ذکر کرنا افضل ہے۔ علامہ امام نووی نے بھی شرح مسلم میں اسی طرح فرمایا ہے، ذکر خواہ اسم ذات یا اسم صفت یا حکم یا فعل کا ہو برابر ہے اور اس میں قاری، حافظ، متکلم، محدث، فقیہ، صوفی، مدرس، واعظ سب شامل ہیں۔

ذکر در اصل اضراب العبد کے وقتی تقاضوں اور ضرورتوں کے پورا کرنے کا نام ہے یعنی موجودہ وقت کا جو تقاضہ ہو اس کے مطابق اللہ کے حکم کی بجاآوری ذکر ہے، مثلاً اوقات نماز میں نماز ادا کرنا، تلاش معاش کے وقت پاک روزی حاصل کرنا، راحت و سکون کے وقت آرام لینا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: " فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (سورۃ الجمعہ) جب نماز ہو چکے تو (تم کو اختیار ہے کہ) اپنی اپنی راہ لو اور خدا کے فضل (یعنی معاش) کی جستجو میں لگ جاؤ۔ " وَجَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا وَّجَعَلْنَا الَّیْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا "۔ (سورۃ النبا) اور ہم ہی نے تمہاری نیند کو (موجب) راحت بنایا اور ہم ہی نے رات کو پردہ پوشش بنایا اور ہم ہی نے ان کو روزی کے دھندوں کا وقت بنایا۔

يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَ اَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْهُ الْحَدِيْث خ م ت س ق

ترجمہ: (حدیث قدسی ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو (اپنی رحمت و نصرت سے) اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں (بھی) اس کو دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر (ملائکہ کی) مجلس میں اُس کو یاد کرتا ہوں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: یعنی میرا بندہ جیسی مجھ سے اُمید رکھتا ہے ویسا ہی میں بھی اس سے برتاؤ کرتا ہوں، اس حدیث سے یہ مقصود ہے کہ اللہ سے خوف کی بہ نسبت اُمید زیادہ رکھنا چاہئے اور اس سے اچھا گمان رکھے اور ہمیشہ عفو کا طلبگار رہے، ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دوزخ میں لے جانے کا حکم فرمائے گا جب وہ دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا تو گھبرا جائے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار میرا گمان تو تیرے ساتھ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ہٹا لے جاؤ "انا عند ظن عبدی" میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔

اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں، اگر ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں چار ہاتھ قریب ہوجاتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں ذکر نفس سے دل میں ذکر کرنا یا زبان سے آہستہ پڑھنا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے جی میں یاد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا حال مخلوق پر پوشیدہ ہے یا میرا اس کو ملائکہ وغیرہ سب سے پوشیدہ اپنے آپ ہی ثواب عنایت فرما دے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر قلبی ذکر لسانی سے افضل ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ ذکر جس کو نامۂ اعمال لکھنے والے فرشتے نہ سن سکیں ستر درجہ افضل ہے اور یہ بھی آتا ہے "خیر الذکر الخفی" ذکر میں سے بہتر ذکر خفی ہے۔

امید و جلا کی حقیقت یہ ہے کہ حکم کے مطابق عمل کرے اور بخشش و کرم کا امیدوار رہے۔ بلا عمل کے امید رکھنا بے سود ہے۔ "وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ" سورہ مومنون رکوع ۴۔ اور جتنا کچھ دیتے بن پڑتا ہے (خدا کی راہ میں) دیتے اور (اس پر بھی) ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے (کیونکہ یہ دینا مطلقاً وہاں مقبول بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بندہ اگر اپنے رب کی طرف تھوڑا سا رجوع کرتا ہے تو وہاں سے توجہ التفات اور رحمت و شفقت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔

اَلَا اُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ اَعْمَالِکُمْ وَاَزْکَاھَا عِنْدَ مَلِیْکِکُمْ وَاَرْفَعِھَا فِیْ دَرَجَاتِکُمْ وَخَیْرٍ لَّکُمْ مِّنْ اِنْفَاقِ الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ وَخَیْرٍ لَّکُمْ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّکُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَھُمْ وَیَضْرِبُوْا اَعْنَاقَکُمْ قَالُوْا بَلٰی قَالَ ذِکْرُ اللّٰہِ تِ قَ مُسْ اَ

ترجمہ: کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتلاؤں؟ جو تمہارے مالک (پروردگار) کے نزدیک سب سے ستھرا ہے اور تمہارے (جنت کے) درجات میں سب سے بلند ہے اور وہ تمہارے لئے (دنیا میں) سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور نیز تمہارے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ (میدانِ جنگ میں) دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم ان کی گردنیں کاٹو، صحابہؓ نے عرض کیا ہاں بتلائیے! رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے! ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، احمد (عن ابی الدرداءؓ)

شرح: ذکر اس لئے بہتر ہے کہ تمام عبادات بدنی اور مالی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور ذکر ان میں سے مقصدِ اعلیٰ ہے، کیونکہ حدیثِ قدسی میں ہے "انا جلیس من ذکرنی" جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہمنشین ہوں۔

اذکار میں تلاوتِ قرآن سب سے افضل ہے، چنانچہ اس کی فضیلت اخیر کتاب میں آئے گی اور خالی ذکر سے علوم دینیہ کا پڑھنا پڑھانا بہتر ہے، ارشادِ نبوی ہے "فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم" عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ پر اس لئے کہ یہ ذکر بامعنی ہے اور عمل کا سبب ہے اور یہ مشہور ہے کہ عبادتِ متعدی عبادتِ لازم سے افضل و بہتر ہے، لیکن یہ حکم ذکر کے علاوہ اور عبادتوں کے ساتھ مخصوص ہے، ذکر اس سے مستثنیٰ ہے، ذکر کے متعلق یہ خیال کہ وہ عبادتِ متعدی نہیں، بعید از قیاس ہے "وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ"

عبادتِ متعدی وہ ہے جس کا نفع عام ہو کرنے والے کے علاوہ غیر کو بھی پہنچے، عبادتِ لازم وہ ہے جس کا نفع خاص کرنے والے ہی کی ذات کو ہو۔

مَاصَدَقَةٌ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ طَسٌ إِنَّ لِلّٰهِ مَلَآئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا الْحَدِيثَ خ مُرْتِ

ترجمہ: کوئی صدقہ (عمل صالح) اللہ کے ذکر سے بہتر نہیں، طبرانی فی الاوسط (عن ابن عباسؓ)
اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اہل ذکر کو راستوں میں گشت لگا کر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آجاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ملائکہ ان کو اپنے پروں سے آسمانِ دُنیا تک گھیر لیتے ہیں آخر حدیث تک فرمایا، بخاری، مسلم، ترمذی (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جس کے دینے میں اللہ سے ثواب کی امید ہو، یہ حدیث فقراء وصابرین کے لئے تسلی ہے۔
بقیہ حدیث یہ ہے کہ جب فرشتے جنابِ باری میں جاتے ہیں تو پروردگارِ عالم ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں" ملائکہ عرض کرتے ہیں، تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں اور تیری تعریف کر رہے ہیں اور تجھے بزرگی سے یاد کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انھوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں "خدا کی قسم انھوں نے تجھے نہیں دیکھا" رب العزت فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ عبادت کریں اور کثرت سے بزرگی و پاکی بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے" وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں" فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے بہشت مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "کیا انھوں نے بہشت دیکھی ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں "خدا کی قسم اے ہمارے پروردگار انھوں نے تیری بہشت نہیں دیکھی" پھر وہ فرماتا ہے اگر وہ بہشت دیکھ لیں تو کیا حال ہو عرض کرتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اسکی بے انتہا حرص رغبت کریں" پھر فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں عرض کرتے ہیں تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں" فرماتا ہے کیا انھوں نے دوزخ دیکھی ہے

ملائکہ عرض کرتے ہیں "خدا کی قسم انھوں نے اس کو نہیں دیکھا، پھر فرماتا ہے" اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو" عرض کرتے ہیں اگر اس کو دیکھیں تو اس سے بھاگیں اور بے انتہا خوف زدہ ہوں" پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے" میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ بخش دیئے" اُن میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو ذکر والوں میں صرف آ بیٹھا تھا، خود ذکر نہیں کر رہا تھا بلکہ کسی کام آیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی میری بخشش سے محروم نہیں رہتا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَثَلُ الَّذِیْ یَذْکُرُ رَبَّہٗ وَالَّذِیْ لَا یَذْکُرُ رَبَّہٗ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ
خَمْ مَا یَقْعُدُ قَوْمٌ یَذْکُرُوْنَ اللّٰہَ اِلَّا حَفَّتْھُمُ الْمَلٰٓئِکَۃُ
وَغَشِیَتْھُمُ الرَّحْمَۃُ وَنَزَلَتْ عَلَیْھِمُ السَّکِیْنَۃُ وَذَکَرَھُمُ اللّٰہُ
فِیْمَنْ عِنْدَہٗ مُرْتِ قَ

ترجمہ: جو شخص اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال مُردہ اور زندہ کی سی ہے۔ بخاری، مسلم (عن ابی موسی الاشعریؓ)

جب کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے سکینہ دلوں پر اترآتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ مسلم، ترمذی ابن ماجہ (عن ابی سعیدؓ)

شرح: ذکرؔ ذاکر کے دل کی حیات ہے اور اس سے غفلت موت ہے جس طرح زندہ آدمی اپنی زندگی سے بہرہ مند ہوتا ہے اسی طرح ذاکر اپنے ذکر سے فائدہ اُٹھاتا ہے اور غافل جس کو اپنے عمل سے فائدہ نہیں مُردہ کی طرح ہے جس کو زندگی سُود مند نہیں، شعر

زندگانی نتواں گفت حیاتی کہ مراست ✻ زندہ آنست کہ با دوست وصالے دارد

سکینہؔ سے دل جمعی مراد ہے جس کے سبب سے دنیا کی خواہشات اور ماسوائے اللہ کی لذت سہل جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ حضور حاصل ہو جاتا ہے۔

اللہؔ تعالیٰ ان مقرب فرشتوں میں جنھوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرتے وقت کہا تھا کہ تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو دنیا میں فتنہ و فساد شر و خونریزی کرے گا؟ بطورِ فخر ذکر فرماتا ہے کہ باوجود نفس کی خواہشات شیطانی وکاوٹوں اور دیگر علائق کے ہمارے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَآئِعَ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَنْبِئْنِيْ
بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهٖ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
تِ قَ حِبْ مُسْ مُصْ اٰخِرُ كَلَامٍ فَارَقْتُ عَلَيْهِ رَسُوْلَ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ قُلْتُ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى
اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ حِبْ رَطْ قُلْتُ
يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ مَا اسْتَطَعْتَ
وَاذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَّشَجَرٍ وَّمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوْٓءٍ
فَاَحْدِثْ لِلّٰهِ فِيْهِ تَوْبَةً اَلسِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ ط

ترجمہ: (ایک صحابیؓ نے عرض کیا) یارسول اللہؐ اسلام کے احکام مجھ پر (افضلیت میں) بہت ہو گئے ہیں، مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں اعتماد و بھروسہ کروں۔ آپؐ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ (عن عبداللہ بن بسرؓ)

(حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں) آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا یہ تھی کہ میں نے عرض کیا، اللہ کو سب سے پیارا عمل کونسا ہے؟ آپؐ نے فرمایا (وہ یہ ہے) کہ تم دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ (عن معاذ بن جبلؓ)

(حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمایئے، آپؐ نے فرمایا جتنا ہو سکے تقویٰ اختیار کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، جو کچھ برائی (گناہ و غفلت) کی ہو، اس کی اللہ ہی سے توبہ کر، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ، ظاہری گناہ کی ظاہری توبہ۔ طبرانی فی الکبیر (عن معاذؓ)

شرح: شرائع اسلام سے مراد اسلام کی علامتیں ہیں جیسے نوافل وغیرہ جو مسلم کے حسن اسلام پر دلالت کرتی ہیں، کثرت کا یہ مفہوم ہے کہ تعداد میں اس حد کو پہنچ گئی ہیں کہ ان سب کے کرنے سے تو عاجز و قاصر ہوں اور اگر بعض کرتا ہوں تو یہ پریشانی ہے کہ کونسی افضل و بہتر ہے جس کو اختیار کروں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

زبان کا تر رہنا، سہولت، آسانی اور زبان کی روانی سے کنایہ ہے، جس طرح زبان کی خشکی سے کنایہ اس کے رُکنے کا ہوتا ہے، زبان سے دل کی زبان مُراد ہے کیونکہ منہ کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر نہیں رہ سکتی یا مبالغہ کے طور پر "لسانک" منکی زبان فرمایا ہے، یا یہ کہ بقدرِ طاقت تر رکھنی چاہئے، یا یہ کہ دل وزبان دونوں متفق رہیں، یہ نورٌ علیٰ نور ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکرِ الٰہی زبان کا خلاصہ ہے اور اس کا مدار حسن خاتمہ پر ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے جو بندہ "لا الٰہ الا اللہ" کہے اور اسی کلمہ پر مرجائے تو وہ بہشت میں داخل ہوگا اور زندگی میں ذکر کا التزام موت کے وقت ذکر کا سبب ہوتا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے "کما تعیشون تموتون کما تموتون تحشرون" جس طرح زندگی بسر کی اسی طرح مروگے اور جس طرح مروگے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔

غالباً حضرت معاذ بن جبلؓ نے یہ دونوں باتیں یمن جاتے وقت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھیں، تقویٰ کے معنی ہیں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور خواہشاتِ نفس کی پیروی اور ارتکابِ فواحش سے بچنا اور حقیقت میں تقویٰ یہ ہے کہ حدودِ الٰہیہ کو حفاظت کرے، اس کے عہد وپیمان کو پورا کرے، شریعتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرے۔

تقویٰ کی دو قسمیں ہیں عوام کا تقویٰ، خواص کا تقویٰ، عوام کا تقویٰ تو یہی ہے کہ احکامِ الٰہیہ کی اطاعت کریں اور ممنوعات سے بچتے رہیں، خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ راضی بہ رضا رہیں۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ متقی وہ شخص ہے جو اپنے حق میں خدا کے سوا کسی سے نیکی کی اُمید نہ رکھے۔

ہر سبز پتھر اور درخت کے پاس یاد کرنے سے "مقامِ مشاہدہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز سے اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، جس پر نظر پڑے یہ جانے کہ اسی کی قدرتِ کاملہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا خالق اور بنانے والا ایک ہی ہے جس کا کوئی ہمسر وشریک نہیں۔

مجرّد گناہ صادر ہونے سے توبہ کرنی واجب ہے، امام نوویؒ سے منقول ہے، گناہ کے بعد بغیر تاخیر توبہ کرنا واجب ہے، خواہ صغیرہ گناہ ہی ہو، اگر توبہ میں تاخیر کرے گا تو ترکِ واجب کا دوسرا گناہ اس کے ذمہ لازم ہوگا۔

جس طرح گناہ کیا ہے اسی طرح توبہ کرے، اگر گناہ پوشیدہ کیا تھا تو توبہ بھی پوشیدہ کرے اور اگر ظاہر میں کیا تو توبہ بھی ظاہر میں کرے، یہی مستحب ہے۔

مَا عَمِلَ آدَمِیٌّ عَمَلًا اَنْجٰی لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط
اَمُصَّ قَالُوْا وَلَا الْجِهَادُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِیْ
سَبِیْلِ اللّٰهِ اِلَّا اَنْ یَّضْرِبَ بِسَیْفِهٖ حَتّٰی یَنْقَطِعَ قَالَهٗ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ
طٰمٓصٓ طٰسٓمٓ صٓطٰ لَوْ اَنَّ رَجُلًا فِیْ حَجْرِهٖ دَرَاهِمَ یُقْسِمُهَا
وَاٰخَرُ یَذْكُرُ اللّٰهَ كَانَ الذَّاكِرُ لِلّٰهِ اَفْضَلَ ط

ترجمہ، آدمی کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو ذکر الٰہی سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو، طبرانی فی الکبیر احمد ابن ابی شیبہ (عن معاذؓ)

صحابہؓ نے عرض کیا "اور نہ جہاد اللہ کے راستہ میں"؟ آپ نے فرمایا "ہاں، نہ جہاد اللہ کے راستہ میں" مگر یہ کہ اپنی تلوار سے (دشمن خدا کو) یہاں تک مارے کہ وہ ٹوٹ جائے آپ نے اسے تین بار فرمایا، طبرانی فی الکبیر، ابن ابی شیبہ، طبرانی فی الاوسط والصغیر (عن معاذؓ وجابرؓ)

اگر ایک آدمی کی گود میں درہم ہوں جن کو وہ تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا محض اللہ کا ذکر کرتا ہو تو ذاکر اس سے افضل و اعلیٰ ہے، طبرانی فی الکبیر (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

شرح: قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے بچانے والا ذکر کے برابر کوئی دوسرا عمل نہ ہوگا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہ ہو سکے گا، محدثینؒ نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ وہ جہاد جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس سے نرا اللہ کا ذکر بہتر ہے لیکن جس جہاد میں اللہ کا ذکر بھی ہو وہ مطلق ذکر کرنے سے بہتر و اعلیٰ ہے، حاصل یہ ہے کہ خالی ذکر دوسری تری عبادتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔

"قالہ ثلث مرات" اسے تین بار فرمایا، اس کے تین معنی ہیں یا تو آپ نے "ولا الجهاد فی سبیل الله" اور نہ جہاد اللہ کے راستے میں تین بار فرمایا یا "الا ان یضرب بسیفه" مگر یہ کہ وہ اپنی تلوار سے مارے تین بار فرمایا یا "حتی ینقطع" یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے تین بار فرمایا

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل ذکر کرنا ہے۔

ذاکر اس لئے افضل و اعلیٰ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں اور بندہ کے لئے اللہ کا یاد کرنا ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے۔

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ تِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ قِيلَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَهْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

حِبْ طَ صِ

ترجمہ: جب تم بہشت کے باغوں میں گذرو تو جی بھر کر کھاؤ پیو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا "یارسول اللہ! بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا "ذکر کی مجلسیں" ترمذی (عن انس رضی)

حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اہل کرم (جن پر اللہ عزوجل انعام فرمائے گا) کون ہیں؟ دریافت کیا گیا یارسول اللہ! اہل کرم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مساجد میں ذکر کی مجلسیں کرنے والے، ابن حبان، طبرانی فی الکبیر، ابویعلی (عن ابی سعید الخدری رضی)

شرح: یعنی جب تم ذکر کرنے والوں کے پاس سے گذرو تو تم بھی ان کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاؤ یا سننے کے لئے بیٹھ جاؤ کیونکہ وہ اب بھی جنت کے باغوں میں ہیں اور آپ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ" جو شخص (اعمال کی جواب دہی کے لئے) اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کو بہشت کے دو باغ ملیں گے، بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ ایک جنت دنیا میں ہے یعنی ذکر کی مجلسیں، دوسری آخرت میں

فَارْتَعُوا کے معنی ہیں تم چرو، ذاتی سے کھاؤ پیو، بعض حضرات نے اس کے معنی "میوہ کھاؤ" کے ہیں، یعنی وہ عمل کرو جو جنت میں میوہ کھانے کا سبب بنے، جیسے تسبیح، تحمید، تہلیل، اس لئے کہ دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں گذرو تو چر لو۔ حضرت ابوہریرہ رضی نے عرض کیا وہ باغ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں، پھر دریافت کیا چرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الٰہ الا اللہ، اللہ اکبر

علامہ ملا قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر تر یہ ہے کہ یہاں مطلق ذکر کے حلقے مراد ہیں، مگر مطلق ذکر کے حلقوں سے مساجد کے ذکر کے حلقے بہتر و افضل ہیں۔

علامہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جس طرح ذکر کرنا مستحب ہے اسی طرح ذکر کے لئے حلقے میں بیٹھنا بھی مستحب ہے۔

اہل کرم وہ حضرات ہیں جنہوں نے ذکر الٰہی کے لئے مساجد میں ذکر کے حلقے اور درس و تدریس کی مجلسیں قائم کی ہیں، ارشاد باری ہے رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكٰوةِ النور رکوع ۵۔ ایسے لوگ خدا کے نام کی تسبیح (و تقدیس) کرتے رہتے ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت

۴ خدا کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتے پائی۔

مَا مِنْ اٰدَمِیٍّ اِلَّا لِقَلْبِهٖ بَیْتَانِ فِیْ اَحَدِهِمَا الْمَلَكُ وَفِی الْاٰخَرِ الشَّیْطَانُ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا لَمْ یَذْكُرِ اللّٰهَ وَضَعَ الشَّیْطَانُ مِنْقَارَهٗ فِیْ قَلْبِهٖ وَوَسْوَسَ لَهٗ مُصْ

ترجمہ: ہر آدمی کے دل میں دو مکان ہیں، ایک میں فرشتہ (رہتا) ہے، دوسرے میں شیطان، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ (یعنی منہ) اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ ابن ابی شیبہ (عن عبداللہ بن شقیقؒ)

شرح: انسان جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دل غفلت میں رہتا ہے، جب ذکر الٰہی سے غفلت برتتا ہے تو شیطان ہر طرح بہلاتا پھسلاتا ہے اور برائی کو اس پر خوشنما کرتا ہے، پھر جب تک وہ ذکر نہیں کرتا اس کا یہی حال رہتا ہے۔

دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے ہر ایک کے دو ساتھی مقرر کئے گئے ہیں۔ ایک جن دوسرا فرشتہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے لئے بھی؟ فرمایا میرے لئے بھی! لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہوگیا اب وہ مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے کہ ایک عارف نے اللہ سے درخواست کی کہ اسے شیطان کے وسوسہ کی کیفیت دکھلادے تو (خواب میں) اس بزرگ نے دیکھا کہ شیطان بائیں شانہ کی ہڈی کے نیچے مچھر کی سی سونڈ لئے بیٹھا ہے اور اسی سونڈ کو آدمی کے دل میں رکھکر اسکو وسوسہ میں ڈالتا ہے۔

خنس = پیچھے ہونا، کرنا، علیحدہ ہونا، کرنا، منکر کرنا، سمیٹنا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ اِنْقَلَبَ بِاَجْرِ حَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ ط ذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِيْنَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الْفَارِّيْنَ رَطْس

ترجمہ: جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا، پھر دو رکعت نماز ادا کی تو اس کو ایک حج اور عمرہ کا پورا پورا ثواب ہوگا۔ ترمذی (عن انسؓ)

وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لے کر واپس ہوتا ہے (عن ابی امامہؓ) طبرانی فی الکبیر

غفلت شعاروں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا میدانِ جنگ سے بھاگنے والوں میں صابر غازی، بزار، طبرانی فی الاوسط (عن ابن مسعودؓ)

شرح: یعنی جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر طلوعِ آفتاب تک اللہ کے ذکر میں برابر مشغول رہے، خواہ بیٹھکر یا کھڑے ہوکر یا لیٹ کر تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن بیٹھکر ذکر کرنا افضل ہے، ہاں اگر کوئی دوسری عبادت پیش آجائے، مثلاً طواف کعبہ یا نماز جنازہ یا درسِ قرآن و حدیث وغیرہ تو ایسی صورت میں بیٹھا رہنا افضل نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ کا التزام ضروری نہیں بلکہ جہاں چاہے ذکر کرے، خواہ گھر ہو یا دوکان یا مسجد، کیونکہ مقصود صرف اس وقت کا ذکر میں مشغول رہنا ہے، مگر افضل و بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھکر ذکر کرتا رہے۔

یعنی لوگ اپنی دنیوی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں مصروف ہوں اور وہ حصولِ آخرت کے لئے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں۔

میدانِ جنگ سے اگر لوٹ آنا جائز ہو تب بھی صبر و استقلال سے جمارہنا بڑی عظمت ہے اور اس کا بڑا مرتبہ ہے، ارشادِ باری ہے "اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ" اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَامِنْ قَوْمٍ جَلَسُوْا مَجْلِسًا وَّتَفَرَّقُوْا مِنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ اِلَّا كَانَمَا تَفَرَّقُوْا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَّكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُسْنَدٌ حِبَّانَ وَمَا مَشٰى اَحَدٌ مَّمْشًى لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا اَوٰى اَحَدٌ اِلٰى فِرَاشِهٖ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ۝ سَ اَحِبْ

ترجمہ: جب لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں اور وہاں سے بلا اللہ کا ذکر کئے جُدا ہو جائیں تو گویا وہ گدھے کی لاش سے علیحدہ ہوئے اور یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لئے حسرت وافسوس کا باعث ہوگی، حاکم، ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان، احمد، نسائی (عن ابی ہریرہؓ)۔

جب کوئی آدمی کسی راستہ پر سے گذرا اور (اس میں) اللہ کا ذکر نہ کیا تو (یہ غفلت قیامت کے دن) اس کے واسطے حسرت وافسوس کا سبب ہوگی اور جو کوئی اپنے بستر پر سویا اور اللہ کا نام نہ لیا تو اس کے لئے (ایک دن اس ذکر کا چھوڑنا) حسرت وافسوس کا باعث ہوگا۔ نسائی، احمد، ابن حبان (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: ان احادیث میں غفلت و بے توجہی سے نفرت اور ذکر الٰہی کی طرف رغبت وشوق دلانا مقصود ہے، اسی لئے جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کو مردار گدھے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح دنیا میں مردار گدھا کسی کام کا نہیں اسی طرح وہ مجلس آخرت میں بے سُود ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان میں ذکر الٰہی کے علاوہ ہر چیز سے گونگا ہوتا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

إِنَّ الْجَبَلَ يُنَادِي الْجَبَلَ بِاسْمِهِ أَيْ فُلَانُ هَلْ مَرَّ بِكَ أَحَدٌ ذَكَرَ اللهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ اسْتَبْشَرَ الْحَدِيثَ ط إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْأَهِلَّةَ وَالنُّجُومَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ مُسْ لَيْسَ يَحْسَرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ تَعَالَى فِيهَا طَ ی

ترجمہ: ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لیکر آواز دیتا ہے (اور پوچھتا ہے) اے فلاں! کیا کوئی تجھ پر (ایسا آدمی) گذرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا ہو؟ جب وہ (جواب میں) ہاں کہتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے" الحدیث" آخر حدیث تک فرمایا۔ طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو چاند، سورج، ستاروں اور سایوں کا صرف اللہ کے ذکر کے واسطے خیال رکھتے ہیں (عن عبداللہ بن اوفیؓ)

جنتی قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے کسی چیز پر حسرت نہیں کرینگے مگر اس گھڑی پر جو ان پر بغیر ذکر خداوندی کے گذر گئی، طبرانی، ابن سنی (عن معاذؓ)

شرح حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ہر صبح و شام زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی نے تجھ پر نماز ادا کی ہے یا ذکر کیا ہے جب وہ جواب دیتا ہے ہاں! تو یہ ٹکڑا اسے اپنے سے بہتر و افضل سمجھتا ہے کیونکہ ذکر الٰہی سے رحمت اترتی ہے اور وہ اس نعمت سے محروم رہا۔

بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو زمین کا وہ حصہ جہاں اس نے اپنے مولا کے حقیقی کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کیا تھا یا ذکر وغیرہ سے اپنی عاجزی، انکساری اور ذلت کا ثبوت دیا تھا، قیامت کے روز جب کوئی گواہی دینے والا نہیں ملے گا یہ پروردگار کے سامنے اس کا گواہ ہوگا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس پر روتا اور گریہ وزاری کرتا ہے۔

یعنی آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کے طلوع و غروب اور رفتار کو پہچانتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کونسا وقت ہیں عبادت مثلاً نماز روزہ وغیرہ صحیح ہے اور کن اوقات میں مکروہ ہے اور اپنے تمام اوقات اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں۔

جنتیوں کی یہ حسرت ان کے جنت میں داخل ہونے سے پیشتر ہوگی، کیونکہ جنت میں نہ حسرت ہوگی نہ افسوس وہاں تو عین ہی چین ہوگا، دنیا ایک ساعت کی طرح ہے جو ذکر الٰہی سے خالی رہی چاہیے تاکہ قیامت میں حسرت و ندامت نہ ہو۔

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ حِبَّ اَصِيْ كَانَ يَأْمُرُ اَنْ يُّرَاعَى التَّكْبِيْرُ وَالتَّقْدِيْسُ وَالتَّهْلِيْلُ وَاَنْ يُّعْقَدَ بِالْاَنَامِلِ قَالَ لِاَنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُّسْتَنْطَقَاتٌ دَتِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ مُصْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَمِيْنِهٖ سَ

ترجمہ: اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ دیوانہ کہے جانے لگو، ابن حبان، احمد، ابویعلی ابن سنی (عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، سبحان الملک القدوس اور لا الہ الا اللہ کی نگرانی کی جائے اور انھیں انگلیوں پر شمار کیا جائے، اس لئے کہ (قیامت کے روز) ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور انھیں گویائی دیکر بلوایا جائے گا، ابوداؤد، ترمذی (عن یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ عنہا)

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہوکر فرمایا) اے عورتو! سبحان اللہ، سبحان الملک القدوس، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے غافل مت ہو ورنہ رحمت سے فراموش کردی جاؤ گی، ابن ابی شیبہ (عن یسیرہ بنت یاسر رضی اللہ عنہا)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر "سبحان اللہ" شمار کرتے دیکھا ہے، نسائی (عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ)

شرح: یعنی اس کثرت سے اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہو کہ لوگ اپنی کم سمجھی اور جہالت کی بنا پر ذاکرین کو دیوانہ کہنے لگیں، یہ ذکر کی دیوانگی انبیاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفت ہے، ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت امام بصریؒ سے صحابہؓ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم انھیں دیکھتے تو دیوانہ کہتے اور وہ تمہیں دیکھتے تو مرتد جانتے، بادشاہ ہرقل نے جس وقت اپنے قاصد سے صحابہؓ کے حالات دریافت کرائے تو اس نے آکر جواب میں یہ کہا: "باللیل رھبان و باالنھار فرسان" یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو رات کو عبادت گذار ہیں اور دن کو شہسوار، ذاکر کو چاہئے اپنے ذکر میں مصروف رہے، لوگوں کے کہنے کا کچھ خیال نہ کرے کیونکہ بہت سے احمق اور جاہل انبیاء علیہم السلام کو بھی دیوانہ کہا کرتے تھے، چنانچہ ارشاد باری ہے "وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ

الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ" اور (اے پیغمبر کفار مکہ تم سے اس طرح خطاب کرکے) کہتے ہیں کہ اے شخص جس کے ذہن میں یہ خبط سمایا ہے کہ اس) پر (خدا کے ہاں سے) قرآن نازل ہوا ہے تو تو دیوانہ ہے، سورۃ الحجر رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیس" کے سبحان الملک القدوس، سبوح قدوس، سبحان اللہ وبحمدہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وغیرہ الفاظ مروی ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے انھیں انگلیوں پر شمار کرکے پڑھا کرو، چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس نے ہر فرض کے بعد تینتیس ۳۳ بار سبحان اللہ، تینتیس ۳۳ بار الحمد للہ، چونتیس ۳۴ بار اللہ اکبر پڑھا تو اس کو کہنے والا یا کرنے والا نا کام نہیں رہ سکتا (صحیح مسلم) اور نیز رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ستر ستر اور سو سو مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تسبیحات وغیرہ کا انگلیوں پر شمار کرکے پڑھنا مستحب ہے۔

عورتوں کو اس لئے علیحدہ خطاب فرمایا کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے بہت سے فرائض کے ادا کرنے میں قاصر رہتی ہیں تو کم از کم ان تسبیحات سے جن کا بے انتہا اجر و ثواب ہے محروم نہ رہیں اور اپنے اوقات ذکر الٰہی میں گذاریں اور " فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ" کے گروہ میں شریک ہوں اور "كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ" طٰہٰ رکوع ۷ (خدا) فرمائے گا ایسا ہی (ہونا چاہئے تھا دنیا میں) ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں مگر تو نے ان کی کچھ خبر نہ لی اور اسی طرح آج تیری (بھی) خبر نہ لی جائے گی، والی جماعت سے محفوظ رہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً وَسَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرَّتٍ قَالَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ مُرَّقَالَ الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِيْ ذِكْرِ اللّٰهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خِفَافًا تِ

ترجمہ: آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا نماز فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الٰہی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا رہنا، حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی نسل کے چار غلام آزاد کر دینے سے زیادہ پسند ہے اور (نیز) نماز عصر سے غروب آفتاب تک ذاکرین کے ہمراہ بیٹھنا چار غلام آزاد کر دینے سے زیادہ محبوب ہے ابوداؤد (عن انس)

(رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) تنہا چلنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ تنہا چلنے والے کون ہیں؟ مسلم، ترمذی (عن ابی ہریرہؓ) آپ نے فرمایا بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں (مسلم)

آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کے شائق و مشتاق (کیونکہ) ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے (اور) وہ قیامت کے دن (دربار الٰہی میں گناہوں سے) ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ ترمذی (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی نسل کا اس لئے ذکر فرمایا کہ وہ تمام عرب سے حسب و نسب میں بڑھ چڑھ کر ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر کے اوقات کی تخصیص اس لئے لگائی کہ یہ دنیوی مشغولیت و مصروفیت کے ہوتے ہیں اور نامۂ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی انہی اوقات میں جمع ہوتے اور بدلتے ہیں تاکہ لوگ ان اوقات کو ضائع نہ کریں

اور ذکر میں مشغول رہیں، آپ نے ان اوقات کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، خود ارشاد باری ہے "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ" کہف رکوع ۴ اور (اے پیغمبر) جو لوگ صبح وشام اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھنے بیٹھنے پر) اپنے نفس کو مجبور کرو۔

"راکبٌ مفرد" لغت میں اُس سوار کو کہتے ہیں جس کے پاس سواری کے سوا کچھ نہ ہو، آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے مفرد کے دو معنی فرمائے، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کے ذکر کا فریفتہ و شیدا، دونوں تقریباً ہم معنی ہیں کیونکہ جو کثرت سے ذکر کرے گا وہ ضرور فریفتہ ہوگا اور جو شائق ہوگا وہ یقیناً کثرت سے ذکر کرے گا اور اصل تنہائی تو نفس کی وہ تنہائی ہے جو اللہ کے ذکر کے لئے ہو یعنی (تعلق مع اللہ) اللہ کا وہ تعلق جس سے غفلت نہ ہو اور اگر غفلت ہو بھی جائے تو فوراً ہوشیار ہو کر ذکر میں لگ جائے، یہاں کثرت سے ہمیشگی و داومت مراد ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اور صبح وشام سوتے جاگتے، لیٹتے بیٹھتے ذکر کرنے سے ذکر کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللّٰهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتّٰى إِذَا أَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى تِ حِبُّ مُسْ لَيَذْكُرَنَّ اللّٰهَ قَوْمٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلٰى صِ إِنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ مَوْمُصْ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پانچ چیزوں کا حکم دیا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی کرائیں (اور آپ نے پوری حدیث بیان فرمائی) یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے (بنی اسرائیل سے) فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس (ذاکر) کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن دوڑتا ہوا نکلا اور اس نے ایک مضبوط قلعہ پر پہنچکر اپنے آپ کو بچالیا، اسی طرح بندہ اپنے آپ کو بغیر ذکر خداوندی کے شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ (ترمذی، ابن جنان، حاکم (عن الحارث الاشعریؓ)

خدا کی قسم دنیا میں ایک جماعت اللہ کو نرم و نازک بستروں پر یاد کرتی ہے جنھیں اللہ بلند جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ ابویعلی (عن ابی سعید الخدریؓ)

جو لوگ ہمیشہ اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ابن ابی شیبہ (عن ابی الدرداءؓ)

شرح: محدثینؒ نے "پانچ کلمات" کی تشریح توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور ذکر سے کی ہے۔

یہ حدیث بادشاہ، امراء اور ان دولتمند حضرات کے بارے میں ہے جن کو اس دنیا کی آسائش و راحت اپنے منعم حقیقی کی یاد سے غافل نہیں کرتی اس کی جزا میں انھیں دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ السجدہ رکوع ۲۔ (رات کے وقت) ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوئے (اور عذاب کے) خوف اور (رحمت کی) اُمید سے اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے اور جو کچھ (بھی) ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے (راہِ خدا میں) خرچ کرتے ہیں تو کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے (نیک عملوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پردۂ غیب میں موجود ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اٰدَابُ الدُّعَاءِ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ اَنْ يَّكُوْنَ رُكْنًا وَّ اَنْ يَّكُوْنَ
شَرْطًا وَّاَنْ يَّكُوْنَ غَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ مَّامُوْرَاتٍ وَّ مَنْهِيَّاتٍ وَّغَيْرِهَا
وَهِيَ تَجَنُّبُ الْحَرَامِ فِي الْمَاْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَكْسَبِ مُ
تِ وَالْاِخْلَاصُ لِلّٰهِ تَعَالٰى مُسْ وَتَقْدِيْمُ عَمَلٍ صَالِحٍ وَذِكْرُهٗ
عِنْدَ الشِّدَّةِ مُرْتِ دَ وَالتَّنَظُّفُ وَالتَّطَهُّرُ عَهٗ حِبْ مُسْ
وَالْوُضُوْءُ عَ وَاِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عَ وَالصَّلٰوةُ عَهٗ حِبْ مُسْ
وَالْجُثُوُّ عَلَى الرُّكَبِ عَوْ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَوَّلًا وَّاٰخِرًا عَ
وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذٰلِكَ دَتِ سَ
حِبْ مُسْ وَبَسْطُ الْيَدَيْنِ تِ مُسْ وَرَفْعُهُمَا عَ وَاَنْ
تَكُوْنَ رَفْعُهُمَا حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ دَ اَمْسُ وَكَشْفُهُمَا مَوَ وَالتَّاَدُّبُ مُ دَتِ سَ
وَالْخُشُوْعُ مَوْ مُصْ وَالتَّمَسْكُنُ مَعَ الْخُضُوْعِ تِ وَاَنْ لَّا يَرْفَعَ بَصَرَهٗ اِلَى
السَّمَآءِ مُسْ وَاَنْ يَّسْاَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى بِاَسْمَآئِهِ الْحُسْنٰى وَصِفَاتِهِ
الْعُلٰى حِبْ مُسْ وَاَنْ يَّتَجَنَّبَ السَّجْعَ وَتَكَلُّفَهٗ خَ وَاَنْ لَّا
يَتَكَلَّفَ التَّغَنِّيَ بِالْاَنْغَامِ مَوْ وَاَنْ يَّتَوَسَّلَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَنْبِيَآئِهٖ
خَ رَمْسُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهٖ خَ وَخَفْضُ الصَّوْتِ

ع وَالْاِعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ ع وَاخْتِيَارُ الْاَدْعِيَةِ الصَّحِيْحَةِ الْمَاثُوْرَةِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّهٗ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً اِلٰى
غَيْرِهٖ دس وَتَخَيُّرُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ د وَاَنْ يَّبْدَاَ بِنَفْسِهٖ
وَاَنْ يَّدْعُوَ لِوَالِدَيْهِ وَاِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ م وَاَنْ لَّا يَخُصَّ
نَفْسَهٗ بِالدُّعَاءِ اِنْ كَانَ اِمَامًا دت ق وَاَنْ يَّسْاَلَ بِعَزْمٍ
ع وَاَنْ يَّدْعُوَ بِرَغْبَةٍ حب عو وَاَنْ يُّخْرِجَهٗ مِنْ قَلْبٍ بِجِدٍّ
وَّاجْتِهَادٍ وَّاَنْ يُّحْضِرَ قَلْبَهٗ وَيُحْسِنَ رَجَاءَهٗ مس وَاَنْ يُّكَرِّرَ
الدُّعَاءَ خ م وَاَقَلُّهُ الثَّلٰثُ دى وَاَنْ يُّلِحَّ فِيْهِ س
مس عو وَاَنْ لَّا يَدْعُوَ بِاِثْمٍ وَّلَا قَطِيْعَةِ رَحِمٍ م ت
وَاَنْ لَّا يَدْعُوَ بِاَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ س وَاَنْ لَّا يَعْتَدِيَ فِي الدُّعَاءِ
بِاَنْ يَّدْعُوَ بِمُسْتَحِيْلٍ اَوْ مَا فِيْ مَعْنَاهُ خ وَاَنْ لَّا يَتَجَرَّعَ خ دس
ق وَاَنْ يَّسْاَلَ حَاجَاتِهٖ كُلَّهَاتٍ حب وَتَاْمِيْنُ الدَّاعِيْ وَ
الْمُسْتَمِعِ خ م د س وَمَسْحُ وَجْهِهٖ بِيَدَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهٖ د ت
حب ق مس وَاَنْ لَّا يَسْتَعْجِلَ بِاَنْ يَّسْتَبْطِئَ الْاِجَابَةَ اَوْ يَقُوْلَ
دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ خ م د س ق

toobaa-elibrary.blogspot.com

دُعا کے آداب

ترجمہ: آداب دعا میں سے بعض کو رکنیت کا درجہ حاصل ہے اور بعض کو شرط کا اور ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے (مامورات) اور کچھ ایسے ہیں جن کے کرنے سے روکا گیا ہے (منہیات) اور وہ سب تتالیس ۴۳ ہیں۔

آداب دُعا یہ ہیں: (اوّل) کھانے، پینے، پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا مسلم، ترمذی، (عن ابی ہریرۃؓ) (دوسرے) اخلاص، حاکم (تیسرے) دُعا سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت اپنی کی ہوئی نیکی یاد کرنا مسلم، ترمذی، ابوداؤد (عن ابن عمرؓ) (چوتھے) پاک صاف ہونا (طہارت) سنن اربعہ ابن حبان، حاکم (عن ابی بکر الصدیقؓ) (پانچویں) وضو کرنا، صحاح ستہ (عن ابی موسی الاشعریؓ) (چھٹے) قبلہ کی طرف مُنہ کرنا، صحاح ستہ (عن عبداللہ بن زید بن عاصم المزنیؓ) (ساتویں) (دُعا سے پہلے) نماز پڑھنا سنن اربع، ابن حبان، حاکم (عن ابی الصدیقؓ) (آٹھویں) دونوں ہتھیلیاں، ابوعوانہ (عن عامر بن خارجہؓ) (نویں) دُعا کے اوّل و آخر اللہ کی حمد و ثنا کرنا، صحاح ستہ (عن انسؓ) (دسویں) اسی طرح رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر دُعا سے پہلے درود بھیجنا، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن فضالہؓ) — (گیارہویں) دونوں ہاتھوں کا پھیلانا، ترمذی، حاکم (عن ابی الدرداءؓ) (بارہویں) دونوں ہاتھوں کا اُٹھانا، صحاح ستہ (عن ابی حمید الساعدی وانسؓ) (تیرہویں) ہاتھ مونڈھوں کے برابر اُٹھانے چاہئیں ابوداؤد، احمد، حاکم (عن ابن عباسؓ) (چودھویں) دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا، یہ حدیث موقوف ہے (پندرہویں) دُعا مانگتے وقت باادب رہنا مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن علیؓ) (سولہویں) فروتنی و عاجزی کرنا، ابن ابی شیبہ، موقوف (عن مسلم بن یسارؒ) (سترہویں) فروتنی اور عاجزی کے ساتھ ذلت و مسکنت کا اظہار کرنا، ترمذی (عن الفضل بن عیاضؒ) (اٹھارہویں) دُعا کے وقت اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ اُٹھانے مسلم، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ) (انیسویں) اللہ سے اُس کے اسماء ذاتی اور صفاتی کا واسطہ دیکر مانگے، ابن حبان، حاکم (عن ابن مسعودؓ) (بیسویں) دُعا میں بہ تکلف قافیہ بندی سے پرہیز کرے، بخاری (عن عکرمہؒ) (اکیسویں) دُعا میں خوش الحانی کے ساتھ گانا نہ گائے، یہ حدیث موقوف ہے (بائیسویں) انبیاء علیہم السلام کے وسیلہ سے دعا مانگے، بخاری، بزار، حاکم (عن عمرؓ) (تیئیسویں) اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے، بخاری (عن انسؓ) (چوبیسویں) آواز پست کرنا، صحاح ستہ (عن ابی موسی الاشعریؓ) (پچیسویں) گناہ کا اعتراف کرنا، صحاح ستہ (عن عائشہؓ) (چھبیسویں) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی صحیح ماثورہ دعاؤں کا اختیار کرنا، کیونکہ آپ نے کسی غیر کے بتانے کی حاجت نہیں رکھی، ابوداؤد نسائی (عن ابی بکر الثقفیؓ) (ستائیسویں) جامع دعائیں اختیار کرنا، ابوداؤد (عن عائشہؓ) (اٹھائیسویں) اپنی ذات سے دعا کی ابتدا کرے اور اپنے والدین اور مومن بھائیوں کے لئے دعا کرے (عن ابی الدرداءؓ)

(امام مسلمؒ) (انتیسویں) اگر امام ہو تو تنہا اپنے لئے دُعا نہ مانگے، (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ (عن ثوبانؓ) تیسویں) عزم[۳۱] و یقین کے ساتھ دعا مانگے صحاح ستہ (عن ابی ہریرہؓ) (اکتیسویں) انتہائی رغبت و اشتیاق سے دُعا مانگے، (ابن حبان، ابویعلیٰ (عن ابی ہریرہؓ) (بتیسویں) کوشش و محنت سے حضورِ قلب کے ساتھ تہہ دل سے دعا کرے اور اچھی اُمید رکھے (عن ابی ہریرہؓ) (تینتیسویں) ایک[۳۲] ہی دُعا بار بار مانگے، بخاری، مسلم، (عن جریر بن عبداللہ البجلیؓ) (چونتیسویں) ایک[۳۳] ہی دعا کے بار بار پڑھنے کا ادنیٰ درجہ کم از کم تین بار کہنا ہے، ابوداؤد، ابن سنی (عن امیہ المخزومیؓ) (پینتیسویں) دُعا میں اصرار و مبالغہ کرے، نسائی، حاکم، ابویعلیٰ (عن عبداللہ بن جعفرؓ) (چھتیسویں) گناہ[۳۴] اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے مسلم و ترمذی (عن ابی ہریرہؓ) (سینتیسویں) جو چیز[۳۵] ازل سے ہو چکی ہے اس کی دُعا نہ کرے (مثلاً لمبا آدمی پھکنا ہونے کی دُعا نہ کرے) نسائی (عن ابن مسعودؓ) (اڑتیسویں) معدوم و محال امر کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرے، بخاری (عن ابن عباسؓ) (انتالیسویں) رحمتِ[۳۶] خداوندی کو تنگ نہ کرے، بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ) (چالیسویں) اپنی[۳۷] تمام حاجتیں مانگے، ابن حبان (عن انسؓ) (اکتالیسویں) دعا[۳۸] کرنے اور سننے والے آمین کہیں، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن ابی ہریرہؓ) (بیالیسویں) دُعا[۳۹] سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ مونہہ پر پھیرے، ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان، ابن ماجہ، حاکم (عن ابن عباسؓ) (تینتالیسویں) اس[۴۰] قدر جلدی نہ کرے کہ قبولیت میں دیر سمجھے یا یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے دُعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: رکن[۱] وہ ہے جس پر چیز موقوف ہو اور اس میں داخل ہو، جیسے نیت، تکبیر تحریمہ، قیام اور قرأت نماز کے ارکان ہیں، شرط[۲] وہ ہے جس پر چیز موقوف ہو اور اس سے خارج ہو جیسے طہارت، ستر، عورت، استقبالِ قبلہ نماز کے شرائط ہیں۔

مامورات[۳] سے مستحبات اور منہیات[۴] سے مکروہات مُراد ہیں۔

یہ آداب دعا کے شرائط ہیں اور یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ مفہوم حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے حرام سے پرہیز کرو جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا، اس کی چالیس دن تک دعا مقبول نہیں ہوگی۔

اکل حرام کی سب سے بدترین قسم یہ ہے کہ دین فروشی کی جائے، یہودیوں کے دین کو اسی نے برباد کر دیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا، یعنی یہودیوں نے اس کے عوض میں تھوڑے سے دام (یعنی دنیوی فائدے) حاصل کئے۔

آداب مفہوم

آداب جمع ہے اَدَبٌ کی، ادب کا سب سے بہتر ترجمہ جس سے ادب کے ٹھیک مفہوم کی طرف ذہن منتقل ہو جائے پاس اور لحاظ ہے، جس کا ادب کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ادب حق ہے اور ادب کرنے والے کے تعلق سے فرض، آدمی اپنے سے برتر کا ادب کرتا ہے، برتری کئی طرح کی ہوتی ہے، برتری رشتے اور قرابت کی، برتری عمر کی، برتری علم و ہنر کی، برتری اساتذہ و تعلیم و ارشاد کی، برتری حکومت کی، برتری دولت کی، برتری احسان کی، برتری دینداری کی اور سب سے بڑھ کر برتری

رسالت کی کہ پیغمبر بہت سی برتریوں کا جامع ہوتا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے متعلق ارشاد خداوندی ہے: " وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا " اور (مسلمانو!) جو چیز پیغمبر تم کو (بالتہ اٹھا کر) دے لیا کرو اور جس سے تم کو منع کریں (اس سے) دست کش رہو۔

اخلاص یہ ہے کہ دعا میں کسی قسم کا شرک اور دکھلاوا نہ ہو اور یہ دعا کا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: " فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ " المومن رکوع ۲ (مسلمانو!) خالص خدا ہی کی فرماں برداری مدنظر رکھ کر اللہ کو پکارو " فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ " العنکبوت رکوع ۷ پھر جب (لوگ) کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو بڑے خلوص سے خدا کی بزرگی کا اظہار کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔

نیک عمل کرنا ہے کہ دعا سے پہلے نماز وغیرہ پڑھے یا صدقہ دے، مصیبت وسختی کے وقت اپنی نیکی کا واسطہ دیکر دعا کرے، جیسا اصحاب غار نے کیا تھا۔

اصحاب غار کا مختصر سا قصہ یہ ہے کہ تین شخص ایک پہاڑ کی کھوہ میں پناہ گزیں ہوئے، ایک بڑا بھاری پتھر اس کے منہ پر گرا اور ان کے نکلنے کا راستہ بند کر دیا تو وہ آپس میں کہنے لگے جس نے جو نیک عمل کیا ہو اس کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرے شاید اللہ اس مصیبت سے نجات دے، ایک شخص جو اپنے والدین کا انتہائی مطیع وفرماں بردار تھا، اپنے والدین کی خدمت کا ذکر کر کے دعا کی۔ اس سے کچھ پتھر سرک گیا، دوسرے نے اپنے زنا سے بچنے کا واقعہ یاد کر کے دعا کی اس سے پتھر اور زیادہ ہٹ گیا، تیسرے نے جو مزدور کی مزدوری بڑھا کر دی تھی اس کا ذکر کر کے دعا کی، اس سے پتھر بالکل ہٹ گیا اور کھوہ کا منہ کھل گیا۔

یعنی میل کچیل سے صاف اور نجاست وگندگی سے پاک ہو۔

طہارت کے معنی ہیں پاکیزگی، صفائی، ستھرائی اور چونکہ آدمی جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے اس لئے طہارت بھی دو طرح کی ہونی چاہئے جسمانی، روحانی، بدن کا گندگی اور میل کچیل سے پاک رکھنا جسمانی طہارت ہے، روحانی طہارت یہ ہے کہ آدمی مستقدات فاسدہ اور خیالات بیہودہ اور اخلاق بد کی کدورت سے پاک ہو، طہارت کسی قسم کی بھی ہو اصل میں وہ آدمی کے اپنے نفس کا حق ہے جس طرح جسمانی طہارت جسم کے بچاؤ کے لئے ہے اسی طرح روحانی طہارت روح کی حفاظت کے لئے ہے۔

کپڑے اور جگہ کی طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: " يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ " المدثر رکوع ۱ — اے پیغمبر (لوگوں کی) جو (دعوی کی ہیبت سے) چادر لپیٹے پڑے ہو اٹھو اور (لوگوں کو) عذاب خدا سے) ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو (خوب اچھی طرح) پاک (وصاف) رکھو اور نجاست سے الگ رہو۔

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔ الخ۔ رکوع ۴ — اور ہمارے اس (یعنی خانہ کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور قیام ورکوع (اور) سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے پاک۔

(وساف) رکھو۔

حدیث شریف میں ہے:۔ "الطھور شطر الایمان" یعنی آدمی کا پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔

قرآن مجید میں پاک اور ستھرے لوگوں کی خوبی یوں بیان کی ہے:۔ "وَاللّٰهُ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ" یعنی خدا بار بار توبہ کرنے والوں اور طہارت کا معاملہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ احناف، شوافع، مالکیہ حضرات دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن حنابلہ نہیں اٹھاتے، احادیث میں مختلف حالات میں مختلف طریقے سے ہاتھ اٹھانا آیا ہے۔

منیۃ المصلی میں ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے دعا کے وقت ہاتھ کھلے نہ رکھ سکے تو ایک ہاتھ دوسرے پر رکھے سینہ کے برابر بھی آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے۔ اگر کوئی مشکل امر پیش آجائے تو ہاتھ اٹھانے میں مبالغہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث شریف ہے:۔ "ان النبی صلے اللہ علیہ وسلم کان یدعو بعرفات باسطا یدیہ کالمتضرع والمسکین"۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ہاتھ پھیلا کر عاجزی و مسکینی کے ساتھ دعا فرماتے تھے۔

مطلق ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں ہے، جیسے حالت طواف میں دعا کرنا کہ اس میں ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں ہے بلکہ جن حالتوں میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، انھیں حالات میں اٹھانا مستحب ہوگا۔

دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینہ کے برابر اٹھا کر کھولے اور ہتھیلیوں میں کسی قدر خلا رکھے۔ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ کھلے رکھے کسی کپڑے وغیرہ سے نہ ڈھکے۔

مصنفؒ سے اس حدیث میں تسامح ہوگیا ہے، اس لئے کہ مصنفؒ نے لفظ مو کے بعد کسی کتاب کی علامت نہیں لکھی۔

باادب رہنے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ قول و فعل اور ظاہر و باطن کو اچھے اخلاق و عادات سے مزین کرے مثلاً سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، سخاوت کرنا وغیرہ، دوسرے دعا کے وقت خواہ تکلف ہی ہو ادب سے دعا مانگے۔

خشوع کے معنی خوف و ذلت کے ہیں اور اس سے باطن کا سکون مراد ہے، جس سے ظاہر کا سکون لازمی و ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے:۔ "انہ صلے اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یعبث بلحیتہ فقال لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ"۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنی ڈاڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اگر اسکے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح سے بھی خشیت کا اظہار ہوتا"۔

خشوع و خضوع میں فرق یہ ہے کہ آواز میں اظہار سکنت کرنے کو خشوع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ "وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا" طٰہٰ رکوع ۶ — اور (مارے خوف کے خدائے) رحمٰن کے آگے (سب کی) آوازیں بیٹھ جائیں گی اور جوارح سے سکنت و عاجزی ظاہر کرنے کا نام خضوع ہے ارشاد ہے:۔ "اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا

خَاضِعِيْنَ" الشعراء رکوع ۱۔ ہم چاہیں تو ان (لوگوں) پر آسمان سے ایک (زبردست) نشانی اتاریں اور ان کی گردنیں اس کے آگے جھک کر رہ جائیں۔

صحابہ کرامؓ کی نمازوں میں نہایت محویت، استغراق، خشوع، خضوع اور تضرع وزاری پائی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ اس خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھتے کہ اُن پر شدت سے گریہ طاری ہوجاتا اور کفار کی عورتیں اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا، حضرت عمرؓ نماز میں اس شدت سے روتے کہ پچھلی صف کے لوگ رونے کی آواز سُنتے، حضرت عبداللہ بن شدادؓ کا بیان ہے کہ میں باوجود یکہ پچھلی صف میں رہتا تھا، لیکن حضرت عمرؓ کے رونے کی آواز سنتا تھا۔

حضرت تمیم داریؓ ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت یعنی "أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ الخ" جاثیہ رکوع ۲ کی قرأت میں صبح کردی، اسی کو بار بار پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے۔

دعا میں تکلف قافیہ بندی نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس سے حضورِ قلب نہیں رہتا، لیکن اگر بلا تکلف خود بخود ظاہر ہو تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے جیسا حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللھم انی اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع

دعا نہایت سادگی اور خوش الحانی سے مانگے، تال سُر لگاکر موسیقی کے طرز پر نہ مانگے، مؤلفؒ نے اس حدیث میں بھی تسامح ہوا ہے کیونکہ مؤلفؒ نے یہاں بھی لفظ ہو کے بعد کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، علامہ ملا علی قاریؒ حنفیؒ میں رقمطراز ہیں کہ "اب تک اس روایت کا پتہ نہیں چلا کہ کس صحابی پر موقوف ہے اور کس کتاب میں مذکور ہے۔

دعا میں وسیلہ پکڑنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے استسقاء کے موقع پر اس طرح دعا کی تھی "اللھم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون" اے اللہ ہم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم (کی حیات وبرکات میں) آپ کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے، تو تو بارش فرماتا تھا، (اب) ہم آپ کے چچا (حضرت عباسؓ) کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم پر بارش برسا۔

مصنفؒ نے اس موقوف حدیث کو بھی متصل بیان کیا ہے کہ بخاری کی علامت سے پہلے لفظ ہو نہیں لکھا اس میں بھی مصنفؒ سے تسامح ہوا ہے

حضرت عثمان بن حنیف کی حدیث میں ہے کہ ایک نابینا صحابی نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول! آپ میرے لئے بینائی کی دعا فرمادیجئے، آپ نے دعا کرنے کی بجائے فرمایا، تو اچھی طرح وضو کرکے یوں دُعا کر "اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کو سفارشی پیش کرتے ہوئے تجھ سے سوال کرتا ہوں" اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا تھا "یارب اسئلك بحق محمد ان تغفر لی۔

مؤلفؒ نے کہا ہے وسیلہ پکڑنا مستحبات میں سے ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے علاوہ صلحاء شہداء علماء اور صدیقین کے توسل سے بھی دُعا مانگے، صالح دمسے جو اللہ اور بندہ کے پورے پورے حقوق ادا کرے۔

آہستہ آہستہ یعنی دھیمی آواز سے دعا کرے، اس لئے کہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ پوشیدہ پوشیدہ چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى" طٰہٰ رکوع ۱۔ اور (اے مخاطب) اگر تو پکار کر بات کرے تو وہ (تیرے پکارنے کا محتاج نہیں کیونکہ وہ) آہستہ اور (آہستہ سے) زیادہ مخفی بات کو بھی جانتا ہے اور یہ اپنے مولیٰ اور منعم حقیقی کے سامنے انتہائی ادب ہے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی "اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا" سورہ (مریم) رکوع ۱۔ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا۔ خود ارشاد باری ہے "وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ" (اعراف) رکوع ۲۴۔ اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی بہ نسبت کم آواز کے ساتھ۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ آہستہ دعا کرنا زور سے دعا کرنے سے ستر درجہ افضل ہے، لیکن یہ حالات کے اعتبار سے ہے کہیں بلند آہنگی سے دعا کرنا بہتر ہے اور کہیں پست آواز سے دعا کرنا افضل ہے۔

رات جس میں ہم نیند کا لطف اُٹھاتے ہیں اس میں صحابۂ کرامؓ عبادت الٰہی اور تہجد گذاری میں مصروف رہتے تھے۔ ایک صحابی نے رات کو نماز میں نہایت بلند آہنگی سے قرأت کی، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا اس پر رحم کرے مجھے بہت سی آیتیں یاد دلائیں جن کو میں بھول گیا تھا۔

ایک بار آپ مسجد میں معتکف تھے اور صحابۂ کرامؓ بھی مصروف نماز تھے اور اس قدر بلند آہنگی کے ساتھ قرأت کرتے تھے کہ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا "تم میں ہر شخص خدا کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، اتنا نہ چلاؤ کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچے"۔

ایک روز آپ رات کو گھر سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ پست آواز کے ساتھ نماز میں قرأت کر رہے ہیں آگے بڑھے تو حضرت عمرؓ نہایت بلند آہنگی کے ساتھ نماز میں قرأت کرتے ہوئے نظر آئے، دونوں بزرگ آپؐ کے پاس آئے تو آپؐ نے فرمایا کہ "ابوبکرؓ! نماز میں تمہاری آواز پست تھی" بولے کہ "میں جس سے (خدا سے) سرگوشی کر رہا تھا اسکے کان میں میری آواز پہنچ گئی، حضرت عمرؓ سے ارشاد ہوا کہ "تمہاری آواز نہایت بلند تھی" بولے کہ "یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگاتا اور شیطان کو دھتکارتا ہوں"۔

عموماً جس طرح لوگوں کو حاجتیں پیش آتی رہتی ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو حاجتیں پیش آتی تھیں، اور وہ اپنی حاجت روائی کے لئے خدا سے دعائیں مانگتے تھے اور خدا نے ان کی دعائیں قبول بھی کیں اور ان کی حاجت روائی ہوگئی، تو جب ان حاجتوں میں سے کوئی سی حاجت مسلمانوں کو پیش آئے تو وہ اپنا ہم حاجت کوئی پیغمبر قرآن سے تلاش کرے اور جن لفظوں میں اس پیغمبر نے دعا کی ہو ان ہی لفظوں میں دعا کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام انبیا علیہم السلام کی دعائیں بیان فرما دی ہیں۔

ہمارا خیال ہے یہ دعا بھی ایک فقیر کی سی صدا ہے اور بعض صدائیں خاص کر دلکش ہوتی ہیں اور جس

سے وہ حاجت مانگی جاتی ہے اس کو خاص طور پر متوجہ کرنے کے لئے اثر خاص رکھتی ہے، اس لئے جہاں تک ہو سکے وہ دعائیں پڑھے جو قرآن مجید میں ہیں یا جو احادیث میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، کیونکہ آپ نے دین و دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے اپنے پروردگار سے طلب نہ فرمایا ہو۔

حبّ[۲۱] دعا کرے تو اپنے نفس سے شروع کرے پھر جس کے لئے چاہے دعا کرے، ترمذی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

"قال کان رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا او دعا لہ بدا بنفسہ"

رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر فرماتے تھے تو اس کے لئے دعا کرنے اور اپنے سے اس کو شروع کرتے۔

حافظ عراقی نے شرح مقدمہ ابن الصلاح میں اس حدیث کو معلول قرار دیدیا ہے اور بڑی محققانہ تفصیل کی ہے من شاء فلیراجع۔

اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہما السلام نے دعا کی ہے:۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ۔ ابراہیم رکوع ۶

اے ہمارے پروردگار جس دن (اعمال کا) حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے باپ کو اور اب (ایمان والوں کو بخش دیجیو

رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ۔ نوح رکوع ۲

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے باپ کو اور جو شخص ایمان لاکر میرے گھر میں (پناہ لینے) آیا ہے اس کو اور (عام) باایمان مردوں اور باایمان عورتوں کو بخش۔

اگر[۲۲] امام بنے تو اپنے ہی لئے دعا نہ کرے بلکہ سب مقتدیوں کو اس میں شریک کرلے، جس قدر ممکن ہو جامع دعائیں کرے اور جمع کے صیغے استعمال کرے جیسے۔

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ البقرہ رکوع ۲۵

اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا

عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم یوم القوم اقراھم لکتاب اللہ تعالیٰ فان کانوا فی القرآۃ سواء فاعلمھم بالسنۃ فان کانوا فی السنۃ سواء فاقدمھم ھجرۃ فان کانوا فی الھجرۃ سواء فاقدمھم سنا (مسلم)

ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا امام وہ شخص ہو جو سب میں قرآن اچھا پڑھتا ہو اور قرآن کے پڑھنے میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امام بنے جو سنت سے زیادہ واقف ہو اور جو قرآن و سنت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو اور جو اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ امام بنے جو عمر میں سب سے بڑا ہو

عن ابی سعیدؓ قال قال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اذا کانوا ثلثۃ فلیؤمھم احدھم واحقھم بالامامۃ اقراھم (مسلم)

ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے اور امامت کا حق دار وہ شخص ہے جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو۔

امام جماعت میں جن لیاقتوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سب سے مقدم اقراء بکتاب اللہ ہونا ہے، کتاب اللہ

سے مُراد ہے قرآن، اقرا افعل التفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں قراۃ یعنی پڑھنے میں سب سے افضل مگر افضل کس بات میں؛ خوش آوازی میں، کثرتِ تلاوت میں، حفظ آیات میں، تجوید میں کہ آدرع، ت، اور ط، ذ، ز، ص اور ظ، س، ص کے مخارج میں اس کو امتیاز صحیح ہو جس میں یہ سب باتیں ہوں اس کو ہم اَقرأ کہیں گے، ان سب سے بڑی بات فہم قرآن ہے جس کی سخت ضرورت ہے اور اس کی طرف سے لوگ سخت غفلت اور بے پروائی کرتے ہیں اور ان کا پڑھنا طوطے کا سا پڑھنا ہے، بلکہ تیز کا سا بولنا کہ کوئی اس کی آواز سُبحان تیری قدرت سمجھتا ہے کوئی تون، تیل، اور ک۔

جماعت کے لئے دو آدمیوں کا ہونا بھی کافی ہے یعنی اگر ایک امام دوسرا مقتدی ہو گیا تو بھی جماعت ہو جائے گی نابینا آدمی کو امام بنانا درست ہے جبکہ وہ طہارت کا پورا پورا خیال رکھتا ہو، پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کو خود اپنی غیبت میں امام مقرر کیا حالانکہ وہ نابینا تھے، جوان اور بڑی عمر والوں کے ہوتے نابالغ لڑکا امام بنے تو اس کی امامت جائز ہے، بشرطیکہ سب سے بہتر قرآن پڑھنا جانتا ہو، صرف بدگمانی کی وجہ سے کسی مسلمان کی امامت سے انکار کرنا نہ چاہئے، بلکہ ہر مسلمان کے پیچھے جس کا عقیدہ و طریقہ معلوم نہ ہو نماز پڑھنی درست ہے ہاں قادیانی اور منکر حدیث اور فرقہ امامیہ کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلوٰۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاجرا وان عمل الکبائر یعنی ہر مسلمان کے پیچھے نماز واجب ہے نیکو کار ہو یا بدکار اگرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو، امام کو چاہئے کہ قراۃ میں تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں چھوٹے بڑے، ضعیف و کمزور اور بیمار و حاجتمند سب ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، البتہ تنہا نماز پڑھنے میں جس قدر چاہے قراۃ طویل کرے۔

عورتوں کی امامت

عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے مگر اُسے صف کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہئے، جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی طرح حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کی اور صف کے بیچ میں کھڑی ہوئیں، افضل امام کے ہوتے کم رتبے والے کو امام بنانا بہتر نہیں، مگر ایسی صورت میں نماز درست ہو جاتی ہے، کم رتبے کا آدمی امامت کر رہا ہو اور بڑے درجے کا آدمی آ جائے تو امام کو جائز ہے کہ خود مقتدی بن جائے اور اسے امام بنائے، نماز میں اگر امام قراۃ میں بھول جانے تو مقتدی کو بتانا جائز ہے، ابوداؤد میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی آپ قراۃ کرتے وقت کچھ آیتیں چھوڑ گئے، نماز کے بعد عرض کیا گیا کہ حضرت! آپ اثنائے قراۃ میں فلاں فلاں آیتیں چھوڑ گئے، فرمایا تو نے یاد کیوں نہیں دلا دیں عرض کیا میں سمجھتا تھا کہ شاید ان آیتوں کا پڑھنا منسوخ ہو گیا ہے، محدثین کے نزدیک نفل نماز والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنی درست ہے، اسی طرح فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز جائز ہے۔ احناف کے نزدیک فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز پڑھنا درست ہے، مگر نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہئے۔

مقتدی کو بہر حال امام کی اقتدا کرنی چاہئے، رکوع، سجدے قیام وغیرہ میں امام سے سبقت کرنا ناجائز

اور بہت برا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص امام سے پیشتر سر اٹھاتا ہے، قیامت کے دن اس کا سر گدھے کا سا ہوگا۔ امام مقتدیوں کی رعایت نہ کرے اور نماز میں کوئی بڑی سورۃ شروع کر دے تو تھکے ماندے اور حاجتمند کو چاہیے کہ نیت توڑ کر علیحدہ نماز پڑھ لے، جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور ایک شخص کے پیچھے ہے۔ اگر نماز میں شامل ہونا چاہتا ہو تو اس کے دائیں طرف پہلو میں کھڑا ہو جائے اور اگر کوئی اور بھی آجائے تو دونوں شخص امام سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں، اگر خود نہ ہٹیں تو امام کو انہیں پیچھے ہٹا دینا چاہیے، لیکن پیچھے جگہ نہ ہو تو امام خود آگے بڑھ جائے اور جو آگے پیچھے کچھ بھی جگہ نہ ہو تو سب برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، جب کوئی شخص جہری نماز آہستہ پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص اس کے پیچھے آکھڑا ہو تو وہ وہیں سے بیکار کر پڑھنے لگے جہاں تک پڑھ چکا تھا اور جو کچھ پڑھ چکا اس کا دوبارہ ادا ضرور نہیں۔

مسبوق (جو ابتدائے نماز سے امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا پیچھے آکر ملا ہے) اگر امام کے ساتھ ایک رکعت بھی پالے گا تو اسے تمام نماز کا ثواب حاصل ہوگا۔ جناب پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

من ادرك ركعة من الصلوٰة فقد ادرك الصلوٰة.

اس حدیث کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ جس نے ایک رکعت بھی جماعت میں پائی، اس نے جماعت کی نماز کا ثواب حاصل کیا، دوسرے یہ کہ جس نے بقدر ایک رکعت کے نماز کا وقت پایا اس کی باقی نماز ادا ہے قضا نہیں، مثلاً صبح کی نماز میں ایک رکعت کے بعد آفتاب طلوع ہوا یا عصر کے وقت ایک رکعت کے بعد آفتاب غروب ہوا تو نماز ادا ہوگئی یہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے، لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس صورت میں عصر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن فجر کی نماز آفتاب نکلنے سے باطل ہو جائے گی۔

دعا ہمیشہ عزم و یقین کے ساتھ مانگے، شک و شبہ کے ساتھ نہ کرے، مثلاً کہے اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کر، یہ نہ کہے اگر چاہے، مغفرت کر۔ نہ چاہے مت کر۔

دعا ہمیشہ حضور قلب سے کرے اور اللہ سے اچھی امید رکھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:۔

"ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة" اللہ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرو، اللہ بے توجہ
فان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔

دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کو نظر انداز کر دے اور اللہ کے کرم و عطا پر نظر رکھے، شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی زندگی مانگی تو جب اس کی دعا مقبول ہوگئی تو میں کیسے محروم رہ سکتا ہوں۔

فتح المبین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار، پانچ بار اور سات بار دعا پر سنا پسند فرماتے تھے۔

دعا کا ادنیٰ درجہ تین بار کہنا ہے، متوسط درجہ پانچ بار اور اعلیٰ درجہ سات بار کہنا ہے۔

الحرج سے دعا کا بار بار پڑھنا اور دعا پر مداومت کرنا مراد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

ان الله يحب الملحين فى الدعاء اللہ تعالیٰ دعا میں گریہ و زاری اور مبالغہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

گناہ کی دعا نہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ایسی چیز نہ مانگے جس سے گناہ میں مبتلا ہو جائے، مثلاً ناچ، گانا، زنا

وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے دولت مانگے، یا یہ کہے اے اللہ مجھے طاقت وقوت دے کہ فلاں مسلمان کو قتل کر دوں۔

اور قطع رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے سلوک نہ کرنے کو جی چاہے، حدیث شریف میں آتا ہے، رحم قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا۔ اے اللہ جس نے دنیا میں مجھے ملایا تھا آج تو بھی اسے ملائے اور جس نے مجھے کاٹا تھا آج تو بھی اسے اپنے سے جدا کر دے۔

[۳۰] دعا میں کا یہ مفہوم ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ ازل ہی سے فیصلہ کر چکا ہے، اس کی دعا نہ کرے، مثلاً دراز قد آدمی اپنے ٹھگنے ہونے کی دعا کرے یا ٹھگنا آدمی لمبے ہونے کی دعا مانگے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہئے۔

[۳۱] امر محال یہ ہے کہ ان ہونی بات کی دعا کرے، مثلاً کہے اے اللہ آسمان نیچے زمین اوپر کر دے، یا نبوت مانگے یا بوڑھا جوان بننے کی دعا کرے یہ بھی ممنوع ہے۔

[۳۲] رحمت کی تنگی کا یہ مطلب ہے کہ اپنے لئے چاہے اور کسی کے لئے نہ چاہے، مثلاً کہے اے اللہ مجھے بخش اور کسی کو نہ بخش، حدیث شریف میں ہے:

عن ابی هریرة [۳۳] "ان اعرابیاً دخل المسجد فصلی فیه ثم دعا فقال اللهم ارحمنی ومحمداً ولا ترحم معنا احداً فقال النبی صلی الله علیه وسلم لقد تحجرت واسعاً"

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا، نماز پڑھی، پھر دعا مانگی اور کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے وسعت کی تنگی چاہی (اور دوسروں کے علاوہ اپنے لئے خاص کر لیا) حالانکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے۔

[۳۴] حدیث میں آتا ہے تمام حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگنی چاہئیں، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے طلب کرے۔

[۳۵] دعا کرنے والا اور سننے والا آمین کہے، حدیث شریف میں ہے جو لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کچھ دعا کریں اور کچھ آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان (سب) کی دعا قبول فرماتا ہے۔

[۳۶] دعا سے فارغ ہو کر منہ پر ہاتھ پھیر لے کیونکہ جو برکت ہاتھوں کو پہنچی ہے وہ منہ کو بھی پہنچ جائے۔

[۳۷] اور اس قدر جلدی نہ کرے کہ قبولیت میں دیر سمجھے یا کہنے لگ جائے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی ان دونوں باتوں میں یہ فرق ہے کہ پہلی صورت امید کی حالت میں پیش آتی ہے اور دوسری ناامیدی میں۔

اٰدَابُ الذِّکْرِ

قَالَ الْعُلَمَآءُ یَنْبَغِیْ اَنْ یَّکُوْنَ الْمَوْضِعُ الَّذِیْ یَذْکُرُ اللّٰہَ فِیْہِ نَظِیْفًا خَالِیًا وَّاَنْ یَّکُوْنَ الذَّاکِرُ عَلٰی اَکْمَلِ الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَۃِ وَاَنْ یَّکُوْنَ فَمُہٗ نَظِیْفًا وَّاِنْ کَانَ فِیْہِ تَغَیُّرٌ اَزَالَہٗ بِالسِّوَاکِ وَاِنْ کَانَ جَالِسًا فِیْ مَوْضِعٍ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَۃَ مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا بِسَکِیْنَۃٍ وَّوَقَارٍ وَّحُضُوْرِ قَلْبٍ یَتَدَبَّرُ مَا یَذْکُرُ وَیَتَعَقَّلُ مَعْنَاہُ فَاِنْ جَھِلَ شَیْئًا تَبَیَّنَ مَعْنَاہُ وَلَا یَحْرِصُ عَلٰی تَحْصِیْلِ الْکَثْرَۃِ بِالْعَجَلَۃِ فَلِذٰلِکَ اسْتَحَبُّوْا اَنْ یَّمُدَّ صَوْتَہٗ بِقَوْلِہٖ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَکُلُّ ذِکْرٍ مَّشْرُوْعٍ وَّاجِبًا کَانَ اَوْ مُسْتَحَبًّا لَا یُعْتَدُّ بِشَیْءٍ مِّنْہُ حَتّٰی یَتَلَفَّظَ بِہٖ وَیُسْمِعَ نَفْسَہٗ وَاَفْضَلُ الذِّکْرِ الْقُرْاٰنُ اِلَّا فِیْمَا شُرِعَ بِغَیْرِہٖ وَلَیْسَ فَضْلُ الذِّکْرِ مُنْحَصِرًا فِی التَّھْلِیْلِ وَالتَّسْبِیْحِ وَالتَّکْبِیْرِ بَلْ کُلُّ مُطِیْعٍ لِلّٰہِ تَعَالٰی فِیْ عَمَلٍ فَھُوَ ذَاکِرٌ قَالُوْا وَاِذَا وَاظَبَ الْعَبْدُ عَلَی الْاَذْکَارِ الْمَاثُوْرَۃِ عَنْہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ صَبَاحًا وَّمَسَآءً وَّفِی الْاَحْوَالِ وَالْاَوْقَاتِ الْمُخْتَلِفَۃِ لَیْلًا وَّنَھَارًا کَانَ مِنَ الذَّاکِرِیْنَ اللّٰہَ تَعَالٰی کَثِیْرًا وَّالذَّاکِرَاتِ وَیَنْبَغِیْ لِمَنْ

كَانَ لَهٗ وِرْدٌ فِيْ وَقْتٍ مِّنْ لَّيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اَوْ عَقِيْبَ صَلٰوةٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ فَفَاتَهٗ اَنْ يَّتَدَارَكَهٗ وَيَاْتِيَ بِهٖ اِذَا اَمْكَنَهٗ وَلَا يُهْمِلُهٗ لِيَعْتَادَ الْمُلَازَمَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَتَسَاهَلُ فِيْ قَضَائِهٖ

ترجمہ: علماء محدثین نے کہا ہے (ذاکر) جس جگہ اللہ کا ذکر کرے، اس جگہ کا خالی اور ستھرا ہونا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ذاکر مذکورہ بالا صفات سے متصف ہو اور اس کا منہ صاف ہو، اگر منہ میں کسی قسم کی بُو وغیرہ ہو تو اس کو مسواک سے دُور کر دے اور اگر ذاکر الٰہی کے لئے کسی جگہ بیٹھے تو وقار، عاجزی، سکون، وقار اور حضورِ قلب کے ساتھ قبلہ رُو ہو کر بیٹھے اور جس کو وہ پڑھ رہا ہے اس میں غور کرے اور اسکے معنی سمجھے، اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اہل علم سے دریافت کرلے، جلد جلد زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی حرص نہ کرے، اسی لئے علماء نے مستحب بتایا ہے کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتے وقت (کسی قدر) اپنی آواز اُٹھائے اور جس ذکر کا فرضیت میں حکم ہے، خواہ وہ فرض ہو یا مستحب، اس میں سے کچھ بھی معتبر نہیں جب تک زبان سے ادا نہ کرے اور اپنے آپ کو نہ سنائے اور بہترین ذکر تلاوتِ قرآن ہے، اگر جس مقام میں دوسرا ذکر سنت ہو تو وہاں اس کا پڑھنا افضل اعلیٰ ہے اور ذکر کی فضیلت تسبیح، تہلیل اور تکبیر ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوئی کلام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے وہ ذاکر ہے۔

علماء نے کہا ہے جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ماثورہ پر صبح و شام، دن و رات مختلف حالات و اوقات میں مداومت کرتا ہے، تو اس کا شمار ان مرد و عورتوں میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جس شخص کا کوئی خاص وظیفہ دن یا رات یا نماز کے بعد یا ان کے علاوہ کسی اور وقت میں مقرر ہو اور وہ اس سے چھوٹ جائے تو اس کا تدارک کرے اور جب ممکن ہو سکے پڑھ لے، اور اسے بالکل نہ چھوڑے، تاکہ التزام کی عادت رہے، اور اس کی قضا میں بالکل تساہل نہ برتے۔

شرح: ذکرِ الٰہی کے وقت، آداب ذکر کی رعایت رکھنا ضروری و مستحب ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں جس جگہ ذکرِ الٰہی ہو اس جگہ کا کوڑے کرکٹ، گندگی اور نجاست سے پاک و صاف اور ستھرا ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم ہے، بہتر یہ ہے کہ مساجد جیسی مقدس جگہ میں ذکر کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۔ بقرہ رکوع ۱۵۔

اور ہم نے ابراہیم اور اسمٰعیل سے فرمایا کہ تم دونوں میرے (اس) گھر (یعنی خانہ کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور مجاوروں اور رکوع (اور) سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے پاک (و صاف) رکھو۔

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔

(اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم (کی عبادت) کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک (خالق) نہ کرنا اور ہمارے (اس) گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے (ہر ناپاکی سے) ستھرا رکھنا (اور خوشبو وغیرہ سے بسائے) حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

الحج ۔ رکوع ۴

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا۔

اور جن چیزوں سے قلب میں وسوسے پیدا ہوں اور خیالات پراگندہ اور منتشر ہوں، اس جگہ کا خالی ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قلب مومن اللہ کا گھر ہے، اسے حبِّ دنیا کی نجاست سے پاک اور ذکرِ ماسوی اللہ سے خالی رہنا چاہئے جو صفات آداب دعا میں ذکر ہو چکے ہیں، مثلاً حرام سے اجتناب، طہارت، اخلاص، باوضو ہونا، دوزانو بیٹھنا وغیرہ سب ذکر الٰہی کے لئے بھی ضروری ہیں اور ذاکر کو ان صفات سے متصف ہونا چاہئے، اس لئے کہ ذکر دعا سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :۔

" وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ " اور یاد خدا البتہ بڑی (چیز) ہے ۔

منہ میں اگر کسی قسم کی لہسن وغیرہ کی بو ہو تو اسے مسواک سے دُور کرے ارشاد نبوی ہے :۔

"من اكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا" کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کوئی شخص مسجد میں نہ آئے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے نزع کے وقت مجھے مسواک کا اشارہ کیا، میں نے اپنے دانتوں سے چبا کر آپ کو مسواک دی، پھر آپ نے اس سے مسواک کی۔

اور دل کو حسد، بغض، عناد اور عداوت وغیرہ سے صاف رکھے۔

اور اگر کان جالسا الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چلنے کی حالت میں قبلہ رُو ہونا شرط نہیں ہے اور نہ ذکر کے لئے بیٹھنا ہی ضروری ہے، بلکہ لیٹے بیٹھے، اٹھتے جس طرح ہو یاد الٰہی سے غافل نہ رہے اور ان حالتوں میں بھی قبلہ رُو ہو جائے تو بہتر ہے اس لئے کہ حدیث میں ہے :۔

" خير المجالس ما استقبل به القبلة " بہترین مجلس وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف منہ ہو۔

ذکر میں آنکھ بند کرنے کو بڑا دخل ہے۔ آنکھ بند کر کے ذکر کرنے سے حواس ظاہریہ ساکن ہو جاتے ہیں اور حواس باطنیہ کھل جاتے ہیں، کسی بزرگ نے خوب کہا ہے۔ شعر

چشم بند دلب بہ بند و گوش بند — آنکہ بستہ، کان، بند رکھ پھر اگر
گر نہ بینی نور حق برما بخند — تجھے نور حق نظر نہ آئے تو ہم پر ہنس

ذکر کے اقسام میں حضور قلب کے ساتھ ذکر کرنا افضل ترین ذکر ہے، کیونکہ ذکر سے حضور قلب ہی مقصود ہے مگر غفلت کے ساتھ ذکر کرنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا، البتہ مرتبہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

حضورِ قلب کے ساتھ سمجھ کر تھوڑا ذکر بھی جہالت، غفلت اور سستی کے ساتھ بہت ذکر کرنے سے بہتر ہے، اسلئے کہ ذکر میں جلدی اور سستی کرنے سے حضورِ قلب فوت ہوجاتا ہے، جو مقصودِ اصلی ہے۔

لا الٰہ الا اللہ کے مدکو کھینچنے اور پانچ الف کی مقدار سے زیادہ نہ کرے کیونکہ مسجد میں چلّانا ممنوع ہے اور لفظ اللہ پر نہ ٹھیرے کیونکہ اس سے کفر کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے بعض علماء نے تضریح کی ہے کہ آواز بلند مسجد میں ذکر کرنا بھی حرام ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر کا زبان سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، مثلاً نماز میں قرأۃ، تسبیحات، التحیات وغیرہ کا پڑھنا۔ اس کا زبان سے ادا کرنا افضل اور بہتر ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جو ذکر بلا زبان کے دل سے کیا جائے، وہ شریعت میں معتبر نہیں بلکہ ذکر کی مداومت بلا ذکرِ قلبی کے متصوّر ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے:

"خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی" بہترین ذکر ذکرِ خفی ہے اور بہترین رزق رزق مایکفی ہے

تلاوتِ قرآن افضل ترین ذکر ہے مگر جہاں شارع علیہ السلام نے دوسرا ذکر مشروع فرمایا ہے، اس جگہ اس کا پڑھنا بہت رواعلیٰ ہے مثلاً رکوع اور سجدہ میں تسبیحات پڑھنا مسنون ہے تو اس جگہ قرآن مجید کا پڑھنا مکروہ ہے۔

ذکر کی فضیلت صرف لا الٰہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہی کہنے میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر کام کھانا، پینا، پہننا، چلنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، بیٹھنا، اٹھنا، بیع وشراء، خرید وفروخت سب اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ ذکر ہے اور اس کے کرنے والے کا شمار ذاکرین میں ہے، اس لئے کہ دراصل ذکر سے اللہ کا تعلق اور اس کی رضا مقصود ہے، جو اطاعت اور فرماں برداری سے حاصل ہوتی ہے، اسی مضمون کو حضرت سعدی شیرازی نے کس خوبصورتی سے شعر میں ادا کیا ہے۔ شعر

ذکر گفتن ہمہ آں نیست کہ گوئی اللہ ہر وقت اللہ اللہ کہنا ہی ذکر نہیں ہے
ذکر آنست کہ دریابی وقت گناہ ذکر تو دراصل اسے گناہ ومعصیت کے وقت یاد کرنا ہے

جو شخص اذکارِ ماثورہ پر مداومت کرتا ہے تو اس کا شمار ان مرد عورتوں میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے فرماتا ہے:۔

وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۔ اور کثرت سے خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں (ان سب) کے لئے اللہ نے زبان کے کئے کا صلہ یعنی گناہوں کی معافی تیار کر رکھی ہے اور معافی کے علاوہ بڑے بڑے اجر۔

الاحزاب۔ رکوع ۵

جو شخص وقتِ مقررہ پر وظیفہ نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہئے جس وقت فرصت ملے پڑھ لے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا رات کا وظیفہ قضا ہوجائے اور وہ اسے نمازِ فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کا شمار رات ہی کے پڑھنے میں ہوتا ہے۔

اَوْقَاتُ الْاِجَابَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ تِ سَ قَ مُسْ وَ
يَوْمُ عَرَفَةَ تِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ رَ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ تِ مُسْ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ
دَسْ قَ حِبْ مُسْ وَنِصْفُ اللَّيْلِ طَ الثَّانِي اَصِ وَثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ اَصِ وَثُلُثُ
اللَّيْلِ الْاٰخِرُ اَ وَجَوْفُهُ دَ تِ سَ طَ رَ وَوَقْتُ السَّحَرِ عَ وَسَاعَةُ
الْجُمُعَةِ اَرْجٰى ذٰلِكَ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ فِي
الْخُطْبَةِ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ مُ دَ وَمِنْ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ
اِلَى السَّلَامِ مِنْهَا تِ قَ وَالدَّاعِيْ قَائِمٌ يُصَلِّيْ خَ مُسْ قَ
وَقِيْلَ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَوْتٍ وَقِيْلَ اٰخِرُ
سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ دَسْ مَوْ طَا دَتِ سَ مُسْ
وَقِيْلَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقِيْلَ بَعْدَ
طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَذَهَبَ اَبُوْ ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
اِلٰى اَنَّهَا بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ بِيَسِيْرٍ اِلٰى ذِرَاعٍ قُلْتُ وَالَّذِيْ
اَعْتَقِدُهُ اَنَّهَا وَقْتُ قِرَاءَةِ الْاِمَامِ الْفَاتِحَةِ فِيْ صَلٰوةِ
الْجُمُعَةِ اِلٰى اَنْ يَّقُوْلَ اٰمِيْنَ جَمْعًا بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ الَّتِيْ
صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِيْ غَيْرِ
هٰذَا الْمَوْضِعِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيْحُ بَلِ الصَّوَابُ الَّذِيْ

لَا یَجُوْزُ غَیْرُہٗ مَا ثَبَتَ فِیْ صَحِیْحِ مُسْلِمٍ مِّنْ حَدِیْثِ اَبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ

ترجمہ:۔ جن اوقات میں دُعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہیں، شبِ قدر، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم (عن عائشہؓ) اور عرفہ کا دن، ترمذی (عن عمرو بن شعیبؓ) اور رمضان مبارک کا مہینہ، بزار (عن عبادہ بن الصامتؓ) اور شب جمعہ، ترمذی، حاکم (عن ابن عباسؓ) اور جمعہ کا دن، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ) اور آدھی رات، طبرانی (عن ـــــ) اور آدھی رات کا اخیر، احمد، ابویعلیٰ اور پہلی تہائی رات، احمد، ابویعلیٰ اور پچھلی تہائی رات، احمد اور پچھلی تہائی رات کا درمیانی وقت، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم، طبرانی، بزار (عن عمرو بن عنبسہؓ) اور سحر کا وقت، صحاح ستہ (عن ابی ہریرہؓ) اور ساعتِ جمعہ ان اوقات میں سب سے زیادہ اُمید افزا ہے اور اس کا وقت امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، مسلم، ابوداؤد، (عن ابی موسیٰؓ) اور ایک روایت میں اس کا وقت، قیام نماز سے سلام پھیرنے تک ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ (عن عمرو بن عوفؓ) اور ایک روایت میں ہو کہ اس کا وقت یہ ہے کہ دعا کرنے والا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ساعت نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ ترمذی، موقوفاً (عن انسؓ) اور بعض نے کہا ہے وہ جمعہ کے دن کی اخیر ساعت ہے، ابوداؤد، نسائی، مرفوعاً (عن جابرؓ) مؤطا امام مالک، ابوداؤد، نسائی، حاکم، موقوفاً (عن عبداللہ بن سلامؓ) اور بعض نے کہا ہے طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک ہے، اور بعض نے کہا ہے طلوع صبح صادق سے آفتاب نکلنے کے بعد تک ہے، اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے کہ وہ ساعت، آفتاب کے تھوڑا سے ڈھلنے سے ایک ہاتھ ڈھلنے تک ہے، میری رائے میں جس کا مجھے یقین ہے، وہ ساعت امام کے نماز جمعہ میں الحمد پڑھنے سے آمین کہنے تک ہے تاکہ جو حدیثیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے پایۂ صحت کو پہنچ چکی ہیں ان میں مطابقت ہو جائے جیسا کہ دوسری جگہ میں نے بیان کیا ہے۔

اور علامہ نوویؒ نے کہا ہے صحیح بلکہ صحیح ترین اور سب سے زیادہ مناسب جس کے علاوہ دوسرا قول درست نہیں وہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔

شرح: رمضان شریف میں ایک رات نہایت برکت والی ہے، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَیْلَةُ الْقَدْرِ

اور (اے پیغمبر) تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر (خیر و برکت میں) ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اُس رات (آسمان

خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ القدر

کے) ہر ایک انتظام کے لئے فرشتے اور جبرئیل اپنے پروردگار کے حکم سے (زمین پر) اترتے ہیں، وہ رات امن اور (سلامتی کی رات) ہے (اور) وہ (یعنی اس کی خیر و برکت) طلوع فجر تک (رہتی) ہے۔

جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہا، وہ بڑی نعمتوں سے محروم رہا، بخاری کی روایت ہے۔

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلے الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا جس شخص نے (اللہ پر) ایمان رکھتے ہوئے ثواب سمجھکر ماہ رمضان مبارک کے روزہ رکھے اسکے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور جو شخص ایمان رکھتے ہوئے ثواب سمجھکر شب قدر میں مصروف عبادت رہا اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے گئے۔

اس مبارک رات کی تعین میں شارع علیہ السّلام سے کوئی قولِ فیصل منقول نہیں ہے، صرف اس قدر بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ میں کسی طاق رات میں ہوتی ہے۔

بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ اکثر یہ رات رمضان کی اکیسویں یا تیئیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا انتیسویں تاریخ کی راتوں میں پھرتی ہوئی ہر سال ہوا کرتی ہے، اس رات کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، اس رات حضرت جبرئیلؑ آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ مقرب فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، جو عبادت کرنے والے مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور خدائے تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس رات کی عبادت کی برکت سے مسلمانوں کے اگلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔

یوم عرفہ ماہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کا دن ہے، اس دن تمام حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور امیر حج وہاں جبل عرفات پر خطبہ دیتا ہے اور احکام حج وغیرہ بتلاتا ہے، اسی دن کوچ کا دن بھی کہتے ہیں، عرفات میں جانا فرض ہے اور حج کا رکن اعظم ہے، اس کے فوت ہونے سے حج نہیں ہوتا، جو شخص نویں کی دسویں رات کو صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات میں داخل ہو جائے گا اس کا حج صحیح ہوگا اور اس دن دعا مانگنے والے کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔

رمضان المبارک کے فضائل حدیث شریف میں بہت آئے ہیں، جناب پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

ایک رمضان کے ختم ہونے اور دوسرے رمضان کے آنے تک پورے گیارہ مہینے جنتوں کی تیاریاں خدا کے حکم سے ہوتی رہتی ہیں، رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو جنت کی خوشگوار ہوا عرش کے نیچے سے ہو کر حوران بہشت کے سروں پر چلتی ہے، اس وقت انہیں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جناب الٰہی میں دعا کرتی ہیں کہ

خداوندا ہمیں ہمارے شوہر عطا فرما کہ ان سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

نصف رات سے ٹھیک آدھی رات مراد ہے اور نصف اخیر سے آدھی رات کا پچھلا وقت مراد ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے، ہر شب جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے؟ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی ہے؟ جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اس کو بخش دوں کوئی ہے؟ جو مجھ سے شفاء کا خواستگار ہو میں اس کو شفاء دے دوں، کوئی ہے؟ جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو میں اس کو رزق دوں، اسی طرح صبح تک فرماتا رہتا ہے۔

سحر کے معنی ہیں صبح کا اول وقت یعنی رات کی تاریکی کے ساتھ دن کی روشنی کا ملنا، بعض رات کے اخیر چھٹے حصے کو کہتے ہیں، بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بہشت کی نعمتوں کا نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے وہ یہی سحر کا وقت ہے، اہل اللہ اس وقت میں عجیب لذت پاتے ہیں، شعر

ہر گنج سعادت کہ خداداد بحافظ — اللہ تعالیٰ نے حافظ کو جو سعادت کا خزانہ عطا فرمایا وہ رات کی
از یمن دعائے شب و ورد سحری بود — دعا اور صبح کے وظیفہ کی برکت سے تھا۔

ساعت جمعہ کی تعیین میں بہت اختلاف ہے، مصنف نے پہلا قول یہ نقل کیا ہے کہ وہ وقت امام کے منبر پر خطبہ کے لئے بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، اور اسی قول کی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سے تائید کی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے:۔

عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم یقول فی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلوٰۃ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے وہ ساعت امام کے منبر پر خطبہ کے لئے بیٹھنے سے ختم نماز تک ہے۔

لیکن مصنف کی رائے اس کے خلاف ہے انہوں نے منہیہ میں تین حدیثیں روایت کی ہیں، اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ساعت نماز جمعہ میں امام کے الحمد پڑھنے سے آمین کہنے تک ہے اور کہا ہے میرا اور میرے ساتھیوں کا تجربہ ہے کہ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔

جمعہ کی فضیلت

جمعہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، ارشاد نبوی ہے:۔

خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، رواہ مسلم

یعنی سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں داخل کئے گئے پھر اسی دن جنت سے باہر کئے گئے، اسی دن قیامت برپا ہوگی

اعمال جمعہ

ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے، قبول ہوتی ہے، اس ساعت میں گو علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کونسی ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، لیکن صحیح حدیثوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساعت امام کے خطبہ شروع کرنے سے آخر نماز تک ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی شب یا دن کو مر گیا خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیگا۔ مسلمان کو چاہئے کہ جمعہ کے روز اپنی بیوی سے

ہمبستر ہو نہیں اور نہ خوشبو کروائے، نماز جمعہ کیلئے غسل کرے اگر خوشبو میسر ہو تو اس کا بھی استعمال کرے، بالوں میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

حق اللہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یغسل راسہ وجسدہ

یعنی ہر مسلمان پر خدا کا حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دفعہ سر اور بدن دھو ڈالے۔

اور جو کچھ میسر ہو خیرات کرے، نماز جمعہ کے بعد مسلمانوں سے ملاقات کرے، بیماروں کی عیادت کرے، جنازہ میں شریک ہو، قبروں کی زیارت کرے مجلس میں سماج میں شرکت کرے، علم حاصل کرے، حلال روزی پیدا کرے اور دن رات میں سات بار یہ دعا پڑھے۔

اللھم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وابن امتک وفی قبضتک وناصیتی بیدک ماسیت علی عدلک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت

یعنی اے اللہ تو میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں اور تیرے قبضہ میں ہوں اور میری پیشانی کے بال تیرے قبضے میں ہیں اور جتنا مجھ سے بن پڑا میں تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں نے کیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری نعمت کا مقر اور اپنے گناہ کا معترف ہوں، تو میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔

جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر مریض اور مسافر اور عورت اور لڑکے اور غلام پر نہیں، امام کے علاوہ دو آدمی بھی ہوں تو بھی جمعہ قائم کرنا چاہئے، اس روز امام نماز سے پہلے منبر پر کھڑا ہو اور دو خطبے باآواز بلند پڑھے اس کے بعد دو رکعت بہ نیت فرض اونچی قرأۃ سے پڑھے۔

جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہا دھو کر نماز جمعہ کی غرض سے مسجد میں جاتا اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، انہیں ان کی جگہ سے نہیں ہٹاتا، پھر جس قدر بن پڑتا ہے، نماز نفل پڑھتا اور خطبہ کے وقت خاموشی اور سکوت سے بیٹھا رہتا ہے، تو اسکے وہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں جو اگلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہوئے ہیں، بلکہ تین دن کے زیادہ (ترمذی)

حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز دو خطبے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور دونوں خطبوں کے بیچ میں قدرے بیٹھ جاتے امام منبر پر بیٹھ جائے تو اسکے سامنے مسجد میں باآواز بلند اذان دی جائے، آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صرف یہی ایک اذان دی جاتی تھی، اسی طرح خلیفہ اول اور دوم کے زمانہ میں، لیکن جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا دور دورہ ہوا اور لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے خطبہ سے پہلے ایک اور اذان کا حکم دیا اور صحابہؓ کی موجودگی میں حکم دیا، اس پر نہ تو کسی نے انکار کیا نہ اعتراض، اس لئے یہ اذان خلفائے راشدین کی سنت میں داخل ہے، خطبہ کی اذان کے بعد مسلمانوں پر خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اثنائے خطبہ میں جو لوگ آئیں وہ جہاں جگہ پائیں بیٹھ جائیں اور نہایت سکوت کے ساتھ خطبہ سنیں، خطبہ کے اندر بولنے والے کو رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے گدھا فرمایا ہے۔

احکام جمعہ

نمازِ جمعہ بغیر خطبے کے جائز نہیں اور اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا تو بھی درست نہیں، امام باقر میں خطبے کر نمازِ جمعہ کا خطبہ پڑھے تو بہتر اور مسنون ہے، خطبہ عربی ہی زبان میں پڑھے، لیکن کچھ وعظ و نصیحت اور احکامِ شرع سامعین کی زبانِ عام میں ان کی حالت اور وقت کے مناسب بیان کرے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ جمعہ میں اکثر "سبح اسم ربك" اور سورۂ غاشیہ پڑھا کرتے، اور کبھی سورۂ جمعہ اور سورۂ منافقون بھی پڑھا کرتے تھے، مگر جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورۂ الم السجدۃ اور سورہ دھر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو حاضرین کو ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا چاہئے، ہاں جی ہی جی میں دعا کرنے کا مضائقہ نہیں۔ جو شخص بے عذر جمعہ ترک کر دے اسے چاہئے کہ نمازِ جمعہ کے کفارے میں ایک دینار یعنی ساڑھے تین روپے رائج الوقت مختاجوں کو خیرات کر دے اور اگر اتنا ممکن نہ ہو تو نصف دینار یعنی ایک روپیہ بارہ آنے ہی دیدے، اور یہ بھی نہ بن پڑے تو ایک صاع یعنی ڈھائی سیر ڈھائی چھٹانک گیہوں خیرات کر دے اور جسے ایک صاع کے خیرات کرنے کا بھی مقدور نہ تو آدھا صاع دے ڈالے یعنی صدیثوں میں ایک مد غلہ بھی آیا ہے، اور آدھا مد بھی، مد کا ایک پیمانہ ہے جس میں سیر بھر اناج آتا ہے، انگریزی تول کے حساب سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جسے کچھ بھی میسر نہ ہو وہ صرف ایک درم یعنی سوا پانچ آنے یا نصف درم خیرات کرے اور خدا سے توبہ و استغفار بکثرت کرے۔

اور جو شخص بے عذر جمعہ چھوڑنے کی عادت کرے وہ لوحِ محفوظ میں منافق لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسکے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَحْوَالُ الْاِجَابَةِ عِنْدَ النِّدَآءِ بِالصَّلٰوةِ دَ مُسْ وَ بَيْنَ
الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ دَتْ سَ حِبْ وَبَعْدَ الْجَعْلَتَيْنِ لِمَنْ
نَزَلَ بِهٖ كَرْبٌ اَوْ شِدَّةٌ مُسْ وَعِنْدَ الصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حِبْ ط
مَوْطَا وَعِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا دَ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ
الْمَكْتُوْبَاتِ تْ سَ وَفِي السُّجُوْدِ مُدَ سَ وَعَقِيْبَ تِلَاوَةِ
الْقُرْاٰنِ تْ وَلَا سِيَّمَا الْخَتْمِ ط مَوْمُصْ خُصُوْصًا مِّنَ
الْقَارِئِ تْ ط وَعِنْدَ شُرْبِ مَآءِ زَمْزَمَ مُسْ وَالْحُضُوْرِ
عِنْدَ الْمَيِّتِ مُ عَهْ وَصِيَاحُ الدِّيْكِ خَ مُرْتِ سَ
وَاجْتِمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ عَ وَفِيْ مَجَالِسِ الذِّكْرِ خَ مُرْتِ
وَعِنْدَ قَوْلِ الْاِمَامِ وَلَا الضَّآلِّيْنَ مُدَ سَ قَ
وَعِنْدَ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ مُدَ سَ قَ وَعِنْدَ اِقَامَةِ
الصَّلٰوةِ ط مَرْ وَعِنْدَ نُزُوْلِ الْغَيْثِ دَ ط مَرْ
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْاُمِّ مُرْسَلًا وَّقَالَ قَدْ حَفِظْتُ
عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ الْاِجَابَةِ عِنْدَهٗ قُلْتُ وَعِنْدَ
رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ تْ ط وَبَيْنَ الْجَلْتَيْنِ فِي الْاَنْعَامِ
حَفِظْنَا ذٰلِكَ مُجَرَّبًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَنَصَّ

toobaa-elibrary.blogspot.com

عَلَيْهِ الْحَافِظُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الرَّسْغَنِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الشَّيْخِ الْعِمَادِ الْمَقْدِسِيِّ

دُعا کے قبول ہونے کی حالتیں

دُعا کرنے والے کا حال اس کا وصف ہے اور وقت اس کے لئے ظرف ہے، اس سے اوقات الاجابہ اور احوال الاجابہ کا فرق معلوم ہوگیا۔

ترجمہ: (دعا ان حالات میں قبول ہوتی ہے) نماز کے لئے اذان ہونے کے وقت دُعا کرنا[1]، ابوداؤد، حاکم (عن سہل بن اسعدؓ) اور اذان واقامت کے درمیان دعا مانگنا[2]، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان (عن انسؓ) اور مصیبت وغیرہ[3] شخص کا حالت الصلوٰۃ فی الفلاح کے بعد دعا کرنا[4]، حاکم (عن ابی امامہؓ) اور میدان جنگ میں صف باندھتے وقت دعا کرنا، ابن حبان، طبرانی، مرفوعاً (عن سہل ابن سعدؓ) موطا امام مالک موقوفاً (عن سہل ابن سعدؓ) اور (جنگ میں) ایک[5] دوسرے سے لڑنے کے لئے دست و گریباں ہوتے وقت[6]، ابوداؤد (عن سہلؓ) اور فرض نمازوں کے بعد[7] ترمذی، نسائی (عن ابی امامہؓ) اور سجدہ کی حالت میں[8] مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن ابی ہریرہؓ) اور تلاوت[9] قرآن شریف کے بعد ترمذی (عن عمران بن حصینؓ) خصوصاً ختم[10] قرآن مجید کے بعد طبرانی، مرفوعاً (عن عمرانؓ) ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابی لبابہ ومجاہدؒ) خاصکر قرآن مجید[11] ختم کرنے والے کی دعا، ترمذی، طبرانی (عن عمران بن حصینؓ) اور جہاد[12] زمزم کا پانی پیتے وقت، حاکم، (عن ابن عباسؓ) اور میت کی جانکنی کے وقت[13] مسلم، سنن اربعہ (عن ام سلمہؓ) اور مرغ کی آواز[14] کے وقت[15]، بخاری مسلم، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرہؓ) اور مسلمانوں کے جمع[16] ہونے کے وقت[17]، صحاح ستہ، (عن عطیہ الانصاریؓ) اور ذکر کی مجلسوں میں[18]، بخاری، مسلم، ترمذی (عن ابی ہریرہؓ) اور امام کے ولا الضالین[19] کہتے وقت، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، (عن ام سلمہؓ) اور میت کی آنکھ[20] بند کرتے وقت، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ام سلمہؓ) اور نماز کی اقامت[21] کے وقت، طبرانی، ابن مردویہ (عن سہلؓ) اور مینہ[22] برستے وقت، ابوداؤد، طبرانی، ابن مردویہ (عن سہلؓ) امام شافعیؒ نے اپنی کتاب الام میں اس کو مرسلاً روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے نزول باران کے وقت دُعا کا قبول ہونا کثرت علماء سے سُنکر، یا دکیا ہے (مصنفؒ نے کہا ہے) اور میں کہتا ہوں، کعبہ کی زیارت کے[23] وقت دعا مانگنا[24]، ترمذی، طبرانی (عن ابی ہریرہؓ) اور سورۃ انعام کے[25] دو مبارک لفظ انذر کے درمیان میں[26] (اور) ہم نے بے انتہا علماء سے اس وقت میں دُعا کا قبول ہونا مجرب سنا ہے اور جلالتین کے درمیان دُعا کی قبولیت کو حافظ عبدالرزاق رسغنی نے شیخ عماد مقدسی سے اپنی تفسیر میں مصرح بیان کیا ہے۔

شرح :- حدیث شریف میں ہے :-

عن سهل بن سعد الساعدی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حین یلتحم بعضهم بعضاً.

حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے " دو چیزیں بارگاہ رب العزت سے نہیں لوٹتی، ایک اذان کے وقت دُعا کرنا، دوسرے جنگ میں صفوں کے ملتے وقت دُعا مانگنا۔

امام ترمذی نے یہ اور بیان کیا ہے کہ صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اذان واقامت کے درمیان کیا دعا مانگیں؟ آپؐ نے فرمایا :-

سلوا الله العافیة فی الدنیا والآخرة

دین و دنیا کی سلامتی مانگو

اذان سے متصل دُعا مانگے، یا کچھ فاصلہ سے دونوں صحیح ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ متصل ہی دعا کرے۔

کرب کے معنی فکر، غم اور مشقت کے ہیں اور " شدّة " کے معنی سختی، تنگی اور مصیبت کے ہیں، یا شک راوی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرب کا لفظ فرمایا ہے، یا شدة کا۔

جس وقت مسلمان کافروں پر حملہ کریں، اور زخموں سے چُور ہونے لگیں، تو یہ دُعا کی قبولیت کا وقت ہے۔

فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا وقت سب سے افضل و بہتر وقت ہے، اس میں دعا کے قبول ہونے کی زیادہ اُمید ہے، اور یہ وقت سلام پھیرنے کے بعد ہی ہے اگر سنن اور اذکار ماثورہ کے بعد مزید نیں تب بھی اُمید ہے کہ یہی حکم ہو)

سجدہ سے نماز کا سجدہ مُراد ہے، اکیلا سجدہ مولائے رب العزت کے تقرب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، جس طرح تنہا قیام اور رکوع سے پروردگار کا قرب نہیں حاصل ہوتا ہے، یہی مسلک امام ابوحنیفہؒ کا ہے، مگر اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔

اگر لفظ حضور کو پیش پڑھیں تو اس کے معنی مرنے والے کی جانکنی کے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ملائکہ آمین کہتے رہتے ہیں، اور اگر زبر سے پڑھیں تو مدت کے پاس آنے کے معنی ہوں گے۔

ارشاد نبوی ہے، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اسکے کرم کی زیادتی چاہو کہ اس وقت مرغ فرشتہ کو دیکھتا ہے۔

جس جگہ مسلمانوں کا اجتماع ہو، جیسے جمعہ، عیدین، بیت اللہ، عرفات وغیرہ تو وہاں دُعا قبول ہونیکی زیادہ توقع ہے۔

مجالس ذکر میں تمام مجلسیں شامل ہیں، خواہ ذکر کا حلقہ ہو، یا قرآن وحدیث کا درس یا اجتماع دین کیلئے جمع ہو کر سوچنا۔

کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو توجہ چاہیے دعا کرے، یہ بھی دُعا کی قبولیت کا عجیب وقت ہے، طبرانی نے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے " یستجاب دعاء المسلم عند رویة الکعبة " زیارت کعبہ کے وقت دُعا قبول ہوتی ہے۔

اس کی سند ضعیف ہے، مگر فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔

سورہ انعام میں لفظ اللہ ایک جگہ مکرر آیا ہے :- " مِثْلَ مَآ اُوْتِیَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ " الانعام رکوع ۱۵ - (ان دونوں کے درمیان یعنی رسل اللہ کے بعد محل قبولیت ہے)

حافظ سے حافظ حدیث مُراد ہے اور حافظ حدیث اس شخص کو کہتے ہیں جس کو متن اور سند کے ساتھ ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔

اَمَاکِنُ الْاِجَابَۃِ

فَکَاَمْوَاضِعِ الشَّرِیْفَۃِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِیُّ فِیْ رِسَالَتِہٖ اِلٰی اَھْلِ مَکَّۃَ اِنَّ الدُّعَآءَ یُسْتَجَابُ ھُنَاکَ فِیْ خَمْسَۃَ عَشَرَ مَوْضِعًا فِی الطَّوَافِ وَعِنْدَ الْمُلْتَزَمِ وَتَحْتَ الْمِیْزَابِ وَفِی الْبَیْتِ وَعِنْدَ زَمْزَمَ وَعَلَی الصَّفَا وَالْمَرْوَۃِ وَفِی الْمَسْعٰی وَخَلْفَ الْمَقَامِ وَفِیْ عَرَفَاتٍ وَفِی الْمُزْدَلِفَۃِ وَفِیْ مِنًی وَّعِنْدَ الْجَمَرَاتِ الثَّلٰثِ قُلْتُ وَاِنْ لَّمْ یُجَبِ الدُّعَآءُ عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَفِیْ اَیِّ مَوْضِعٍ یُسْتَجَابُ عَلَیَّ اَنَا قَدْ رُوِّیْنَا فِیْ اِسْتِجَابَۃِ الدُّعَآءِ فِی الْمُلْتَزَمِ حَدِیْثًا مُّسَلْسَلًا مِّنْ طَرِیْقِ اَھْلِ مَکَّۃَ

دُعا قبول ہونے کی جگہیں

ترجمہ: حضرت حسن بصریؒ نے اپنے خط میں اہل مکہ کو لکھا کہ مکہ میں پندرہ جگہ دُعا قبول ہوتی ہے طواف میں، ملتزم کے پاس، میزاب کے نیچے، کعبہ کے اندر، چاہ زمزم پر، صفا و مروہ پر، اور مسعیٰ (یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ) میں مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، منیٰ میں اور تینوں جمرات کے پاس، (مصنفؒ) میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دُعا نہ قبول ہوگی تو پھر کس جگہ قبول ہوگی؟

علاوہ ازیں ملتزم میں دُعا کی قبولیت کے بارے میں اہل مکہ کی روایت سے ایک مسلسل حدیث بھی ہم سے بیان کی گئی ہے۔

شرح: حضرت حسن بصریؒ جب مکہ سے بصرہ روانہ ہونے لگے، تو اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اقامت مکہ

کے فضائل لکھے اور وہاں کے دعا کی قبولیت کے مقامات بیان کئے اور ان پندرہ ہی جگہ پر انحصار نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلاً رکن یمانی کے پاس، حجرِ اسود اور رکن یمانی کے درمیان، دارِ ارقم، بیت حذیفہؓ، غارِ ثور، غارِ حرا وغیرہ۔

(۲) **ملتزم**۔ کعبہ کے دروازے اور حجرِ اسود کے درمیان ایک جگہ ہے، جہاں لوگ آکر تبرک کے لئے چمٹتے ہیں اس لئے اس کا نام ملتزم ہے اور اس کا اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ حجرِ اسود پر رکھیں تو دوسرا ہاتھ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور اس میں اس طرح دعا کرے کہ طواف کے بعد کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنا منہ اور رخسارہ اس پر رکھ دے اور تمام بدن اس سے لگا کر یہ دعا کرے۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ وَاقِفٌ بِبَابِكَ وَمُلْتَزِمٌ بِاِلْفِنَائِكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰی عَذَابَكَ اَللّٰھُمَّ حَرِّمْ شَعْرِیْ وَجِلْدِیْ عَلَی النَّارِ۔

الٰہی میں تیرے در پر کھڑا ہوں اور تیرے ہی آستانہ کو پکڑے ہوئے ہوں، میں تجھ ہی سے امید کرتا ہوں اور تیرے ہی عذاب سے ڈرتا ہوں، خدایا تو میرے بال اور جسم کو دوزخ پر حرام کر دے۔

(۳) **حِجرِ اسمٰعیل**۔ زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پیتے وقت قبلہ رُو ہو کر دعا کرے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جامِ زمزم پر یہ دعا کی تھی۔

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ"

خدایا میں تجھ سے مفید علم، پاکیزہ، فراخ روزی، مقبول عمل اور ہر قسم کی بیماری سے شفاء مانگتا ہوں۔

(۴) **مُستجاب جگہیں**۔ تمام مسجدِ حرام کی جگہ ہے، کیونکہ حجاج کی قیام گاہ ہے، خصوصاً مسجد خیف میں عبادت کے وقت دعا خوب قبول ہوتی ہے۔

(۵) **حدیثِ مسلسل**۔ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس کے راوی روایت کرتے وقت ایک حالت پر ہوں، مثلاً روایت کرتے وقت سب نے قسم کھائی ہو یا اسی طرح کوئی اور فعل کیا ہو (کذا ذکرہ علی)

حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سُنا آپ فرماتے تھے، ملتزم ایسی جگہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، بندہ جو دعا اس میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس حدیث کے ہر راوی نے مصنفؒ تک روایت کرتے وقت اس طرح کہا ہے کہ قسم ہے خدا کی میں نے کبھی اللہ سے اس مقام پر ایسی دعا نہیں کی جو اللہ نے قبول نہ کی ہو۔

اَلَّذِیْنَ یُسْتَجَابُ دُعَآؤُھُمُ الْمُضْطَرُّ خ مُدَ وَالْمَظْلُوْمُ
ع وَاِنْ کَانَ فَاجِرًا اَرَ مُصْ وَلَوْ کَانَ کَافِرًا حِبْ اَ
وَالْوَالِدُ دَتِ قَ وَالْاِمَامُ الْعَادِلُ تِ قَ حِبْ
وَالرَّجُلُ الصَّالِحُ خ مُ قَ وَالْوَلَدُ الْبَارُّ بِوَالِدَیْہِ
مُ وَالْمُسَافِرُ دَ رَ قَ وَالصَّآئِمُ حِیْنَ یُفْطِرُ تِ قَ حِبْ
وَالْمُسْلِمُ لِاَخِیْہِ بِظَھْرِ الْغَیْبِ مُدَ مُصْ وَالْمُسْلِمُ مَالَمْ
یَدْعُ بِظُلْمٍ اَوْ قَطِیْعَۃِ رَحِمٍ اَوْ یَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ اُجَبْ
مُصْ اِنَّ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ عُتَقَآءَ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ وَّلَیْلَۃٍ لِکُلِّ
عَبْدٍ مِّنْھُمْ دَعْوَۃٌ مُّسْتَجَابَۃٌ اَوْ فِیْ جَامِعِ اَبِیْ مَنْصُوْرٍ
اَلدُّعَآءُ الصَّحِیْحُ دَعْوَۃُ الْحَاجِّ حَتّٰی یَصْدُرَ

مُستجاب الدّعوات لوگ

ترجمہ:- وہ لوگ جن کی دُعا دربارِ الٰہی میں قبول ہی ہوتی ہے کبھی رد نہیں کی جاتی، یہ ہیں: یتیمین[1] و مجذوم (بخاری، مسلم، ابوداؤد (عن ابن عمرؓ) اور ششم رسیدہ، صحاح ستہ (عن ابن عباسؓ) اگرچہ مظلوم (یعنی ستم رسیدہ) گنہگار ہو (عن ابی ہریرہؓ) مسند احمد، بزار، ابن ابی شیبہ، اگرچہ ششم رسیدہ کافر ہی ہو، ابن حبان، احمد (عن ابی ذر الغفاریؓ) اور باپ[2] (کی دُعا اولاد کے لئے) ابوداؤد، ترمذی ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ) اور امام عادل ترمذی ابن حبان (عن ابی ہریرہؓ) اور نیک آدمی[3]، بخاری مسلم، ابن ماجہ (عن ابن عمرؓ) اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بیٹا، مسلم (عن عمرؓ) اور حسبا فر، ابوداؤد، بزار، ابن حبان اور روزہ دار جس وقت افطار کرے، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور وہ مسلمان جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرے، مسلم، ابوداؤد، ابن ابی شیبہ (عن

ابی ہریرہؓ و ابی حمیدؓ اور مسلمانؓ جب تک ظلم اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، یا کہے میں نے دعا کی، (مگر) قبول نہیں ہوئی، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہؓ) بیشک اللہ عزوجل کے کچھ آزاد بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی دن و رات میں ایک دعا (ضرور) قبول ہوتی ہے، مسند احمد (عن ابی ہریرہؓ) جامع ابی منصور میں ہے سچی اور صحیح دعا صابی کی دعا ہے، جب تک وہ حج سے واپس ہو (یعنی حج کے زمانہ میں)

شرح: مضطر، بیچین غمزدہ اور مصیبت رسیدہ کو کہتے ہیں، اس کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ "

النمل رکوع ۵

بھلا کون (ہے کہ) جب کوئی شخص (بے قرار ہوکر) اس سے فریاد کرے، وہ اس بے قرار کی فریاد کو پہنچے اور (اس کی) مصیبت کو ٹال دے۔

شیخ داؤد یمانیؒ ایک بیمار کی عیادت کو گئے، جو اپنے جینے کی آس چھوڑ چکا تھا، اس نے عرض کیا، آپ میری صحت کی دعا فرمائیں، شیخ نے فرمایا تم خود دعا کرو، تم مضطر ہو اور مضطر کی دعا کے لئے بارگاہ الٰہی سے قبولیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، کیونکہ اس کی نیاز زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ بیچاروں کی نیاز کو پسند فرماتا ہے۔ ارشاد نبوی:۔

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له ابوابها ابواب السماء ويقول الرب وعزتی لا نصرنك ولو بعد حين، رواه الترمذی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمیوں کی دعا بارگاہ رب العزت سے زمین کی جانی روزہ دار جس وقت افطار کرے، امام عادل اور مظلوم، اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پروردگار فرماتا ہے، میری عزت کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔

دوسری حدیث میں فرماتے ہیں:۔

"اتق دعوة المظلوم، فانها مستجابة"

مظلوم کی پکار سے بچو، وہ یقیناً مقبول ہے۔

ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں:۔

"دعوة المظلوم وان كان كافرا ليس دونها حجاب"

مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان خواہ وہ کافر ہی ہو پردہ حائل نہیں ہے۔

شاعر نے خوب کہا ہے:۔ شعر: بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از درِ حق بہر استقبال می آید

ستم رسیدہ لوگوں کی بددعا سے بچتے رہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے اجابت (قبولیت) اس کا استقبال کرتی ہے

علماء حنفیہ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، فتویٰ اسی پر ہے کہ قبول ہوتی ہے چنانچہ علامہ برجندی نے ذکر کیا ہے:۔

"اور تحقیق یہ ہے کہ اضطرار کی حالت میں کافر کی دعا بھی دنیا میں قبول ہوتی ہے، البتہ آخرت میں ان کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی اور یہ آیت

"وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ" الرعد رکوع ۲ — اور کافروں کی دعا تو یوں ہی بھٹکی (بھٹکی) پھرا کرتی ہے (کوئی اس کا) سننے والا نہیں۔

آخرت ہی کے لئے ہے۔

باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا یا بددعا جو بھی کرے قبول ہوتی ہے، یہی ماں کی دعا کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلے الله عليه وسلم ثلث دعوٰت مستجابات لاشك فيهن دعوة الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المسافر۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں شک کی گنجائش ہی نہیں، باپ کی دعا (اپنی اولاد کے حق میں) مسافر کی دعا مظلوم کی دعا۔

علامہ دیلمی نے مسند فردوس میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:۔

"دعاء الوالد لولده كدعاء النبی لامته"

یعنی باپ کی دعا بیٹے کے لئے ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اپنی اُمت کے لئے۔

حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ماں کا ذکر نہیں فرمایا، اس کی دو وجہ ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ باپ سے اس کا زیادہ حق ہے۔ اس لئے وہ تو بدرجۂ اولیٰ مقبول ہے یا اس وجہ سے کہ اس کی بددعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بددعا بھی رحمت و شفقت سے خالی نہیں ہوتی۔

رجل صالح۔ نیک آدمی وہ ہے جو بندگی کا حق ایسا ادا کرے جیسا اسے حکم دیا ہے اور اس پر مجبور ہے۔

بِر کے معنی نیکی ہے۔ "ولد بار" نیک لڑکا جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک سے پیش آئے ان کی رضا جوئی کا خواہشمند ہو۔

مسافر سے اللہ کی راہ میں چلنے والا مراد ہے، جیسے حج، جہاد، طلب علم وغیرہ کے لئے سفر کرنے والا، یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق مسافر مراد ہو۔

بعض نسخوں میں "حين يفطر" (جس وقت افطار کرے) کی بجائے "حتی یفطر" (یہاں تک کہ افطار کرے) ہے، یعنی روزہ دار کا افطار سے پہلے کا تضرع و انکسار کا وقت ہے اور افطار کے بعد کا شکر و رضا کا وقت ہے۔ دونوں دعا کی قبولیت کے وقت ہیں۔

ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرنے میں ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا ہے اگر کسی کے سامنے بھی اس طرح دعا کرے کہ اس کو خبر نہ ہو تو وہ غائبانہ دعا میں شامل ہے، جناب رسول خدا صلے اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

"جو مسلمان اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کے لئے دعاء خیر کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہوا کہتا ہے تجھے بھی اس کی مانند ملے"۔

مسلمان جب تک ظلم یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا جب تک یوں نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی اور جب یہ کہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اِسْمُ اللّٰہِ تَعَالٰی الْاَعْظَمُ الَّذِیْ اِذَا دُعِیَ بِہٖ اَجَابَ
وَاِذَا سُئِلَ بِہٖ اَعْطٰی لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ
مِنَ الظّٰلِمِیْنَ مُسْ وَاِسْمُ اللّٰہِ تَعَالٰی الْاَعْظَمُ مُصْ
اَلَّذِیْ اِذَا سُئِلَ بِہٖ اَعْطٰی وَاِذَا دُعِیَ بِہٖ اَجَابَ اَللّٰھُمَّ
اِنِّیْ اَسْاَلُکَ بِاَنِّیْ اَشْھَدُ اَنَّکَ اَنْتَ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ
اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ
کُفُوًا اَحَدٌ عٓہٰ حٰبٓ مُسْ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ بِاَنَّکَ
اَنْتَ اللّٰہُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ اِلٰٓی اٰخِرِہٖ مُصْ وَاِسْمُ اللّٰہِ تَعَالٰی
الْعَظِیْمُ الْاَعْظَمُ عٓہٰ حٰبٓ مُسْ اَمُصْ اَلَّذِیْ اِذَا
دُعِیَ بِہٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِہٖ اَعْطٰی اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ
بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنْتَ قٓ وَحْدَکَ لَا شَرِیْکَ
لَکَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِکْرَامِ عٓہٰ حٰبٓ مُسْ اَمُصْ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ عٓہٰ
حٰبٓ مُسْ اَوَاِسْمُ اللّٰہِ تَعَالٰی الْاَعْظَمُ فِیْ ھَاتَیْنِ الْاٰیَتَیْنِ
وَاِلٰھُکُمْ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ
وَفَاتِحَۃِ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

دَتِ قَ مُصٓ وَاسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى الْاَعْظَمُ فِيْ ثَلٰثِ
سُوَرٍ اَلْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ وَطٰهٰ مُسْ قَالَ الْمُقَاسِمُ
فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا اَنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قُلْتُ وَعِنْدِيْ اَنَّهُ
اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ جَمَعْتُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ
وَلِمَا رُوِّيْنَا فِيْ كِتَابِ الدُّعَاءِ لِلْوَاحِدِيِّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ
عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَالْقَاسِمُ هٰذَا هُوَ ابْنُ
عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الشَّامِيُّ التَّابِعِيُّ صَاحِبُ اَبِيْ اُمَامَةَ صَدُوْقٌ

اسمِ اعظم

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ کے اسمِ اعظم کے ساتھ جب دُعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے (اور وہ)

"لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" انبیاء، رکوع ۶

(اے خدا) تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک (ذات) ہے، میں نے (بڑا) ظلم کیا۔

میں ہے، حاکم (عن سعد بن وقاصؓ)

اسمِ اعظم وہ اسم ہے کہ جب اس کے ساتھ (اللہ سے) سوال کیا جائے تو وہ پورا کرے، اور جب اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو قبول کرے، اور وہ

"اللّٰھم انی اسئلک بانی اشھد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد"

خدایا میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں شہادت رکھتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تنہا ہے، بے نیاز ہے جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اسکے برابر کا ہے۔

میں ہے، سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم، احمد (عن بریدۃ ابن الحصیب)

اور لفظ اسم اللہ تعالےٰ الاعظم ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اس طرح ہے:-

toobaa-elibrary.blogspot.com

"الٰہی میں تجھ سے اس وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تنہا، بے نیاز، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔"

اور اللہ تر کا بہت بڑا اور بزرگ نام، سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم، احمد، ابن ابی شیبہ (عن انسؓ) وہ ہے کہ اس کے ساتھ جب دُعا کی جائے تو قبول ہو اور جب اس کے ذریعہ سے مانگا جائے، تو وہ دے دے۔

خدایا! میں تجھ سے (اس وسیلہ سے) سوال کرتا ہوں کہ تعریف تیرے ہی لئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں (ابن ماجہ) تو تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی مہربان ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اے بزرگی و بخشش والے، سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم، احمد، ابن ابی شیبہ، (عن انسؓ)

(اور اس کے ساتھ) اے زندہ اور اے سنبھالنے والے (کے الفاظ) سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم، مسند احمد میں اور زائد ہیں،

اور اسم اعظم ان دو آیتوں

"وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ" بقرہ رکوع ۱۹ ۔ اور (لوگو) تمہارا معبود تو (وہی) خدائے واحد ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے

"الٓمّٓ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" الم۔ اللہ (وہ پاک ذات ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ (کارخانۂ عالم کا) سنبھالنے والا۔

میں ہے ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ

اسم اعظم تین سورتوں ۔۔۔ سورۂ بقرہ، آلِ عمران اور طٰہٰ میں ہے، حاکم (عن ابی امامہؓ)

قاسم (جو راوی حدیث ہیں) کہتے ہیں، میں نے اس کو تلاش کیا تو "الحی القیوم" کو اسم اعظم پایا۔

(مصنفؒ) میں کہتا ہوں، میرے نزدیک "انہ اللہ لا الٰہ الا ھو الحی القیوم" اسم اعظم ہے تاکہ دونوں حدیثوں میں مطابقت ہو جائے (اور میرے خیال کی وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے) جو واحدی کی کتاب الدعاء یونس بن عبدالاعلیٰ سے ہمیں پہنچی ہے، اور قاسم وہ عبدالرحمٰن شامی تابعی ہیں جو حضرت ابو امامہؓ کے قابلِ اعتماد شاگرد ہیں۔

شرح:۔ حضرت سعد بن وقاصؓ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کیا میں تمہیں اسم اعظم نہ بتاؤں؟ کہ جب اللہ سے اس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو بول ہو، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا "لا الٰہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" ہے۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول، کیا یہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کے لئے خاص تھا؟ آپ نے فرمایا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا:۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

"فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ" انبیاء، رکوع ۶

تو ہم نے ان کی فریاد سُن لی اور ان کو غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔

یعنی سب کے لئے عام ہے

اسم اعظم، اسمائے الٰہی میں سے شبِ قدر کی طرح پوشیدہ ہے جس کو جس اسم سے نفع ہوا، اس نے اسی کو اسم اعظم سمجھ لیا، جس طرح شبِ قدر کو مختلف تاریخوں میں دیکھا جس شخص نے جس تاریخ کو دیکھا ویسا ہی بیان کر دیا لیکن تمام حضرات کی اسم اعظم کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اسم اعظم لفظ "اللہ" ہے اس لئے کہ اللہ اسم ذات ہے اور اسکے علاوہ جس قدر اسماء ہیں وہ سب صفاتی ہیں۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اسم ذات اس شرط سے اسم اعظم ہے کہ تو اللہ کہے اور تیرے دل میں اس کے سوا کوئی نہ ہو تو اس کا اثر ہوگا۔

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ آپ مجھے اسم اعظم تعلیم فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں دکھایا کہ اسم اعظم "ھو اللہ الذی لا الٰہ الا ھو رب العرش العظیم" ہے۔

اسم اعظم کے بارے میں اولیاء اللہ کے بہت سے اقوال ہیں، علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اس کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بعض محققین حضرات نے کہا ہے، اس جامع دعا میں تمام بزرگوں کے اقوال آگئے ہیں۔

"اللھم انی اسئلك بأن لك الحمد لا الٰہ الا انت یا حنان، یا منان، یا بدیع السمٰوٰت والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا خیر الوارثین، یا ارحم الراحمین، یا سمیع الدعاء، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا عالم، یا سمیع، یا علیم، یا حلیم، یا ملك الملك، یا مالك، یا سلام، یا حی، یا قدیم، یا قاھر، یا غنی، یا محیط، یا حکیم، یا علی، یا قاھر، یا رحمٰن، یا رحیم، یا سریع، یا کریم، یا مخفی، یا معطی، یا مانع، یا محیی، یا مقسط، یا حی، یا قیوم، یا الحمید، یا حمید، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا وھاب، یا غفار، یا قریب، یا کا الٰہ الا انت سبحانك

خدایا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس وجہ سے کہ تعریف تیرے ہی لئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے شفقت کرنے والے، احسان کرنے والے، آسمان و زمین کے موجد، اے بزرگی و بخشش والے، اے بہتر بن وارث، اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم، اے پکار سننے والے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے جاننے والے، اے سننے والے، اے سب سے زیادہ واقف، اے بردبار، اے جہان کے مالک، اے بادشاہ (دو جہان) کے عیبوں سے پاک، اے بچانے والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے موجود، اے بے پرواہ، اے گھیرنے والے، اے حکمت والے، اے بلند و برتر، اے غالب، اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے جلد پکڑنے والے، اے بخشش کرنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، اے داتا، اے روک لینے والے، اے عدل کرنے والے، اے زندہ، اے سنبھالنے والے، اے لائق تعریف، اے (سراپا) تعریف، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پرورش کرنے والے، اے معاف کرنے والے

انی کنت من الظالمین۔
انت حسبی ونعم الوکیل"

اور بخشش دینے والے اے نزدیک، اے وہ ذات کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، مجھے تو تو بس ہے اور تیری حفاظت کافی ہے۔

احادیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم "لا الہ الا ھو" اور "اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم" ہے، اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اسم اعظم سورۃ بقرہ، آل عمران اور طٰہٰ میں ہے، وہ بھی اس کی مؤید ہے، اس لئے کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران میں ایک ہی الفاظ ہیں سورۃ بقرہ میں ہے "اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم" اور سورۃ آل عمران میں ہے "الم اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم" مگر سورۃ طٰہٰ میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، اس میں ہے "وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ" رکوع ۶۔

اس لئے مصنف نے دونوں حدیثوں کے جمع کرنے کی غرض سے یہ نتیجہ نکالا کہ "لا الہ الا ھو" اور "اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم" اسم اعظم ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاَسْمَآءُ اللّٰهِ تَعَالٰى الْحُسْنٰى الَّتِيْ اَمَرَنَا بِالدُّعَآءِ بِهَا
تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خ م
ت س ق مس حب لَا يَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
خ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ
الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ
الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ
الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ
الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ
الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ
الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِيُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ
الْمُحْيِ الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ
الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ
الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيْ الْمُتَعَالِيْ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ
الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِیُّ الْمُغْنِی الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِی الْبَدِیْعُ الْبَاقِی الْوَارِثُ الرَّشِیْدُ الصَّبُوْرُ

قَ مُسْ حِبْ

اسماءِ حُسنیٰ

اللہ کے پیارے پیارے نام

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حُسنیٰ جن کے ساتھ ہمیں دُعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ننانوے نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنّت میں داخل ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سالم، ابن حبان (عن ابی ہریرہؓ)

امام بخاریؒ نے یہ جملہ اس طرح روایت کیا ہے "کہ کوئی شخص ان (اسمائے حسنیٰ) کو یاد نہیں کریگا مگر جنّت میں داخل ہوگا، (عن ابی ہریرہؓ) اور وہ یہ ہیں:-

وہ اللہ (ایسا پاک ذات ہے) کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہایت رحم والا، بہت مہربان (تمام جہان کا) بادشاہ، تمام عیبوں سے پاک، تمام نقصانات سے محفوظ، اپنے وعدہ میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا، بڑا نگہبان یا گواہ، غالب، قوی، قاہر، بڑائی بنانے والا، زبردست، بڑی عظمت و بزرگی والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا موجد، تمام مخلوق کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا، بہت بخشنے والا، زبردست یا غلبہ رکھنے والا، بلا عوض بہت دینے والا، مخلوقات کا روزی رساں، مشکلکشا یا بندوں میں حکم کرنے والا، ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا روک دینے والا، (بندوں کی روزی محدود یعنی نپی تلی کرنے والا) ہر چیز کا کھولنے والا (بندوں کی) روزی فراخ کرنے والا، (نافرمانوں کو) پست کرنے والا، (فرمانبرداروں کو) بلند کرنے والا، عزت بخشنے والا، ذلت دینے والا، ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ دیکھنے والا، (مخلوقات کا) حکم آن، صحیح فیصلہ کرنے والا، نہایت منصف، انتہائی باریک بین، (بے انتہا لطف و نرمی کرنے والا)، بڑا باخبر، آگاہ، دانا، عالم، عارف، نہایت بُردبار، اپنی ذات و صفات میں بزرگ و برتر، بہت مغفرت کرنے والا، بڑا قدر شناس، بڑا بلند مرتبہ بڑا (ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی متصور نہیں ہوسکتا) محافظ، نگہبان، مخلوقات کو روزی دینے والا، بہت ہی کافی، بڑا حساب لینے والا، بڑا بزرگ، بڑا سخی، شریف، بلا سفارش دینے والا، بلا سفارش بخشنے والا، بڑا نگہبان، بہت ہی قبول کرنے والا، بڑی وسعت والا (وسیع المعلومات یا وسیع الغناء)، بڑی حکمت والا (حقائق اشیاء کا عالم)، بڑی محبت رکھنے والا، بڑی شان والا،

بزرگ، شریف، مردوں کو مرے پیچھے اٹھا کر کھڑا کرنے والا، ہر جگہ ہر وقت موجود، حاضر، ثابت، برحق، خلاق کے لائق، بڑا کارساز، بڑا زور والا، استوار، بڑا قوی، محب، دوست، مددگار، مستحق حمد، شمار رکھنے والا، ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، مخلوقات کو زندہ رکھنے والا، موت دینے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا، بڑا غنی، بڑا بزرگ، بڑی عظمت والا، یکتا، یگانہ، بڑا بے نیاز، بڑی قدرت والا، قدرت ظاہر کرنے والا، صاحب مقدرت، سبقت دینے والا، اپنے دوستوں کو بارگاہ عزت کی طرف بڑھانے والا، پیچھے رکھنے والا، دشمنوں کو اپنے لطف سے پیچھے ہٹانے والا، سب سے پہلا، سب سے پچھلا، سب سے ظاہر، بلحاظ قدرت، سب سے پوشیدہ ہے بلحاظ ذات، بڑا مستقل، بڑا کارساز، تمام امور کا متولی، بہت بلند، مخلوقات کی صفات سے منزہ، بڑا سلوک کرنے والا، اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا، گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا، نافرمانوں سے بدلہ لینے والا، بڑی درگذر کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، نہایت ہی شفیق، خداوند جہان، بڑی بزرگی و عزت والا، بڑا منصف و عادل، قیامت میں سب کو اٹھا کرنے والا، غنی، بے پروا، غنی بنانے والا، بے پروا کرنے والا، بلا کا روکنے والا، اپنے دوستوں سے تکلیف روکنے والا، بڑا ضرر پہنچانے والا، ضرر و شر کا خالق، بڑا نفع پہنچانے والا، نفع و خیر پیدا کرنے والا، روشن کرنے والا، راہ (ہدایت) دکھلانے والا، بڑا موحد، ہمیشہ باقی رہنے والا، ہر چیز کا مالک، وارث فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا، راشد، رہنما، بڑا صبر و تحمل والا۔

شرح: اسمائے حسنیٰ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا حصر ننانوے ناموں ہی پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں، ان سے تو یہ مقصود ہے کہ ان ناموں کی جو خاصیت ہے۔ انھیں ناموں کے ساتھ مخصوص ہے، نوامع الغیوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ایسے ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ایک ہزار نام ایسے ہیں جن کو صرف فرشتے ہی جانتے ہیں اور ایک ہزار نام ایسے ہیں جو مسلمانوں کی زبان پر جاری و ساری ہیں، ان میں سے تین سو توریت میں تین سو انجیل میں، تین سو زبور میں اور سو بسم اللہ میں مذکور ہیں، جن میں سے ننانوے نام تو لوگوں پر ظاہر ہیں اور ایک نام پوشیدہ ہے اور وہی اسم اعظم ہے۔

حضرت مولانا قطب الدین صاحب نے اپنے ترجمہ حصن حصین میں اسمائے حسنیٰ کی شرح کی ہے، ہم بھی یہاں اس سے بعض چیزیں نقل کریں گے۔

حضرت ابو عبید اللہ سے منقول ہے، میں نے اللہ کے نام قرآن مجید میں تلاش کئے تو ایک سو تیرہ نام مگر بعض مکرر تھے، جیسے غافر، غفور، غفار وغیرہ، مکررات حذف کرنے کے بعد ننانوے ہی باقی رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

"وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا" الاعراف، رکوع ۲۰

اور اللہ کے (سب ہی) نام اچھے ہیں تو اس کے نام سے کر اس کو (ان ناموں سے چاہو) پکارو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

"احصاً" کے معنی میں اختلاف ہے، امام بخاریؒ وغیرہ نے حفظ کرنے اور یاد کرنے کے کئے ہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں "حفظھا" آیا ہے، بعض علماء نے اس کے معنی پڑھنا، ایمان لانا، معانی جاننا، معانی پر عمل کرنا کئے ہیں، بعض نے قرآن مجید یاد کرنا کئے ہیں، اس لئے کہ یہ تمام نام قرآن شریف میں موجود ہیں۔

۱ "اَللّٰہُ" ذات واجب الوجود، معبود حقیقی کا نام ہے، یہ نام اس کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں بول سکتے، نہ حقیقتاً نہ مجازاً، مگر دوسرے نام مجازاً اور دل پر بولے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ نام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اسی لئے بعض حضرات نے اس کو اسم اعظم کہا ہے۔

بندہ کو چاہئے ان اسمائے حسنیٰ کے معنی اپنے اندر پیدا کرے اور ان اوصاف سے متصف ہو، ہم اسمائے حسنیٰ کی تشریح میں اس بات کو نصیب کے تعبیر کریں گے۔

لفظ "اَللّٰہُ" تعلق کے لئے ہے، نہ تخلق، یعنی خلق پکڑنے کے لئے۔

نصیب یہ ہے کہ اس سے لگاؤ پیدا کرے، اپنا دل اس کی یاد میں مستغرق رکھے، اس کے سوا دوسرے کی طرف التفات نہ کرے، اس کے غیر سے کچھ امید نہ رکھے اور اس کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہ ہو۔

خاصیت: جو اس نام کو ہزار بار پڑھے اس میں عزم و یقین کی قوت پیدا ہو جائے، اگر نماز کے بعد سو بار پڑھے تو باطن کشادہ ہو جائے اور کشف ہونے لگے۔

۲ "اَلرَّحْمٰنُ" بخشنے والا، نہایت رحم والا۔

۳ "اَلرَّحِیْمُ" نہایت مہربان، دونوں مبالغے کے وزن ہیں، مگر رحیم میں مبالغہ زیادہ ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت کو شامل اور صرف خدا کی مقدس ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔

نصیب یہ ہے کہ مخلوقات پر مہربانی کرے اور نظر رحمت رکھے، اپنے سب کام اللہ کے سپرد کرے کہ وہی منعم حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ چاہے، برائی کے دور کرنے میں سعی و کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے بلا غرض اور بلا عوض محتاجوں کی حاجت روائی کرے۔

خاصیت: نماز کے بعد جو شخص "الرحمٰن الرحیم" کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غفلت، بھول اور سختی دور کر دیتا ہے اور جو ہر روز سو بار "رحیم" کہے تو تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے۔

۴ "اَلْمَلِکُ" بادشاہ حقیقی، دونوں جہان اسی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، مَلِک مالک سے اخص اور ابلغ ہے، یعنی دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر مَلِک کو مالک تو کہہ سکتے ہیں مگر ہر مالک کو مَلِک نہیں کہہ سکتے۔

نصیب: جب یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ حقیقی اللہ ہے تو اسی کی درگاہ کا غلام اور اسی کی گلی کا گدا بنے، اور اسی کی اطاعت و فرمانبرداری سے اپنی عزت چاہے، اور سب سے بے نیاز ہو کر اس کی قدرت اور تصرف سے رشتہ جوڑے، اس کے علاوہ کسی غیر سے نہ اپنی حاجت ظاہر کرے، نہ امید و خوف رکھے، ظاہر و باطن میں اپنا تصرف کرے، اور اعضاء و جوارح کو اس کا مطیع بنائے، تاکہ اپنے عالم وجود کا بادشاہ ہو، بعض مشائخ سے کسی نے وصیت چاہی تو فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہو جا، یعنی اپنی حاجت اور خواہش کو دنیا

toobaa-elibrary.blogspot.com

سے منقطع کر کیونکہ بادشاہی اور ملک رانی آزادی اور بے نیازی کا نام ہے۔

خاصیت: جو اس نام کو "القدوس" کے ساتھ ملا کر ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اگر صاحب ملک ہو تو اس کا ملک ہمیشہ باقی رہے اور اگر صاحب ملک نہ ہو تو اس کا نفس اس کا فرمان بردار ہو جائے، اگر عزت و حرمت کے لئے پڑھے تو مجرب ہے۔

۵ "اَلْقُدُّوْسُ" تمام عیبوں سے پاک۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے علم کو بُرے خیالوں سے اور اپنے ارادوں کو بشریت کی لذتوں سے پاک صاف کرے

خاصیت: زوال کے وقت جو شخص اس نام کو پڑھے، اس کا دل صاف ہو، اور نماز جمعہ کے بعد جو اس نام کو "اَلسُّبُّوْحُ" کے ساتھ ملا کر روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھلائے فرشتہ صفت ہو جائے اور دشمن سے بچنے کے لئے بھاگنے کے وقت جس قدر پڑھ سکے پڑھے، اگر مسافر راہ میں اس کی مداومت کرے کبھی ماندہ اور عاجز نہ ہو اگر تین سو اکتیس بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو مہربان ہو جائے۔

۶ "اَلسَّلَامُ" تمام نقصانات سے محفوظ، یہ اصل میں مصدر ہے، یعنی سلامت، مگر یہاں سالم کے معنی میں ہے، یعنی وہ جس کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقصان سے سالم اور محفوظ ہے

نصیب یہ ہے کہ بُرے اخلاق اور بیکار کاموں سے محفوظ رہے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو ایک سو پندرہ مرتبہ ہمیشہ پڑھ کر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اگر اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو خوف سے نڈر رہو۔

۷ "اَلْمُؤْمِنُ" اپنے وعدہ میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا، لفظ مومن کا ماخذ امن و امان ہے یا ایمان ہے، اگر امن و امان ہے تو مومن کے معنی ہوئے امن دینے والا، یعنی دنیا میں اسباب امن کا مہیا کرنے والا یا عقبیٰ میں نیکو کاروں کو عذاب سے امان میں رکھنے والا، اور اگر ماخذ ایمان ہے تو مومن کے معنی ہوئے مصدق یعنی ایمان داروں کے ایمان کو باور کرنے والا۔

نصیب یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اپنی اور غیروں کی بُرائی سے مامون و محفوظ رکھے۔

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو پڑھے یا اپنے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے گا، اور کوئی اس پر قدرت نہ پا سکے گا اور اس کا ظاہر و باطن حق تعالیٰ کی امان میں رہیگا اور جو بکثرت پڑھتا رہے تو مخلوق اس کی مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی۔

۸ "اَلْمُهَيْمِنُ" نگہبان یا گواہ، المہیمن کا لفظ دین المؤمن ہے۔ المؤمن باب افعال سے ہے، اور المہیمن باب مفاعلۃ سے تو المہیمن اصل میں المؤمن تھا دو کے ہمزہ میں قاعدۂ تلیین جاری کر کے اسے ہی سے بدل لیا اور پہلے ہمزہ کو کاسے، معنا المؤمن والمہیمن، ایک ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے دل کا مراقب اور محافظ بنے اور اس کے احوال و اسرار پر مطلع ہو اور اپنے اچھے اوصاف پر غالب رہے۔

خاصیت: جو کوئی غسل کر کے اس اسم کو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے تو پچھلی اور پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو، اور

toobaa-elibrary.blogspot.com

اگر ہمیشہ پڑھتا رہے تو تمام آفتوں سے محفوظ رہے۔

۹ "اَلْعَزِیْزُ" غالب، قوی، قاہر، اصل میں عزیز اسے کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں بآسانی پہنچنا ممکن نہ ہو۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس اور خواہشات نفسانی اور شیطان پر غالب ہو اور حرص وطمع اور سوال اور ذلت کے سبب سے اہلِ دنیا کے دروازہ پر اپنی آبرو نہ ری نہ کرے، اور اپنی حاجت اللہ کے سوا اور کسی سے ظاہر نہ کرے اور علم وعمل اور عرفان میں بے مثل بنے۔

خاصیت: نمازِ فجر کے بعد حواس اسم کو اکتالیس بار پڑھے، کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے اور اس اسم کی عجیب وغریب خاصیتیں ہیں۔

۱۰ "اَلْجَبَّارُ" بگڑی بنانے والا، زبردست، بڑا دباؤ والا، جبار مبالغہ کا صیغہ ہے، جبر سے مشتق ہے اور جبر کے اصل معنی ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا اور کسی کے حال کی اصلاح کرنا اور کسی کو زور غلبہ سے کسی کام پر آمادہ کرنا، پہلی صورت میں یہ اسم جمالی ہوگا اور دوسری میں جلالی۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس کے نقصانوں کو فضائل وکمالات کے حاصل کرنے سے درست کرے، اور اپنے نفس سرکش پر غالب ہو کر لزوم تقویٰ اور دوامِ طاعت سے مرتبۂ کمال کو پہنچے۔

خاصیت: جو کوئی مسبعاتِ عشر کے بعد اکیس بار یہ اسم پڑھے، ظالموں کے شر سے محفوظ رہے، اور جو شخص ہمیشہ پڑھتا رہے، مخلوق کی عیب جوئی اور پریشانی سے مامون رہے اور دولت اور سلطنت والا ہو جائے، اور اگر انگوٹھی پر نقش کر کے پہنے تو اس کی ہیبت وشوکت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو۔

مسبعاتِ عشرت یہ دس چیزیں مراد ہیں، جن کو بسم اللہ کے ساتھ سات سات مرتبہ پڑھا کرتے ہیں: الحمد، سورۂ فلق، سورۂ ناس، سورۂ اخلاص، سورۂ کافرون، آیۃ الکرسی، کلمۂ توحید، درود شریف اور یہ دعا۔ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَارْحَمْھُمَا کَمَا رَبَّیَانِیْ صَغِیْرًا، اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِجَمِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْاَحْیَاءِ مِنْھُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّکَ مُجِیْبُ الدَّعْوَاتِ، یَا قَاضِیَ الْحَاجَاتِ، وَیَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ، بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔

اور یہ دعا۔ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ اِفْعَلْ فِیْ دِیْنِھِمْ عَاجِلًا وَّاٰجِلًا فِی الدِّیْنِ وَالدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ مَا اَنْتَ لَہٗ اَھْلٌ وَّلَا تَفْعَلْ بِنَا، یَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَہٗ اَھْلٌ اِنَّکَ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ جَوَادٌ کَرِیْمٌ رَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ۔

۱۱ "اَلْمُتَکَبِّرُ" بڑی عظمت وبزرگی والا، تکبر اور استکبار کے معنی ہیں اگر بین کشی کرنا اور بزرگی ظاہر کرنا اور ایک لفظ ہے کبریا جس کے معنی ہیں بزرگی، یہاں متکبر سے مراد ہے کمال بزرگی والا۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک میں پہنچنے کے سوا اور پہنچنے کے سامان کے سوا دنیا کی لذت کی تمام چیزوں کو بلکہ آخرت کی نعمتوں کی چیزوں کو بھی حقیر سمجھے اور دنیا اور اہلِ دنیا کی چکنی چپڑی چیزوں اور لذتوں کی طرف مائل نہ ہو، اور شان کی کچھ قدر سمجھے کیونکہ انسان کی شان بہت بڑی ہے اور دین کا مرتبہ بہت بلند ہے

اس لئے نہیں کہ اپنے آپ کو بزرگ اور اپنی ذات کو بڑا جانے۔

خاصیت: اگر اس اسم کو اپنی حلال منکوحہ سے صحبت کرنے سے پہلے دس مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرزند رشید اور بزرگ عطا فرمائے اور اگر ہر کام کی ابتدا میں بکثرت پڑھے تو مراد پائے۔

۱۲ "اَلْخَالِقُ": ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔

۱۳ "اَلْبَارِئُ": ہر چیز کا موجد۔

۱۴ "اَلْمُصَوِّرُ": تمام مخلوقات کی طرح طرح کی صورتیں بنانے والا۔

خالق، بارئ، مصور تینوں مترادف المعنی ہیں، یعنی تینوں کے معنی ہیں پیدا کرنا، اختراع کرنا، مگر باعتبار استعمال ہر ایک کے ساتھ ایک خصوصیت جداگانہ ہے، مثلاً خلق مستعمل ہوتا ہے کسی چیز کے وجود میں لانے سے پیشتر اس کے اندازہ کرنے میں، اور برء ایجاد و پیدا کرنے میں، اور تصویر صورت بنانے اور ہیئت بخشنے میں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اولاً اندازہ کرنے کی، ثانیاً صورت بنانے کی۔

نصیب یہ ہے کہ جب اوراد و وظائف سے فارغ ہو تو کوئی ایسا کام کرے جس سے اکل حلال حاصل ہو، خصوصاً وہ کام اختیار کرے جس کا اثر اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچے، مثلاً علم دین کی درس و تدریس یا تصنیف و تالیف وغیرہ

خاصیت: جو شخص الخالق ہمیشہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور فرماتا ہے اور جو کوئی ہفتہ میں سو بار البارئ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو تجر میں نہیں چھوڑے گا بلکہ ریاض قدس کی طرف لے جائے گا، اور جس شخص کی بیوی بانجھ ہو تو سات روز روزہ رکھے اور افطار کے وقت کھیرا بار المصور پڑھے، اور پانی پر دم کر کے پلائے تو انشاء اللہ اس کی بیوی حاملہ ہو جائے گی اور نیک فرزند جنے گی۔

۱۵ "اَلْغَفَّارُ": بہت بخشنے والا، مبالغہ ہے، غافر کا اور ایک ہے غفور یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں غفار کی بہ نسبت مبالغہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، غفار لیا گیا ہے غفران اور مغفرت سے جس کے معنی ہیں بخشنا مگر کبھی غفر بمعنی ستر بھی آتا ہے، اس وقت اس کے معنی ہوں گے گناہوں کا چھپانے والا۔

نصیب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف کرے، خطاؤں سے درگذر کرے اور ان کی پردہ پوشی کرے اور عیب چھپائے۔

خاصیت: جو شخص نماز عصر کے بعد سو بار "یا غفار اغفرلی" کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے۔

۱۶ "اَلْقَهَّارُ": زبردست یا غلبہ رکھنے والا، تمام عالم اس کے قبضۂ قدرت کے نیچے عاجز و ماند ہے

نصیب یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن نفس و شیطان پر غالب ہو۔

خاصیت: جوشخص بکثرت اس اسم کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بخیر کرتا ہے اور خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے

۱۸ "اَلْوَهَّابُ" بخشش عطا کرنے والا، بلا معاوضہ بہت دینے والا، وہب اور ہبہ کہتے ہیں بخشنے اور عطا کرنے کو، موہبت بخشش، و باب مبالغہ ہے کثیر الہبہ، دائم العطا۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنا جان و مال بلا غرض اور بلا معاوضہ خرچ کرے۔

خاصیت: جوشخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، وہ اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے، یا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقہ اس طرح دُور فرمائے گا کہ وہ حیران و متحیر رہ جائے گا، اور اگر کوئی نماز چاشت کے بعد آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرے اور سجدہ میں سات بار اس اسم کو پڑھے تو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے، اور اگر کسی قسم کی حاجت ہو تو رات کو گھر یا مسجد کے صحن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور سو بار اس کو پڑھے، تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔

۱۹ "اَلرَّزَّاقُ" مخلوقات کو روزی پہنچانے والا، یہ بھی رازق کا مبالغہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ تمام مخلوق کو مناسب حال، اور موافق حکمت رزق پہنچاتا ہے۔

رزق کی دو قسمیں ہیں محسوس اور معقول محسوس ابدان کے لئے اور معقول ارواح کے واسطے

نصیب یہ ہے کہ خلق خدا کو روحانی اور جسمانی رزق سے نفع پہنچائے۔

خاصیت: جوشخص صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس بار اس اسم کو پڑھے تو اس کے گھر میں ہرگز بیماری اور مفلسی نہ ہو، پڑھتے وقت داہنے کونے سے شروع کرنا چاہیے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا چاہیے۔

۲۰ "اَلْفَتَّاحُ" مشکلکشا یا بندوں میں حکم کرنے والا، فتح کے معنی کھولنے اور حکم کرنے کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت اور علم و معرفت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ خلائق میں حاکم علی الاطلاق ہے۔

نصیب یہ ہے کہ خلق خدا کی مشکلات حل کرے ان کے مصائب دُور کرے۔

خاصیت: جوشخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر باندھ کر سات بار یہ اسم پڑھے تو اس کے دل سے سیاہی و زنگ دُور ہو جاتا ہے، اور نور اور صفائی پیدا ہو جاتی ہے

۲۱ "اَلْعَلِيْمُ" بہت جاننے والا، ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا، مبالغہ ہے عالم کا یعنی خدا تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ بلکہ خطرات دل تک کا جاننے والا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرے اور اس کے حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرے۔

خاصیت: جوشخص بکثرت اس اسم کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جو ذکر کے بعد "یا عالم الغیب" سو بار کہے تو صاحب کشف ہو جائے۔

۲۲ "اَلْقَابِضُ" ہر چیز کا روک دینے والا (بندوں کی روزی محدود یعنی نپی تلی کرنے والا) اور دل تنگ کرنے والا اور روح قبض کرنے والا۔ قبض و بسط دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں؛ قبض کہتے

ہیں تنگی و گرفتگی کو اور بسط فراخی و کشائش کو (یعنی خدا جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور جس کی چاہتا فراخ کرتا ہے)

خاصیت: جو شخص چالیس روز اس اسم کو چار قلموں پر لکھ کر کھائے تو بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔

۲۲ "اَلْبَاسِطُ": ہر چیز کا کھولنے والا (بندوں کی روزی فراخ کرنے والا) قبض و بسط کے یہ معنی بھی ہیں کہ سوتے میں لوگوں کی روحیں قبض کرتا اور بیداری کے وقت بسط کرتا ہے۔

نصیب ان دونوں اسموں سے یہ ہے کہ بندوں کا دل خوفِ الٰہی سے تنگ کرے اور بیانِ وسعتِ رحمت اور فضل لامتناہی سے اس کو فراخ کرے۔

خاصیت: جو شخص سحر کے وقت ہاتھ اٹھا کر دل میں دس بار اس اسم (الباسط) کو پڑھے اور منہ پر ہاتھ پھیرے تو کبھی اس بات کا محتاج نہ ہوگا کہ کسی سے کچھ مانگے۔

۲۳ "اَلْخَافِضُ": (نافرمانوں کو) پست کرنے والا۔

۲۴ "اَلرَّافِعُ": (فرمانبرداروں کو) بلند کرنے والا

خفض ضد ہے رفع کی، کیونکہ خفض کہتے ہیں پست کرنے کو اور رفع بلند کرنے کو، خدا کے خافض و رافع ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے فرمانبرداروں کو قرب کی دولت عطا فرما کر انھیں بلند کرتا اور نافرمانوں کو بارگاہِ عالی سے دُور کر کے پستی میں ڈالتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ اہلِ باطل سے نفرت اور دشمنی رکھے اور ان سے مل کر باطل کو مٹائے اور اس کی بیخ کنی کی کوشش کرے اور اہلِ حق سے محبت اور تعلق رکھے اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کو بلند کرے اور اس کے پھیلانے کی پوری پوری سعی کرے۔

خاصیت: جو شخص تین روز سے رکھے اور چوتھے روز ایک مجلس میں سو بار الخافض پڑھے تو دشمن پر فتحیاب ہو اور جو شخص ہر مہینہ کی چودھویں رات کو آدھی رات میں الرافع سو بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو خلائق سے برگزیدہ، تونگر اور بے نیاز فرمائے۔

۲۵ "اَلْمُعِزُّ": عزت دینے والا

۲۶ "اَلْمُذِلُّ": ذلیل کرنے والا

اعزاز کہتے ہیں عزیز کرنے کو اور اذلال، خوار و ذلیل کرنے کو، یعنی خدا جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے دنیا میں توفیقِ طاعت و یکر اور عقبیٰ میں علوِ مرتبت اور نعیمِ جنت عطا فرما کر اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے دنیا میں توفیقِ طاعت سلب کر کے اور آخرت میں اسفل السافلین میں داخل کر کے حضرت امام نسفیؒ کا قول ہے کہ ان لفظوں کے معنی یہ ہیں کہ خدا جسے چاہتا ہے مُلک دیتا اور جس سے چاہتا چھین لیتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم و معرفت کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ان کی قدر و منزلت کرے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کفر و گمراہی کے سبب سے ذلیل و خوار کیا ہے ان کو حقیر سمجھے اور ذلیل کرے۔

خاصیت: جو شخص شب دوشنبہ یا جمعہ کو نماز مغرب کے بعد ایک سو چالیس مرتبہ المعز پڑھے تو لوگوں کی نظر میں اس کی ہیبت اور وقار قائم ہو، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، جو شخص کسی ظالم حاسد سے ڈرتا ہو تو چھتیس بار المذل پڑھے اور سجدہ میں جاکر کہے کہ یا اللہ فلاں ظالم کی شر سے محفوظ رکھ تو اللہ تعالیٰ اس کے شر اور برائی سے بچائے گا۔

۲۷ "اَلسَّمِیْعُ" بہت سننے والا

۲۸ "اَلْبَصِیْرُ" بہت دیکھنے والا

نصیب یہ ہے کہ خلاف شرع کسی بات کے کہنے اور کسی چیز کے دیکھنے اور کسی چیز کے سننے سے احتراز کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام حرکات وسکنات پر حاضر وناظر جانے۔

خاصیت، جو شخص جمعرات کے روز نماز چاشت کے بعد السمیع پانچسو بار اور ایک قول کے مطابق سو بار اور (بڑھتے وقت) بات نہ کرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان سمیع عقیدہ سے سو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر خاص سے سرفراز فرماتا ہے۔

۲۹ "اَلْحَکَمُ" مخلوقات کا حاکم

نصیب یہ ہے کہ فیصلے کرنے اور حکومت کرنے میں عدل وانصاف برتے اور اپنے نفس پر منصف اور حاکم بنا رہے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی رات یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو اپنے بھیدوں کی کان بنا دیتا ہے۔

۳۰ "اَلْعَدْلُ" منصف یعنی فیصلہ میں ظلم نہ کرنے والا، یہ بندے ظلم کی اور کبھی استقامت اور اعتدال اور ایک چیز کو ایک چیز کے برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا جو ظلم سے منزہ ہے کیونکہ ملک غیر میں تصرف کرنے کو ظلم کہتے ہیں اور عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ملک سے خارج ہو۔

نصیب یہ ہے کہ خلق اور حق کے معاملات میں انصاف کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کے دن اس اسم کو بیس گھنٹوں پر لکھ کر کھالے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اس کا مطیع کر دیتا ہے۔

۳۱ "اَللَّطِیْفُ" باریک بین، لطف کرنے والے ہیں کسی کام میں نرمی کرنے کو اور کبھی نیکی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لطیف کے معنی باریک بین کے بھی ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ خلق خدا کو اُسکے معبود حقیقی کی طرف نرمی وشفقت کے ساتھ بلائے۔

خاصیت: جو شخص فقر وفاقہ میں مبتلا ہو، یا تنہائی میں کوئی مونس نہ ہو، یا بیماری میں غمخوار نہ ہو، یا لڑکی کے لئے رشتہ نہ ملتا ہو تو وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور دوگانہ پڑھکر اس اسم کو اپنے مطلب کی نیت سے سو بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔

۳۲ "اَلْخَبِیْرُ": آگاہ، دانا، عالم، عارف، مشتق ہے خبر سے اور خبر کے معنی ہیں آگاہی کے، خبیر آگاہ اور دانا، یعنی ملک وحکومت میں کوئی چیز متحرک وساکن نہیں ہوتی اور زمین وآسمان میں کوئی ذرہ مضطرب وملتمس نہیں ہوتا اور کون ومکان میں کوئی سانس نہیں لیتا مگر خدائے تعالیٰ اس سے خبردار ہوتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ دین ودنیا کے کاموں میں باخبر اور باریک بین ہو۔

خاصیت: جو شخص خواہشاتِ نفسانی میں مبتلا ہو وہ بکثرت اس اسم کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔

۳۳ "اَلْحَلِیْمُ": نہایت بُردبار، حلم آہستگی اور بُردباری، حلیم اسے کہتے ہیں جو مغضوب الغضب نہ ہو اور انتقام لینے میں جلدی نہ کرے بلکہ باوجود اقتدار کے عفو ودرگذر سے کام لے، خدا کو حلیم اس لئے کہا کہ وہ گنہگار بندوں کی تادیب وتعذیب میں جلدی نہیں کرتا۔

نصیب یہ ہے کہ بدبختوں، بخیلوں اور کمینوں کی ایذا رسانی پر تحمل کرے اور زیردستوں کی تکلیف دہی میں بُردباری سے کام لے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی اپنی کھیتی میں چھڑک دے تو اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو آفت سے محفوظ رکھے گا۔

۳۴ "اَلْعَظِیْمُ": اپنی ذات وصفات میں بزرگ وبرتر عظیم وبزرگ ہونا خواہ کسی اعتبار سے بھی ہو۔

نصیب یہ ہے کہ اپنی ہمت رکھے اور دُنیا کی طرف مائل نہ ہو اور کونین کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلہ میں حقیر سمجھے اور وہ کمالات حاصل کرے جن سے اس کی قدر بڑھے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو بازو ناخن جس قدر ہو سکے بڑھتا رہے تو لوگوں کی نظروں میں عزیز اور بزرگ ہو جاتا ہے۔

۳۵ "اَلْغَفُوْرُ": بہت بخشنے والا، غفّار کے معنی میں ہے اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں مگر غفور میں زیادہ مبالغہ ہے یعنی جو بڑے بڑے گناہ بخشے اور اس کی بخشش اتم واکمل ہو دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے گناہ اعمالناموں سے محو کر دے یعنی حساب نہ لے یا دنیا میں پردہ فاش نہ کرے کیونکہ غفر کے معنی مٹانے اور چھپانے کے بھی آیا کرتے ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف کرے، خطاؤں سے درگذر کرے اور ان کی پردہ پوشی کرے اور عیب چھپائے۔

خاصیت: جو شخص کسی مرض مثلاً تپ اور دردِ سر وغیرہ اور رنج وغم میں مبتلا ہو تو اس اسم کو کاغذ پر لکھے اور اس کا نقش روٹی سے جذب کر کے کھائے، اللہ تعالیٰ اس کو مرض سے شفا اور غم والم سے نجات دے گا اور اگر اس کو بکثرت پڑھے تو اس کے دل سے زنگ وسیاہی دُور ہو، صحیح حدیث میں ہے کہ جو کوئی سجدہ کرے اور سجدہ میں "یَارَبِّ اغْفِرْلِیْ" تین بار کہے تو حق تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

۳۷ "اَلشَّکُوْرُ": بڑا قدر شناس۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کرے کہ تمام نعمتوں کو اس کی طرف سے جانے اور ہر عضو کو جس واسطے پیدا کیا ہے اس میں مصروف رکھے۔

خاصیت: جس شخص کو معاش کی تنگی ہو یا دل میں کدورت ہو، یا آنکھ میں تاریکی ہو، تو اس اسم کو اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لے اور آنکھ پر لے اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور نجات دے گا۔

۳۸ "اَلْعَلِیُّ": بہت اونچا، بڑا بلند مرتبہ مشتق ہے علو سے اور علو کہتے ہیں بلندی کو اور جگہ کے بلند ہونے کو اور کبھی بلندی پر چڑھنے اور کسی چیز کے اوپر ہونے کو بھی علو کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں، حسّی اور عقلی، حسی جیسے ایک جسم کا دوسرے جسم پر ہونا اور عقلی جیسے ایک چیز کا دوسری چیز سے فوق المرتبہ ہونا خدا تعالیٰ چونکہ سب سے بلند ہے اور مرتبے میں سب سے بالاتر اس لئے اسے علی کہتے ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ اپنی طاقت علم و عمل کے حاصل کرنے میں صرف کرے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں ممتاز رہے

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے یا اپنے پاس رکھے اگر خوار اور بیقرار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی عنایت فرمائے گا اور اگر فقیر ہوگا تو اس کو توشگر کر دے گا اور اگر سفر میں سرگردان ہوگا تو اس کو وطن مالوف میں پہنچا دے گا۔

۳۹ "اَلْکَبِیْرُ": بڑا بزرگ، ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی متصور نہیں ہو سکتا۔

نصیب یہ ہے کہ اپنی طاقت علم و عمل کے حاصل کرنے پر خرچ کرے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں معزز و ممتاز رہے

خاصیت: جو شخص اس اسم کو بکثرت پڑھے وہ بزرگ اور عالی مرتبت ہو، اگر حکام اور والیانِ ملک اس پر مداومت کریں تو تمام لوگ ان سے خوفزدہ ہوں اور وہ تمہیں بخوبی سر ہوں۔

۴۰ "اَلْحَفِیْظُ": محافظ، نگہبان، حفظ کہتے ہیں نگاہ رکھنے والے کو اور خدا تعالیٰ چونکہ تمام مخلوق کو آفت و بلا سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اسے حفیظ کہتے ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن کی مہلکات یعنی گناہوں سے محفوظ رکھے۔

خاصیت: جس شخص کو ڈوبنے یا جلنے یا زخمی ہونے کا خوف ہو یا پریوں کا وہم اور گھبراہٹ ہو یا حرام نکاہوں سے ڈرتا ہو تو اس اسم کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے، انشاء اللہ ان چیزوں سے مامون رہے گا۔

۴۱ "اَلْمُقِیْتُ": مخلوقات کو قوت یعنی روزی پہنچانے والا، ماخوذ ہے قوت سے اور قوت کہتے ہیں اس خوراک کو جو بدنِ انسان کے قیام کا باعث ہو۔ اقامت کے معنی قوت دینا اور کبھی مقیت قرآنا، اور گواہ اور حاضر اور نگاہ رکھنے والے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلائے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے بھٹکے ہوؤں کو راہ بتائے۔

خاصیت، اگر کسی غریب کو دیکھے یا خود کو غربت پیش آئے یا کسی کا بدخوئی کرے یا بہت روئے تو سات بار خالی آبخورے پر اس اسم کو پڑھ کر دم کرے پھر اس میں پانی ڈالکر خود پیئے یا دوسرے کو پلائے تو اپنا مقصد حاصل ہو، اگر کسی روزہ دار کو روزہ کی وجہ سے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس کو پھول پر دم کر کے سونگھے، انشاء اللہ اس کو اتنی طاقت وقوت ہو جائے گی کہ وہ روزہ بآسانی رکھ سکے گا۔

۴۱ "اَلْحَسِیْبُ" بہت ہی کافی، بڑا حساب لینے والا، معنی میں محسب کے اور احساب کہتے ہیں کسی چیز کا کافی ہونا، بولا کرتے ہیں "احسبنی الشیئ" یعنی مجھے یہ چیز کافی ہوئی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ معنی میں بے محاسب کے جیسے جلیس بمعنی مجالس کے اور ندیم منادم کے یعنی خدا تعالےٰ قیامت کے روز ساری مخلوقات کا حساب لے گا۔

نصیب یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔

خاصیت، جو شخص چور، دشمن، بُرے ہمسایہ یا نظر بد لگنے سے ڈرے تو آٹھ دن تک صبح وشام ستر مرتبہ "حَسْبِیَ اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ" پڑھے اور جمعرات سے شروع کرے، اللہ تعالےٰ اس کو ان چیزوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔

۴۲ "اَلْجَلِیْلُ" بڑا بزرگ قدر، جلال اور جلالت کہتے ہیں بزرگ قدر ہونے اور بیزبندگی کو، پھر اصطلاح قوم میں صفات قہریہ کے ظہور آثار کو جلال کہتے ہیں اور صفات لطیفہ کے ظہور آثار کو جمال اور بولنے میں آتا ہے کہ فلاں اسماء جلالی ہیں اور فلاں جمالی۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھی اور عمدہ صفات سے آراستہ کرے۔

خاصیت، جو شخص اس اسم کو مشک اور زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا دھو کر پیئے تو تمام لوگ اس کی عزت وعظمت کریں۔

۴۳ "اَلْکَرِیْمُ" بڑا سخی، شریف، بلاسفارش دینے والا، بلاسفارش بخشنے والا، بزرگ، اس کے معنی ہیں بزرگ اور عزیز کہتے ہیں کریم وہ ہے کہ قادر ہو تو معاف کر دے، وعدہ کرے تو وفا کرے اور دے تو اُمید سے زیادہ دے اور کوئی اس کی طرف اقبال لے جائے تو اسے ضائع نہ ہونے دے، کبھی مکرم اور جواد کے معنی میں بھی آتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ کرم بخشش، عفو ودرگزر اور نیک عادتوں کے حاصل کرنے کی پوری پوری سعی اور کوشش کرے۔

خاصیت، جو شخص اپنے بستر پر اس اسم کو کہتے کہتے سو جائے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں "اکرمک اللہ" اللہ تجھے مکرم ومعظم کرے۔

۴۴ "اَلرَّقِیْبُ" بڑا نگہبان، رقیب، موکل اور نگران۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس کی نگرانی کرے اور دل ونفس کے عوارض دُور کرے اور اللہ تعالےٰ کو ہر وقت اور ہر آن اپنا دیکھنے والا جانے۔

خاصیت، جو شخص اپنے زن وفرزند اور مال کے گرد اسے سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو دشمن اور تمام آفتوں

سے امن میں رہے۔

۴۵ "اَلْمُجِیْبُ": دُعا قبول کرنے والا، اجابت کہتے ہیں جواب دینے اور دُعا کرنے کو یعنی جو شخص خدا کو بلاتا ہے، وہ اسے جواب دیتا ہے اور دعا قبول کرتا ہے وہ سوال کو رَد نہیں کرتا۔

نصیب یہ ہے کہ اوامر و نواہی میں اپنے پروردگار کی پوری پوری فرمانبرداری کرے اور اہلِ حاجت کو نہایت نرمی کے ساتھ جواب دے۔

خاصیت، جو شخص بکثرت اس کو پڑھ کر دُعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو بلاؤں سے محفوظ رہے۔

۴۶ "اَلْوَاسِعُ": بڑی وسعت والا، وسیع المعلومات یا وسیع الغنا، ماخوذ ہے سعت سے اور وسعۃ کہتے ہیں فراخی اور فراغی کرنے اور گھیر لینے کو پھر اس کی اضافت کبھی تو علم کی طرف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں خدا علم وسیع و محیط ہے معلومات کو اور کبھی احسان کی طرف بولا کرتے ہیں، اس کا احسان وسیع ہے۔

نصیب یہ ہے علم و معارف کی زیادتی میں کوشش کرے مخاوت کرنے کی عادت ڈالے ہر شخص سے ہر حال میں خندہ پیشانی سے پیش آئے۔

خاصیت، جو شخص بکثرت اس اسم کو پڑھے تو اللہ تعالےٰ اس کو قناعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔

۴۷ "اَلْحَکِیْمُ": بڑی حکمت والا۔ حقائق اشیاء کا عالم، شتق ہے حکمت سے اور حکمت عبارت ہے کمال علم اور حُسنِ عمل اور اتقان اور احکام علم و عمل سے۔ بعض کہتے ہیں حکیم مبالغہ ہے حاکم کا اور حکیم وہ ہے جو حقائق اشیاء کا عالم ہو اور صناعات کے دقائق کو خوب جانتا ہو۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے کام انتہائی تدبر اور ہوشیاری کے ساتھ کرے۔

خاصیت، جس شخص کو کوئی کام پیش آئے اور وہ پورا نہ ہو تو اس اسم پر مداومت کرے، انشاء اللہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔

۴۸ "اَلْوَدُوْدُ": بڑی محبت رکھنے والا، نیک بندوں کو دوست رکھنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے وزن پر فَعُوْلٌ کے وَدُوْد بضم واو، اور وِدّاد بکسر واو، اور مودت "تینوں کے معنی ہیں دوست رکھنے کے یعنی خدا تعالیٰ نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی چیز کو دوست نہ رکھے۔

خاصیت، اگر خاوند اور بیوی میں ناموافقت ہو اور جھگڑا پڑے تو اس اسم کو ایک ہزار بار کھانے پر دم کرے اور جس طرف سے جھگڑا ہو وہ کھانا اس کو کھلا دے تو انشاء اللہ دونوں میں موافقت ہو جائیگی۔

۴۹ "اَلْمَجِیْدُ": بڑی شان والا، بزرگ، شریف، ماجد کا مبالغہ ہے اور ماجد مجد سے لیا گیا ہے، مجد بزرگی، بعض کہتے ہیں مجید وہ ہے جس کی ذات شریف، افعال جمیل، عطا جزیل ہو اور جب یہ ہے تو مجید جامع ہے اسم جلیل اور وہاب و کریم کو۔

خاصیت، جس شخص کو آشوب، جذام یا کوڑھ ہو تو وہ تیرہ چودہ، پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے اور فطار کے وقت بکثرت پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاء اللہ صحت یاب ہو جائے گا، جو شخص اپنوں میں باعزت نہ ہو وہ ہر صبح و شام ننانوے مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، تو معزز ہو جائے گا۔

۵۔ "اَلْبَاعِثُ"؛ مُردوں کو میرے پیچھے اُٹھا کھڑا کرنے والا، نبعث کہتے ہیں مُردوں کو قبروں سے اُٹھا کھڑا کرنے کو، اور کبھی سوتے کو جگانے اور کسی کو کام کے لئے بھیجنے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ مُردہ دلوں کو علم و معرفت سکھا کر زندگی پیدا کرے کیونکہ علم و معرفت ہی حیاتِ ابدی کا سبب ہے۔

خاصیت، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے تو سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاء اللہ اس کا دل معرفتِ حق سے منور ہو جائے گا۔

۶۔ "اَلشَّهِيْدُ"؛ ہر وقت ہر جگہ موجود، حاضر شہود سے مشتق ہے، یا شہادت سے اگر شہود سے ہے تو اس کے معنی ہیں حاضر و مطلع کے کیونکہ شہود کے لغوی معنی ہیں حاضر ہونے کے اور شہادت سے ہے تو معنی گواہی دینے والے کے ہیں، کیونکہ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو، خدا کو شہید کے معنوں میں اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر و باطن اور غیب و شہادت پر مطلع ہے اور دوسرے معنوں میں اس لئے کہ قیامت کے روز بندوں کے اعمال و احوال کی گواہی دے گا۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالےٰ سے علم کی زیادتی کی دُعا کرے اور اسکے حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرے، دین و دنیا کے کاموں میں ہوشیار و باخبر اور باریک بین ہو۔

خاصیت: جس شخص کا لڑکا یا لڑکی نافرمان ہو تو صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر منہ آسمان کی طرف کرے اور اکیس بار "یا شَهِيْدُ" کہے انشاء اللہ نیک بخت اور فرمانبردار ہو جائے گا۔

۷۔ "اَلْحَقُّ"؛ ثابت، برحق، خدائی کے لائق، حق کے معنی ہیں ثابت اور ہست کے، اس کی ضد ہے باطل یعنی نیست و ناچیز کبھی صدق اور راستی اور دوستی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ ماسوائے اللہ کو باطل جانے اور حق کی پیروی (یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر ثابت قدم رہے اور سچائی اور حق گوئی کے اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔

خاصیت: جس شخص کا مال و اسباب جا رہا ہے وہ کاغذ کے چاروں کونوں پر اس نام کو لکھ کر آدھی رات کے وقت اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کرے اور اس نام کے واسطے سے دُعا کرے تو یا تو وہی چیز مل جائے گی یا اس سے بہتر مل جائے گی اور اگر قیدی آدھی رات میں ننگے سر ایک سو آٹھ بار پڑھے تو قید سے رہائی پائے۔

۸۔ "اَلْوَكِيْلُ"؛ کارساز، وکیل وہ ہے جسے اپنا کام سپرد کریں اور تمام تصرف کی باگ اس کے ہاتھ میں دیدیں چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و مہربانی سے بندوں کے تمام مہتم بالشان کام رزق وغیرہ اپنے ذمے لے لئے ہیں اس لئے اُسے وکیل کہتے ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ ضعیفوں، مکروروں اور عاجزوں کے کام میں کوشش کرے اور اس طرح اُن کی حاجت روائی میں سعی کرے کہ گویا ان کا وکیل ہے۔

خاصیت: اگر بجلی، ہوا، پانی، یا آگ کا خوف ہو تو اس اسم کو اپنا وکیل کرے انشاء اللہ اس

toobaa-elibrary.blogspot.com

سے محفوظ رہیگا۔ اور اگر خوف کی جگہ میں بکثرت پڑھے تو خوف سے مامون رہے۔

۵۴ "اَلْقَوِیُّ"؛ بڑا زور والا، بڑا قوی، توانا، تام القدرت

۵۵ "اَلْمَتِیْنُ"؛ ستوار

امام غزالیؒ کہتے ہیں قوت دلالت کرتی ہے قدرت کاملہ بالغہ پر اور متانت شدتِ قوت پر۔ خدا تعالےٰ قوی ہے اس لئے کہ قدرت کاملہ بالغہ رکھتا ہے متین ہے اس لئے کہ شدید القوت ہے۔

نصیب یہ ہے کہ خواہشاتِ نفسانی پر قوی غالب اور دین میں سخت اور چُست رہے اور احکام شرع کے جاری کرنے میں بالکل سُستی نہ اختیار کرے۔

خاصیت: جو شخص اپنے قوی دشمن کو دفع نہ کر سکے وہ تھوڑا آٹا گوندھ کر ایک ہزار گولیاں بنائے اور "یا قوی" لکھ کر ایک ایک گولی دشمن کے دفع ہونے کی نیت سے مُرغ کے آگے ڈالدے، انشاء اللہ دشمن مغلوب ولپسپا ہوجائے گا، جس عورت کے بچے پیدا ہوا اور چھاتیوں میں دُودھ نہ ہو اس کو "المتین" لکھ کر پانی میں دھوکر پلادے انشاء اللہ بہت دودھ ہوجائے گا۔

۵۶ "اَلْوَلِیُّ"؛ محب، دوست، مددگار، ولی کہتے ہیں محب وناصر کو، اور خدا تعالےٰ پر ہیزگار دیانداروں کا محبوب ہے، اور انھیں مدد ونصرت دیتا ہے۔ ولی ہونے کی معنی میں بھی آیا ہے اور حق تعالےٰ نیکوکاروں کے امور کا متولی ہے اور قریب کے معنی میں بھی یعنی اُس کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے

نصیب یہ ہے کہ مسلمانوں سے الفت ومحبت رکھے اور دین ہوی کی تائید اور خلق خدا کی حاجت روائی میں پوری سعی وکوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھتا رہے تو مخلوق کے رازوں سے واقف ہو، اور اگر کوئی اپنی بیوی یا لونڈی کی عادت وخصلت سے ناخوش ہو تو اس کے سامنے جاتے وقت اس نام کو پڑھے، انشاء اللہ نیک خصلت ہوجائے گی۔

۵۷ "اَلْحَمِیْدُ"؛ مستحق حمد، سزاوار حمد وثنا

نصیب یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے پروردگار اور معبود حقیقی کی تعریف میں تر رکھے اور وہ اوصاف اختیار کرے جس سے ساری مخلوق اچھائی کے ساتھ یاد کرے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اس سے اچھے افعال سرزد ہوں گے اور جو بدزبانی اور بدگوئی کا شکار ہو اور وہ اس سے بچ نہ سکے تو اس کو پیالہ پر لکھے اور ہمیشہ اس پیالہ میں پانی پیا کرے، انشاء اللہ بخش گوئی سے مامون رہیگا۔

۵۸ "اَلْمُحْصِیْ"؛ ہر چیز کا شمار رکھنے والا، ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا، احصار شمار کرنا اور بطریق استقصا کسی چیز کو جاننا، خدا احصی مطلق ہے کہ اشیاء کے حقائق کو جانتا ہے اور ذرات عالم کو اس کا علم محیط ہے۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو شمار کرے اس سے پیشتر کہ وہ گنے جائیں اور اپنے اعمال اور احوال باطن

toobaa-elibrary.blogspot.com

پر مطلع ہونے کی کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی رات کو یہ نام ایک ہزار بار پڑھے تو عذاب قبر اور حساب قیامت سے بے خوف ہو اور جو بکثرت پڑھے ہرگز غلطی نہ کرے۔

۵۹ "اَلْمُبْدِئُ" ابتداءً پیدا کرنے والا

۶۰ "اَلْمُعِیْدُ" دوبارہ پیدا کرنے والا۔

المبدئ ماخوذ ہے ابداء سے اور ابدا کہتے ہیں ابتدا کرنے اور دنیا پیدا کرنے کو، المعید لیا گیا ہے اعادت سے جس کے معنی ہیں لوٹانے اور عدم کے بعد ایجاد کرنے کے خدا مبدئ ہے اس معنی میں کہ وہ اول بار پیدا کرتا ہے اور المعید ہے اس معنی میں کہ قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا، یا معید مثلاً اس اعتبار سے کہ رات دن کا چکر باندھ رکھا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ نیکیوں کے رواج دینے میں پوری پوری کاوش و محنت کرے۔

خاصیت: جس شخص کو اپنی بیوی کے حمل گر جانے کا خوف ہو وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے پیٹ پر رکھ کر تو سے مرتبہ المبدئ کہے۔ انشاء اللہ حمل ضائع ہوگا اور نہ دیر تک رہیگا، جس کسی کا کوئی شخص غائب ہو جائے اور وہ چاہے کہ وہ واپس آجائے یا اس کی خبر مل جائے تو جب گھر کے سب آدمی سو جائیں اسم المعید کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر بار پڑھے اور اس کے بعد کہے "یَا مُعِیْدُ رُدَّ عَلَیَّ فُلَانًا" انشاء اللہ سات روز گزریں گے کہ وہ غائب واپس آجائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی۔

۶۱ "اَلْمُحْیِیُ" مخلوق کو زندہ رکھنے والا، المحیی احیاء کا اسم فاعل ہے اور احیاء کہتے ہیں جسم میں حیات پیدا کرنے کو۔

نصیب یہ ہے کہ خلق خدا کو علم سکھا کر ان کے اندر دین کی زندگی پیدا کرے اور اپنے دل کو معرفت الٰہی سے لبریز کرے۔

خاصیت: جس شخص کو درد و غم ہو اور اپنے کسی متعلق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، وہ اسم المحیی کو سات بار پڑھے انشاء اللہ ان چیزوں سے امن میں رہے گا۔

۶۲ "اَلْمُمِیْتُ" موت دینے والا، مارنے والا، المیت اماتت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں حیات کا دور کرنا۔

نصیب یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو مارے اور خطرات شیطانی کو دور کرے۔

خاصیت یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر قادر نہ ہو، وہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس قدر اسم پڑھے کہ نیند آجائے تو انشاء اللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا۔

۶۳ "اَلْحَیُّ" زندہ

نصیب یہ ہے کہ ذکر الٰہی اور یاد خداوندی سے اپنے اندر زندگی پیدا کرے اور اپنی جان کو اس کے راستہ میں خرچ کرے تاکہ حیات ابدی حاصل ہو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

خاصیت : اگر بیمار آدمی کثرت سے اس نام کو پڑھے تو صحت یاب ہو، یا بیمار پر دم کر دیا جائے تو صحتمند ہو جائے۔

۶۳ - "اَلْقَیُّوْمُ" ہمیشہ قائم رہنے والا، کارخانۂ عالم کا سنبھالنے والا، قائم بذات خود، اور زندہ رکھنے والا اپنے غیر کو، یا یوں کہو، قیوم مبالغہ قیم کا اور قیم کہتے ہیں متصلح امور کو۔

نصیب یہ ہے کہ ماسوائے اللہ سے بے پرواہ ہو اور اس کے بندوں کے کام سنوارے۔

خاصیت : جو شخص اس نام کو سحر کے وقت بکثرت پڑھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت زیادہ ہو اور جو خلوت میں کثرت سے پڑھے تو وہ خوش حال ہو جائے۔

۶۵ - "اَلْوَاجِدُ" بڑا غنی مشتق ہے وجود سے اور وجود کہتے ہیں ہستی اور مقصد پر کامیاب ہونے کو، یا مشتق ہے وجدا اور وجدۃ سے جن کے معنی توانگر ہونے کے ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ کمالات ضروریہ کے حاصل کرنے میں خوب کوشش کرے۔

خاصیت : جو شخص کھاتے وقت اس نام کو پڑھے وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہو جائے۔

۶۶ - "اَلْمَاجِدُ" بزرگی و نظمت والا، معنی میں ہے مجید کے جس طرح عالم معنی میں علیم کے مگر مجید میں مبالغہ اور تاکید ہے، یہ لیا گیا ہے مجد سے اور مجد کہتے ہیں بزرگی کو۔

نصیب یہ ہے کہ کمالات کے حاصل کرنے میں انتہائی کوشش کرے۔

خاصیت، جو شخص خلوت میں اس نام کو اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو اس کے دل پر انوار ظاہر ہوں

۶۷ - "اَلْوَاحِدُ اَلْاَحَدُ" تنہا، یکتا، یگانہ، وحدت سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ایک اور یگانہ ہونا عرف میں واحد کا استعمال دو معنی میں ہوتا ہے، ایک یہ متجزی اور متبعض ہو، یعنی اس کے اجزا اور حصص نہ ہوں جیسے جوہر فرد، دوسرے یہ کہ بے مثل و یکتا ہو، واحد اور احد میں وہ فرق ہے جو ہماری زبان میں اکیلا اور ایک میں ہے۔

نصیب یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالے اپنی خدائی میں یگانہ ہے یہ بھی اس کی بندگی میں یگانہ ہو، اور ایسے اخلاق و فضائل اپنے اندر پیدا کرے جس سے اپنے ہم جنسوں میں ممتاز ہو جائے۔

خاصیت : جس شخص کا دل تنہائی سے ہراساں ہو وہ ایک ہزار ایک مرتبہ اس نام کو پڑھے انشاء اللہ خوف اس سے جاتا رہیگا اور بارگاہ حق میں مقرب ہو جائے گا، اگر کسی کو فرزند کی خواہش ہو تو اس نام کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اللہ تعالے فرزند عطا فرمائے گا۔

۶۸ - "اَلصَّمَدُ" بڑا بے نیاز، صمد کے اصلی معنی ہیں قصد کے چونکہ آدمی اپنے تمام مطالب میں بارگاہ خداوندی کا قصد کرتے ہیں اس لئے اسے صمد کہتے ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو اور نیازمندوں کی کارسازی اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں سعی و کوشش کرے۔

خاصیت : جو شخص آدھی رات یا کچھ رات رہے صبح کے وقت سجدہ میں سر رکھ کر ایک سو پندرہ مرتبہ

اس نام کو پڑھے، ظاہر و باطن میں سچا ہو اور کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہو، اگر کثرت سے پڑھتا رہے تو بھوکا نہ رہے اور وضو کی حالت میں پڑھے تو بے نیاز اور بے پرواہ ہو۔

۹۹ "اَلْقَادِرُ": قدرت والا، قدر اور قدرت اور اقتدار اور مقدرت سب کے معنی ہیں توانائی کے، تو قادر و مقتدر کے معنی ہوئے۔

۱۰۰ "اَلْمُقْتَدِرُ": قدرت ظاہر کرنے والا، صاحبِ مقدرت، صاحبِ قدرت، مگر مقتدر میں مبالغہ ہے

نصیب یہ ہے کہ خواہشوں اور لذتوں کے چھوڑنے میں اپنے نفس پر پورا پورا قابو رکھے۔

خاصیت، جو شخص اپنے اعضاء دھوتے وقت ہر جوڑ پر اسم القادر پڑھتا رہے گا کبھی کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار نہ ہوگا، اور کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اکتالیس بار پڑھے انشاء اللہ وہ مشکل آسان ہو جائے گی اور اگر اسم المقتدر کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کی غفلت یاد سے بدل جائے گی اور جو شخص سونے کے بعد اٹھ کر المقتدر بیس بار کہے تو اس کے تمام کام درست ہو جائینگے۔

۱۰۱ "اَلْمُقَدِّمُ": سبقت دینے والا، اپنے دوستوں کو بارگاہ عزت کی طرف بڑھانے والا۔

۱۰۲ "اَلْمُؤَخِّرُ": پیچھے رکھنے والا، دشمنوں کو اپنے لطف سے پیچھے ہٹانے والا۔

مقدم (اوّل کے کسرے (زیر) کے ساتھ تقدیم سے مشتق ہے اور تقدیم کہتے ہیں آگے کرنے کو اسی طرح موخر (خ کے کسرے (زیر) سے تاخیر سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے ہٹانا، یعنی خدا تعالیٰ فرمانبرداروں کو راہ قرب سے آگے بڑھاتا اور نافرمانوں کو درگاہ عزت سے دور کرتا اور پیچھے ہٹاتا ہے یا دنیا کے کاموں میں تو حصولِ مطلب میں تقدیم و تاخیر اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے۔

نصیب یہ ہے کہ نیکی کرنے میں سبقت کرے اور جو لوگ بارگاہ عزت میں معزز و مقرب ہیں ان کو اپنا پیشوا بنائے اور نفس و شیطان کو پیچھے ڈالے۔

خاصیت، جو شخص معرکۂ جنگ میں المقدم پڑھے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے کوئی سختی اور رنج اس کو نہ پہنچے اور اگر بکثرت اس کو پڑھتا رہے تو اس کا نفس طاعت الٰہی میں مطیع و فرماں بردار ہو جائے، جو شخص المؤخر سو بار پڑھے تو اس کا دل بلاحق کے آرام پائے۔

۱۰۳ "اَلْاَوَّلُ": سب سے پہلا

۱۰۴ "اَلْاٰخِرُ": سب سے پچھلا

اوّل ہے یعنی ازلی ہے کہ اس کے وجود کی ابتدا اور ہستی کا آغاز نہیں، اور آخر ہے یعنی دائمی ابدی ہے کہ اس کی بقا کے لئے نہایت اور دوام کے لئے انقضا نہیں۔

نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اوامر شرعیہ کی بجاآوری میں جلدی کرے اور اللہ کے لئے جان و مال خرچ کرے تاکہ حیات ابدی حاصل ہو۔

خاصیت، جس شخص کے لڑکا نہ ہوتا ہو وہ چالیس دن برابر اسم الاوّل کو چالیس بار پڑھے انشاء اللہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی، اور جس کی عمر آخر ہو اور اس کے پاس اعمال خیر نہ ہوں تو الآخر کو اپنا

وظیفہ مقرر کرلے انشاء اللہ خاتمہ بخیر ہوگا۔

۶۔ "اَلظَّاھِرُ": آشکارا ہے بلحاظ قدرت

۷۔ "اَلْبَاطِنُ": پوشیدہ ہے باعتبار ذات

خدا ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجود اس کی ہستی اُن آیات و دلائل سے ظاہر ہے جو آسمان و زمین میں ہر صاحب بصیرت کو دکھائی دیتے ہیں اور خدا کے باطن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی کُنہ ذات حجاب جلال میں محتجب و پوشیدہ ہے۔

نصیب یہ ہے کہ انسان بشریت کے لحاظ سے سب کی نظر میں ہے اور چونکہ صفات ملائکہ سے متصف ہے اس وقت لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔

خاصیت: نماز اشراق کے بعد جو شخص "الظاہر" کو پانچ سو مرتبہ پڑھے اللہ تعالےٰ اس کی آنکھ میں روشنی عطا فرمائے اور جو تین سو بار ہر روز "یا باطن" کہے تو اسرار الٰہی اس پر منکشف ہونے لگیں۔

۷۔ "اَلْوَالِیْ": بڑا منتظم، بڑا کارساز، تمام امور کا متولی، ولایت بکسر (زیر) واؤ سے مشتق ہے، جس کے معنی تصرف کرنے اور قابو پانے کے ہیں، اور ایک ہے وَلایت بفتح (زبر) واؤ جس کے معنی مدد کرنے اور حکمرانی کرنے کے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وَلایت بفتح واؤ مصدر ہے اور بکسر واؤ اسم والی وہ جو سب کا مالک اور تمام کاموں کا متولی ہو۔

نصیب یہ ہے کہ ضعیفوں، کمزوروں اور عاجزوں کے کام میں کوشش کرے اور اس طرح ان کی حاجت روائی میں سعی کرے کہ گویا ان کا وکیل ہے۔

خاصیت: جو شخص یہ چاہے کہ گھر آباد ہو اور آندھی، مینہ اور تمام آفتوں سے محفوظ رہے تو "الوالی" کو کورے آبخورے پر لکھے اور اس میں پانی بھر کر گھر کی دیواروں پر چھڑک دے انشاء اللہ تمام آفتوں سے بچا رہیگا، اگر کسی کو مسخر کرنا چاہے تو گیارہ مرتبہ پڑھے وہ مطیع و فرماں بردار ہو جائے گا۔

۸۔ "اَلْمُتَعَالِیْ": بہت بلند، مخلوقات کی صفات سے منزہ، تمام حکمرانوں اور والیوں سے بلند قدر یا تمام نقائص و آفات سے عالیشان۔

نصیب یہ ہے کہ اپنی طاقت علم و عمل کے حاصل کرنے میں صرف کرے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں ممتاز رہے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو بکثرت پڑھے اس کی دشواریاں آسان ہوں اور جو عورت حیض کی حالت میں کثرت سے پڑھتی رہے اس کی تکلیف جاتی رہے

۹۔ "اَلْبَرُّ": بڑا سلوک کرنے والا، اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والا، بر بفتح با اسم فاعل بمعنی نیکی کرنے والا۔

نصیب یہ ہے کہ ماں باپ، استاد، مشائخ، اعزا، اقارب اور تمام حق والوں کے ساتھ نیکی کرے۔

خاصیت: اگر ہوا و ہوس میں مبتلا ہو اور وہ اس نام کو پڑھے تو انشاء اللہ یہ بات جاتی رہیگی،

اور جس شخص کے بچہ ہوا اور وہ سات بار اس نام کو پڑھ کر حق تعالیٰ کے کرم کے سپرد کردے تو بلوغ تک وہ لڑکا محفوظ رہیگا۔ اگر شرابی، زانی اس کو سات بار پڑھے تو اس کا دل ان باتوں سے سرد ہو جائے گا۔

۱۰ "اَلتَّوَّابُ" گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا، تواب مبالغہ ہے تائب کا اور تائب ماخوذ ہے توبہ سے، توبہ کے اصلی معنی ہیں رجوع کرنے کے پھر جب اس کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو گناہ سے رجوع کرنا مراد ہوتا ہے، اور خدا کی طرف ہوتی ہے تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا یعنی بندہ توبہ کرے تو خدا اپنی عادت کے مطابق پھر مہربانی کرنے لگتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ خلق خدا کے عذر قبول کرے اگرچہ بار بار ہو۔

خاصیت، نماز چاشت کے بعد جو شخص اس نام کو تین سو ساٹھ بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ نصیب فرماتا ہے اور جو کثرت اس نام کو پڑھتا رہا کرے اس کے تمام کام درست ہوں اور اس کا نفس طاعت الٰہی میں آرام پائے۔

۱۱ "اَلْمُنْتَقِمُ" نافرمانوں سے بدلہ لینے والا، انتقام کہتے ہیں بدلہ لینے کو یعنی خدا تعالیٰ کافروں سے اپنی نافرمانی کا بدلہ لینے والا اور ان کے تمرد و سرکشی کی سزا دینے والا۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن نفس و شیطان سے بدلہ لے۔

خاصیت، جو شخص دشمن کی مقاومت پر قادر نہ ہو اور اس سے بدلہ نہ لے سکے تو تین جمعہ تک یہ نام کثرت سے پڑھے، انشاء اللہ اس کا دشمن راضی و خوش ہو جائے گا، بعض روایتوں میں "المنعم" بھی آیا ہے لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے، جو شخص "المنعم" کو ہمیشہ پڑھتا رہے کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔

۱۲ "اَلْغَفُوْرُ" بڑی درگذر کرنے والا، گناہوں کا مٹانے والا۔

نصیب یہ ہے کہ لوگوں کے قصور معاف کرے، خطاؤں سے درگذر کرے اور ان کی پردہ پوشی کرے اور عیب چھپائے۔

خاصیت: جس شخص کے گناہ بہت ہوں اور وہ بلاناغہ اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

۱۳ "اَلرَّؤُوْفُ" بہت شفقت کرنے والا، رافت کہتے ہیں شدت رحمت کو اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جیسے ضَرُوْبٌ اور شَکُوْرٌ۔

نصیب یہ ہے کہ مخلوقات پر مہربانی کرے اور نظر رحمت رکھے، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرے کہ وہی منعم حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ چاہے، برائی کے دور کرنے میں سعی و کوشش کرے اور جہاں تک ہو سکے بلاغرض اور بلاعوض محتاجوں اور حاجتمندوں کی حاجت روائی کرے۔

خاصیت، جو شخص کسی مظلوم کو ظالم کے پھندے سے چھڑانا چاہے تو اس نام کو دس بار پڑھے وہ ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا، اور جو ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کا دل مہربان ہو جائے، اور تمام آدمی اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگیں۔

۹۴ - "مَالِكُ الْمُلْكِ": ملک کا مالک، خداوند جہان

۹۵ - "ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ": بڑی بزرگی و عزت والا۔

نصیب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لئے بزرگی حاصل کرے اور بندگانِ خدا کا اکرام و اعزاز جیسا چاہے ویسا کرے۔

خاصیت: جو شخص اسم "مالک، الملک" کو ہمیشہ پڑھتا رہے، خوش حال ہو جائے اور لوگوں سے کوئی حاجت نہ رہے اور یہی خاصیت "ذوالجلال والاکرام" کی ہے۔

۹۶ - "اَلْمُقْسِطُ": عادل و منصف، اس کا مادّہ ہے قسوط اور قسوط کہتے ہیں جور و ظلم کو، لیکن جب اسے باب افعال میں لے گئے تو معنی ہوئے جور و ظلم کے ازالہ کرنے کے اور ازالہ جور و ظلم کا نام ہے انصاف، تو مقسط کے معنی ہوئے منصف، عادل۔

نصیب یہ ہے کہ خلق اور حق کے معاملات میں انصاف کرے۔

خاصیت: جو شخص اس نام کو سو مرتبہ پڑھے شیطان کی برائی اور اس کے وسوسہ سے محفوظ رہے اور اگر سات بار پڑھے تو مقصد حاصل ہو۔

۹۷ - "اَلْجَامِعُ": تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا، قیامت میں خدا لوگوں کو جمع کرے گا یا دنیا میں بچھڑے ہوؤں کو جمع کرتا ہے۔

نصیب یہ ہے کہ علم کو عمل کے ساتھ اور کمالاتِ جسمانی کو نفسانی کے ساتھ اور وظائف عبادت کو اوراد و اذکار کے ساتھ جمع کرے اور فکر اور تسکین دل جمعیت مع اللہ کے جمع کرنے میں سعی کرے۔ شعر

وزجمعیت کوشش تا ہمہ ذات شوی ÷ ترسم کہ پراگندہ شوی مات شوی

خاصیت: جس شخص کے اہل و اقارب متفرق ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس نام کو دس مرتبہ پڑھے اور ایک انگلی بند کرلے پھر اپنے ہاتھ منہ پر ملے تھوڑے ہی عرصہ میں وہ سب جمع ہو جائیں گے۔

۹۸ - "اَلْغَنِيُّ": بے پروا

۹۹ - "اَلْمُغْنِيُ": لوگوں کو بے پروا کرنے والا

غنی مشتق ہے غِنیٰ سے اور غِنیٰ کہتے ہیں بے نیاز ہونے کو، یعنی خدا تعالےٰ سب سے بے نیاز ہے، اور مغنی کیا گیا ہے اَغْنَاء سے جس کے معنی ہیں بے نیاز کرنا یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے نیاز کرتا ہے، کہ وہ اپنے ہمجنسوں کی طرف حاجت نہیں لے جاتا، غِنیٰ جو مالدار کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی بے نیازی کی ایک شاخ ہے۔

نصیب یہ ہے کہ ماسوائی اللہ سے بے نیازی حاصل کرے۔

خاصیت: جو شخص حرص و طمع میں مبتلا ہو وہ اپنے بدن کے ہر جوڑ پر یعنی منہ، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر "الغنی" پڑھے پھر ہاتھ ہٹالے انشاء اللہ اس سے شفاء ہو جائے گی، اور جو ہر روز

ستر بار پڑھے اس کے مال میں برکت ہو، اور کبھی محتاج نہ ہو اور جو شخص ہر جمعہ کو ایک ہزار مرتبہ "المغنی" پڑھے اور دس جمعہ برابر پڑھے تو مخلوق سے بے پروا ہو جائے۔

حضرت شیخ المشائخ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے اپنی بعض تصانیف میں لکھا ہے کہ جو شخص گیارہ بار اول و آخر درود شریف پڑھے پھر "یا مغنی" گیارہ سو گیارہ مرتبہ ورد وظیفہ کی طرح پڑھے تو ظاہر و باطن کا غنی ہو جائے۔

۹۰ "اَلْمَانِعُ": اپنے دوستوں سے تکلیف روکنے والا (المعطی، عطا کرنے والا معطی دینے والا مانع روک رکھنے والا جسے چاہے اور جو چاہے دیتا ہے اور جسے چاہے نہیں دیتا)

نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس و طبیعت کو نفسانی خواہشات سے روکے۔

خاصیت: میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو تو اپنے بستر پر جاتے وقت اس نام کو بیس مرتبہ پڑھے، انشاء اللہ غصہ رفع ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں "المعطی" بھی آیا ہے جو "یا معطی السائلین" بکثرت پڑھے تو کسی سوال کا محتاج نہ ہو۔

۹۱ "اَلضَّآرُّ": بڑا ضرر پہنچانے والا، ضرر و شر کا خالق۔

۹۲ "اَلنَّافِعُ": بڑا نفع پہنچانے والا، نفع و مصلحت کا پیدا کرنے والا۔

یعنی خدا خالق خیر و شر اور نفع و ضرر ہے، اور درد و دوا، رنج و شفا، گرمی و سردی، خشکی و تری، سب پیدا کی ہوئی اسی کی ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ اور زبان سے ضرر نہ پہنچائے، اور جہاں تک ہو سکے مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔

خاصیت: جو شخص کسی حال اور مقام عرفان پر پہنچے، اور جمعہ کی راتوں میں "الضار" سو بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو اس مقام میں ثابت قدمی عنایت فرمائے گا اور انجام میں اہل قرب کے مرتبہ کو پہنچے گا اور جو شخص کشتی میں سوار ہو کر ہر روز "النافع" پڑھتا رہے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، اور ہر کام کے شروع میں اکتالیس بار "النافع" کہہ لیا کرے تو تمام کام حسب منشا ہوں گے۔

۹۳ "اَلنُّوْرُ": روشن کرنے والا۔ عوف عام میں نور کہتے ہیں روشنی کو، خدا پر نور کا اطلاق اس سے کیا گیا کہ زمین و آسمان میں اسی کا چاند نما اور اسی کا ظہور ہے۔

نصیب یہ ہے کہ اپنے دل کو نور ایمان اور عرفان سے منور کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی رات میں سات دفعہ سورۂ نور اور ایک ہزار ایک بار اس نام کو پڑھے تو اس کا دل منور ہو، اور اگر صبح کے وقت اس کو برابر پڑھتا رہے تو اس کا دل ہمیشہ روشن رہے۔

۹۴ "اَلْهَادِيْ": راہ دکھانے والا۔

نصیب یہ ہے کہ بندگان خدا کو اس کی راہ دکھائے۔

خاصیت: جو شخص ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس نام کو بکثرت پڑھے پھر ہاتھ چہرے پر

پھیرے تو اہلِ معرفت کا مقام پائے۔

۸۵ "اَلْبَدِیْعُ": موجد، بدیع بے مثل اور بے مانند کسی معنی میں مبدع یعنی موجد کے بھی آتا ہے، جو بے نمونہ دیکھے از خود اختراع کرے تو اس معنی میں بھی خدا بدیع ہے کہ اس نے جہان کے بنانے میں کسی کی تقلید نہیں کی۔

نصیب یہ ہے کہ جب اوراد و وظائف سے فارغ ہو تو کوئی ایسا کام کرے جس سے اکمل حلال حاصل ہو خصوصاً وہ کام اختیار کرے جس کا اثر اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے اور خلقِ خدا کو فائدہ پہنچے، مثلاً علم دین کی درس و تدریس یا تصنیف و تالیف وغیرہ۔

خاصیت: اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ستر بار اور ایک روایت کے مطابق ہزار بار "یا بدیع السموٰت والارض" پڑھے انشاء اللہ مشکل آسان ہو جائے گی اور معاملہ بن جائے گا۔

۸۶ "اَلْبَاقِیْ": ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم الوجود جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔

خاصیت: جو شخص اس کو سو بار پڑھے، اس کے تمام عمل مقبول ہوں اور کسی سے رنج و تکلیف نہ پہنچے، اور دشمن، دکھ درد، رنج و غم اور بیماریوں کے دُور کرنے کے لئے بکثرت پڑھے۔

۸۷ "اَلْوَارِثُ": فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا، ہر چیز کا مالک وارث، اس سے مُراد ہے فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا گویا تمام مرنے والوں کی میراث اس کو پہنچتی ہے۔

نصیب یہ ہے کہ اعمالِ باقیات الصالحات یعنی درس و تدریس، تصنیف و تالیف، پُل، سرائے، مسجد اور صدقات جاریہ وغیرہ میں کوشش کرے۔

خاصیت: جو شخص ہر روز طلوع آفتاب کے وقت اس اسم کو سو بار پڑھے تو رنج اور سختی سے محفوظ رہے اور جب مرے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جو بکثرت پڑھتا رہے اپنے زمانہ میں بلند مرتبہ ہو۔

۸۸ "اَلرَّشِیْدُ": راست رہنما، صاحبِ رُشد، رشد ضد ہے غیّ کی اور غیّ کے معنی ہیں گمراہی تو رشید کے معنی ہوئے صاحبِ رشد اور خدا کو رشید اس معنی میں کہا گیا کہ طریق اسلام اس کو پسند ہے اور وہی صراطِ مستقیم ہے یا اس اعتبار سے کہ جو صفاتِ کمالیہ خدا میں ہونی چاہئیں وہ اس میں ہیں۔

نصیب یہ ہے کہ بندگانِ خدا کو اس کی راہ دکھائے۔

خاصیت: جو شخص اپنے کام کو حل نہ کر سکے اور اس کے حل کرنے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئے تو اس نام کو مغرب و عشا کی نماز کے درمیان ہزار بار پڑھے جو کچھ صحیح اور بہتر ہوگا اس پر خطا ہر ہو جائے گا، اور اگر اس پر مداومت کرے تو تمام کاروبار اس کی بلا سعی و کوشش کے بن جائیں گے۔

۸۹ "اَلصَّبُوْرُ": بڑا صبر و تحمل والا، اصل میں صبر کے معنی تحمل اور برداشت کرنے کے ہیں، اور چونکہ خدا تعالیٰ بندوں کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی برداشت کرتا اور انتقام اور مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا اس لئے اس کا نام صبور رکھا گیا۔

نصیب یہ ہے کہ بدبختوں، ذلیلوں اور کمینوں کی ایذا رسانی پر صبر و تحمل کرے، اور زیر دستوں کی تکلیف دہی میں بُردباری سے کام لے۔

خاصیت: جو شخص رنج و درد اور تکلیف و مشقت میں مبتلا ہو، اس نام کو ایک ہزار بیس بار پڑھے، انشاء اللہ الطمینانِ قلب حاصل ہو جائے گا اور اگر خوف ہو گا تو جاتا رہے گا، اور اگر ہر روز پڑھا کرے تو حاسدوں اور دشمنوں کی زبان بند ہو جائے اور بادشاہ کا غصہ رفع ہو جائے۔

یہ اسماء صفاتی جنہیں اسماء حسنیٰ بھی کہتے ہیں، اکثر بعینہٖ قرآن مجید میں موجود ہیں، اور بعض جو بعینہٖ قرآن میں موجود نہیں ہیں اُن کے مادّے اور مشتقات قرآن میں مذکور ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَسَمِعَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُوْلُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ فَقَالَ قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ فَسَلْ ت اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا مُوَكَّلًا بِمَنْ يَقُوْلُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَمَنْ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ لَهُ الْمَلَكُ اِنَّ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَدْ اَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ مُسْ وَمَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُوْلُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ سَلْ فَقَدْ نَظَرَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مُسْ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ ت س ق حب مُسْ مَنْ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْاَلِ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ط طس

ترجمہ: آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو "یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ" اے بزرگی وعزت والے، کہتے ہوئے سُنا تو آپ نے فرمایا تجھے مقبولیت حاصل ہوئی پس تو جو چاہے مانگ۔ ترمذی (عن معاذؓ)

جو شخص "يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ" اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کہتا ہے اس لئے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے، تو جو شخص اس کلمہ کو تین بار کہتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے، تو جو چاہے طلب کر، حاکم (عن ابی امامہؓ)

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گذرے جو "یا ارحم الراحمین" کہہ رہا تھا، آپ نے اس سے فرمایا تو جو چاہے سوال کر، اللہ تعالےٰ نے تیری طرف نظرِ التفات فرما رکھی ہے،

حاکم (عن انسؓ)

جو شخص اللہ سے تین بار جنت مانگتا ہے، تو جنت کہتی ہے، خدایا اس کو جنت میں داخل کر، اور جو شخص دوزخ (کی آگ) سے تین بار پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے الٰہی اس کو دوزخ کی آگ سے بچالے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (عن انسؓ)

جو شخص ان پانچ کلموں کے ساتھ دُعا کرے گا، تو جو کچھ اللہ سے مانگے گا وہ اللہ اس کو دیدیگا (وہ پانچ کلمے یہ ہیں) کوئی معبود نہیں مگر اللہ یگانہ جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے وہی حمد وثنا کے لائق ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بجز اللہ کے کوئی بل بوتہ نہیں، طبرانی فی الکبیر والاوسط (عن معاویہؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِجَابَۃِ الدُّعَآءِ مَا یَمْنَعُ اَحَدَکُمْ اِذَا عَرَفَ الْاِجَابَۃَ مِنْ نَفْسِہٖ فَشُفِیَ مِنْ مَّرَضٍ اَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَنْ یَّقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ بِعِزَّتِہٖ وَجَلَالِہٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ مُسْ ی

دُعا کے قبول ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا

ترجمہ: کونسی چیز تم میں سے کسی کو اس بات سے روکتی ہے؟ کہ جب اسے اپنی دُعا کا قبول ہونا معلوم ہو جائے (مثلاً) بیمار صحت یاب ہوا، یا مسافر سفر سے (بخیریت) واپس آیا تو کہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کے غلبہ اور بزرگی کے سبب سے اچھے کام پورے ہو جاتے ہیں، (حاکم، ابن سنی عن عائشہؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَلَّذِیْ یُقَالُ فِیْ صَبَاحِ کُلِّ یَوْمٍ وَّمَسَائِہٖ

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِہٖ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَآءِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَہٗ حِبْ مُسْ مُصْ

اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ طَسْ وَفِی الْمَسَآءِ فَقَطْ مُطَسْ مِیْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ تِ مِیْ

صبح وشام کی دُعائیں

وہ دُعائیں جو صبح وشام پڑھی جاتی ہیں

ترجمہ: (یں) اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہی سُننے (اور) جاننے والا ہے، تین تین مرتبہ پڑھے سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن عثمان بن عفانؓ)

میں خدا کے کلمات تامہ کے ذریعہ اُس کی مخلوق کی بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں، طبرانی فی الاوسط (عن ابی ہریرہؓ) مسلم، سُنن اربعہ، دارمی اور ابن سنی نے ابوہریرہؓ سے فقط شام کے وقت پڑھنا بیان کیا ہے، ترمذی، دارمی اور ابن سنی نے معقل بن یسار سے تین بار پڑھنے کی روایت نقل کی ہے۔

شرح: صبح اگر یہ دُعا پڑھے تو لفظ "اَصْبَحْنَا" (میں صبح کرتا ہوں) اور شام کو لفظ "اَمْسَیْنَا" (میں شام کرتا ہوں) شروع میں کہے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص صبح وشام تین تین بار یہ دُعا پڑھے، تو اللہ تعالےٰ اس دن اسے بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھتا ہے۔

حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں جو شخص یہ دُعا پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی دُعائے مغفرت کرنے کے لئے مقرر ہو جاتے ہیں، اور اگر وفات پا جاتا ہے تو شہید مرتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آج رات بچھو کے کاٹنے سے بہت تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا یاد رکھو! اگر تم "اعوذ بکلمات اللہ الخ" کہہ لیتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور جو شخص کسی منزل پر اُترتے وقت یہ پڑھے تو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی

منزل دوم مجتبیٰ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

تِ مِیْ ۔ ے

ترجمہ: میں خدا کی (جو) سننے اور جاننے والا ہے، شیطان مردود (کے وسوسوں سے) پناہ مانگتا ہوں، تین مرتبہ پڑھے، (پھر یہ آیت پڑھے) وہ اللہ ایسا (پاک ذات) ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جاننے والا ہے، وہی بڑا مہربان (اور) رحم والا ہے، وہ اللہ ایسا (پاک ذات) ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں (تمام جہان کا) بادشاہ ہے، پاک ذات ہے (تمام) عیبوں سے بری ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست ہے، بڑا دباؤ والا ہے، بڑی عظمت رکھتا ہے، یہ لوگ جیسے جیسے شرک کرتے ہیں اللہ (کی ذات) اس سے پاک ہے، وہی اللہ (ہر چیز کا) خالق (ہر چیز کا) موجد ہے (مخلوقات کی طرح طرح کی) صورتیں بنانے والا ہے (اس کی اچھی اچھی صفتیں ہیں (اور اسی سبب سے) اس کے اچھے ہی اچھے نام ہیں، جو (مخلوقات، آسمانوں (میں) اور زمین میں ہے (سب ہی تو) اس کی تسبیح (و تقدیس) کرتے ہیں، اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔
ترمذی، دارمی، ابن سنی (عن معقل بن یسارؓ)

شرح: رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح اس تعوذ کو سورۂ حشر کی ان تین (مذکورہ) آیتوں کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ہے، جو شام تک اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر مر جاتا ہے، تو شہید مرتا ہے۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ دَتِ سَ یَ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

دَیَ

ترجمہ : قلؔ ہواللہ احد الخ تین بار قل اعوذ برب الفلق الخ تین بار، قل اعوذ برب الناس الخ تین بار پڑھے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن سنی (عن عبداللہ بن خبیبؓ)

پس علیؔ جس وقت تم لوگوں کو شام ہو اور جس وقت تم کو صبح ہو اللہ کی تسبیح (وتقدیس) کرو، اور آسمان وزمین میں وہی اللہ تعریف کے لائق ہے، اور (نیز) تیسرے پہر اور جب تم لوگوں کو دوپہر ہو (اللہ کی تسبیح وتقدیس کرو) (وہی) زندہ کو مُردے سے نکالتا ہے، اور وہی مُردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور (وہی) زمین کو اس کے مرے (یعنی پڑتی پڑے) پیچھے زندہ (و شاداب) کرتا ہے اور اسی طرح تم (لوگ بھی مرے پیچھے زمین سے) نکالے جاؤ گے، ابوداؤد، ابن سنی، (عن ابن عباسؓ)

شرح : حضورؔ اقدس صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۂ اخلاص سورۂ فلق سورۂ ناس کا صبح وشام تین تین بار پڑھنا، ہر چیز سے کفایت کرتا ہے۔

حضرتؔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص صبح اس کو پڑھتا ہے، اس کی دن بھر کی چھوٹی ہوئی نیکیوں کا اس کو ثواب مل جاتا ہے اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے اس کو رات بھر کی چھوٹی ہوئی نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔

اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اٰیَۃُ الْکُرْسِیِّ ط وَاٰیَۃُ الْکُرْسِیِّ وَالْاٰیَۃُ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَۃِ غَافِرٍ اِلٰی قَوْلِہٖ اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ

حِبْ اَتِ یَ

ترجمہ: آیت الکرسی "اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الخ" (پڑھے) طبرانی (عن ابی بن کعبؓ) اور آیۃ الکرسی اور سورۃ غافر شروع سے "الیہ المصیر" تک (پڑھے) ابن حبان، احمد، ترمذی ابن سنی (عن ابی ہریرۃؓ)

شرح: حدیث شریف میں ہے، جو شخص یہ دونوں آیتیں صبح کے وقت پڑھے، تو شام تک شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھے، تو صبح تک بچا رہے گا، آیۃ الکرسی یہ ہے:-

اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُہٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗٓ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ط یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ ج وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا یَئُوْدُہٗ حِفْظُھُمَا ج وَھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○

البقرہ
رکوع ۳۴

اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ (کارخانۂ عالم کا) سنبھالنے والا نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں (کسی کی) سفارش کرے، جو کچھ لوگوں کو پیش (آرہا) ہے (وہ) اور جو کچھ ان کے بعد (ہونے والا) ہے (وہ) اس کو (سب) معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے اس کی کرسی (سلطنت) آسمان و زمین (سب) پر پھیلی ہوئی ہے اور آسمان و زمین کی حفاظت اس پر (مطلق) گراں نہیں اور وہ (بڑا) عالیشان (اور) عظمت والا ہے۔

سورۂ غافر کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں:-

حٰمٓ ۚ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۙ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ط اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ ○ (دس رکوع)

حٰمٓ (یہ) فرمان تحریری پیشگاہ خداوندی سے صادر ہوتا ہے جو زبردست (اور ہر چیز سے) واقف ہے گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا (نیز) سزا دینے میں سخت (اور) والا، (نیکیوں کے حال پر) بڑا فضل کرنے والا، اسکے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے۔

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ رَبِّ
اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ
فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ مُرْدَتٍ سَ مُصْ اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ
وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ
دَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ
وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ عَهْ حِبْ اَعْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ
رَ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ دَتْ سَ حِبْ
مُسْ مُصْ وَاَنْ نَّقْتَرِفَ عَلٰٓى اَنْفُسِنَا سُوْٓءًا اَوْ نَجُرَّهٗ

toobaa-elibrary.blogspot.com

إِلَى مُسْلِمَاتٍ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ طَسٓ تِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَتِ سَ

ترجمہ: ہم نے اور سارے ملک نے خدا کے لئے صبح کی، سب تعریف خدا کے لئے ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں (وہ اپنی صفات میں) یکتا و اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک اور اسی کے واسطے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے میرے پروردگار جو کچھ اس دن میں ہے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا، میں تجھ سے اس کی بہتری اور بھلائی مانگتا ہوں، اور اس دن کی برائی اور اس دن کے بعد کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں کسلمندی اور برے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں عذاب دوزخ اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں (مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن ابن مسعودؓ)

مسلم کی دوسری روایت میں اس طرح ہے، خدایا! میں تجھ سے کاہلی، ضعف، پیری، برے بڑھاپے، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں (عن ابن مسعودؓ)

ہم نے اور سارے ملک نے اللہ رب العالمین کے لئے صبح کی، الٰہی میں تجھ سے اس دن کی بہتری و بھلائی، فتح و نصرت، نور و ہدایت اور خیر و برکت چاہتا ہوں، اور اس دن کی اور اس دن کے بعد کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داود (عن ابی مالکؓ)

خداوندا! ہم نے تیری قدرت سے صبح کی، اور تیری مدد سے شام، تیری ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور تجھ ہی سے ہم مریں گے، اور تیری ہی طرف انجام کار جی اٹھنا ہے، سنن اربعہ، ابن حبان، احمد، ابو عوانہ (عن ابی ہریرہؓ)

ہم نے اور تمام ملک نے اللہ کے لئے صبح کی، اور اللہ ہی کے لئے حمد ہے (ذات و صفات میں) اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی (سچی) عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی طرف انجام کار جی اٹھنا ہے، ابن سنی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب وحاضر سے باخبر، ہر چیز کے مالک ومربی میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں (اور) میں تجھ (ہی) سے اپنے نفس کی برائی، شیطان کی شر اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ)

اور (پناہ مانگتا ہوں) اس بات سے کہ ہم (کسی) گناہ کریں، یا کسی مسلمان پر تہمت لگائیں ترمذی (عن ابی الصدیق رضی اللہ عنہ)

الٰہی! میں نے صبح کی، میں تجھے اور تیرے حاملین عرش اور تیرے ملائکہ اور تیری تمام مخلوقات کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، طبرانی فی الاوسط (عن انس رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! میں نے صبح کی، بنا تجھے، تیرے حاملین عرش، تیرے ملائکہ اور تمام مخلوق کو اس پر گواہ کرتا ہوں کہ بجز تیرے کوئی معبود نہیں، تو اپنی ذات وصفات میں یکتا ویگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور اس پر کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں، چار مرتبہ پڑھے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن انس رضی اللہ عنہ)

شرح: صبح کے وقت ان دعاؤں کے شروع میں "اَصْبَحْنَا" یا "اَصْبَحْتُ" اور شام کے وقت "اَمْسَيْنَا" یا "اَمْسَيْتُ" کہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے: "اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ" الخ اور شام کے وقت بھی یہی دعا فرماتے مگر "اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ" کی جگہ "اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ" کہتے تھے۔

حدیث شریف میں "سُوْءِ الْكِبَرِ" و "سُوْءِ الْكِبَرِ" ب پر فتح اور جزم دونوں طرح مروی ہے، لیکن محدثین حضرات نے "سُوْءِ الْكِبَرِ" ب پر فتح کے ساتھ روایۃً اور درایۃً اصح فرمایا ہے۔

ارشاد باری ہے:-

"قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ" آل عمران رکوع ۴

(حضرت زکریا نے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے (ہاں) کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، اور (میرا حال یہ ہے کہ) مجھ پر بڑھاپا آچکا ہے، اور میری بی بی بانجھ ہے۔

"اَلْكِبَرُ" بڑھاپا "اَلْكِبْرُ" نخوت وتکبر

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صبح وشام پڑھنے کے لئے کوئی دعا مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ "اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ" بعض روایتوں میں "وَشِرْكِهٖ" ر پر زبر ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے، میں اپنے نفس کی برائی اور شیطان کی شر اور اس کے جال (یعنی واوگھات) سے پناہ مانگتا ہوں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِیْ دِيْنِیْ وَدُنْيَایَ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ
اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِیْ وَاٰمِنْ رَوْعَتِیْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَيْنِ يَدَیَّ
وَمِنْ خَلْفِیْ وَعَنْ يَّمِيْنِیْ وَعَنْ شِمَالِیْ وَمِنْ فَوْقِیْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ
اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ دَقْ سَ حِبْ مُسْ مُصْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِیْ وَيُمِيْتُ
وَهُوَ حَیٌّ لَّا يَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ دَ سَ قَ مُصَ

ترجمہ: الٰہی! میں تجھ سے دُنیا اور آخرت میں سلامتی چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں معافی اور امن اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور اپنے مال میں، اے اللہ! میرا عیب چھپالے اور میرے خوف کو امن سے بدل دے، اے اللہ! میری حفاظت فرما میرے آگے سے اور پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور بائیں سے اور میرے اُوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ میں ناگہاں نیچے سے پکڑ لیا جاؤں (یعنی زمین میں دھنس جاؤں) ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ)

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اور اسی کے لئے حمد ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن سنی (عن ابن عباسؓ)

شرح: حدیث شریف میں اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کو صبح یا شام پڑھتا ہے، تو اس کو حضرت اسمٰعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے، دس نیکیاں اس کے زائد اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور دس درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، اور اگر صبح پڑھتا ہے تو رات تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک۔

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا اَطْ رَسُوْلًا عَهْ مُسْ اَطْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مُصْ يَ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ دَسْ حِبْ ی

ترجمہ: ہم اللہ کے رب اور اسلام کے (دین و) مذہب اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ احمد، طبرانی، سنن اربعہ، حاکم (عن ابی سلامؓ)

احمد اور طبرانی میں لفظ رسولاً ہے" یعنی محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر" (عن ابی سلامؓ)

میں خدا کے پروردگار، اسلام کے (دین و) مذہب اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اس کو تین بار کہے، ابن ابی شیبہ، ابن سنی، (عن ابی سلامؓ)

خداوندا! جو بھی نعمت مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو ملی وہ (سب) تیری ہی طرف سے ہے، تو یکتا و یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لئے حمد اور تیرے ہی واسطے شکر ہے۔ ابوداؤد، نسائی، ابن حبان (عن ابن غنامؓ)، ابن سنی (عن ابن عباسؓ)

شرح: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دُعا پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ دُعا پڑھے گا، خدا قیامت کے دن ضرور اس کو راضی کر دے گا۔

حضرت عبداللہ بن غنامؓ بیان کرتے ہیں، حضور انور صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص صبح ہونے پر یہ دُعا پڑھے گا تو اس نے تمام دن کا شکر ادا کر دیا، اور شام کو پڑھے گا تو اس رات کا شکر ادا کر دے گا۔

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ دَسَرَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا دَسَرَ

ترجمہ: الٰہی! مجھے میرے جسمانی اعضاء الٰہی! میری سماعت میں سلامتی بخش۔ الٰہی! میری بینائی میں سلامتی فرما بجز تیرے کوئی معبود نہیں، یہ تین بار کہے، الٰہی! میں کفر اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، الٰہی! میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تین بار پڑھے، (ابوداؤد، نسائی، ابن سنی، (عن ابی بکرۃ الثقفی رضی اللہ عنہ)

اللہ پاک منزہ ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے (اور) اللہ ہی کی (عطا کردہ) قوت ہے، جو اللہ نے چاہا ہوا جو نہ چاہا نہ ہوا، میں جانتا ہوں کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور (نیز) یہ کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے، (ابوداؤد، نسائی، ابن سنی (عن عبدالحمید مولی بن ہاشم عن امہ رضی اللہ عنہ)

شرح: رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا ظاہر و باطن کی جامع ہے، آپ فرماتے ہیں "الٰہی! مجھے صحت جسمانی عطا فرما" یعنی اعضاء و جوارح سلامت رکھ میری شکل و صورت نہ بگاڑ، میرے جسم کا کوئی حصہ یا عضو تیری نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، آنکھ ممنوعات کو نہ دیکھے، کان منہیات کو نہ سنیں، ہاتھ منع کی ہوئی چیزوں کو نہ پکڑیں، قدم گمراہی کے راستہ پر نہ اٹھیں، نفس و دل اس چیز کی خواہش نہ کریں جن سے تو نے روکا ہے، عقل و دماغ، تیری بتلائی چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہ سوچیں۔ غرض جسم کا ہر حصہ اور ہر عضو تیرا ہی فرمانبردار رہے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ مشیت خداوندی پر راضی و خوش رہے حدیث قدسی ہے:-

ترید وارید ولا یکون الا ما ارید اے بندے تو ایک کام کا ارادہ کرتا ہے، میں بھی اس کا

فمن رضی فله الرضاء و من سخط فله السخط و یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید۔

ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، جو شخص میری مشیت پر راضی ہو گیا اس کے لئے میری خوشنودی ہے، اور جو میرے ارادے اور مشیت پر راضی نہ ہوا، اس کے واسطے میری ناراضگی ہے اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے

حدیث شریف میں ہے صبح جس نے یہ دعا پڑھی وہ شام تک اور جس نے شام کو پڑھی وہ صبح تک (بلا اور آفتوں سے) محفوظ رہتا ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ
نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ
حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَطْ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ
سَ فِي الصَّبَاحِ فَقَطْ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ
شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ سَ صُسْ رَ

ترجمہ: ہم نے صبح کی فطرت اسلام اور کلمۂ اخلاص پر اور ہمارے (محبوب) نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر، اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو موحد اور مسلمان تھے، اور مشرک نہ تھے، احمد و طبرانی نے اس کا صبح و شام پڑھنا روایت کیا ہے، اور نسائی نے صرف صبح پڑھنا نقل کیا ہے (عن عبد الرحمن بن أبزیٰ)

اے زندہ اور سنبھالنے والے تیری رحمت کی دُہائی، میری ساری حالت درست کر دے اور مجھے میری طبیعت پر ایک لمحہ کے لئے نہ چھوڑ، نسائی، حاکم، بزار (عن انسؓ)

شرح: انبیا علیہم السلام کو چونکہ خود بخود اوپر ایمان لانے کا حکم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ دعا پڑھی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ جب اذان دیتے وقت "اشهد ان محمدا رسول الله" کہتے تو آپ "انا انا" فرماتے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں، میں کفار سے لڑتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سردار دو جہان سجدہ میں سر رکھے ہوئے "یا حی یا قیوم" پڑھ رہے ہیں، پھر میں چلا گیا اور لڑائی میں شریک ہو گیا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو آپ بدستور اسی طرح سجدہ میں سر رکھے ہوئے "یا حی یا قیوم" پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی خوشخبری سنا دی۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْٓءُ
بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا صَنَعْتُ خ س اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ
وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ
اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ دی اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ
ذُكِرَ وَاَحَقُّ مَنْ عُبِدَ وَاَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِیَ وَاَرْأَفُ مَنْ مَلَكَ
وَاَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطٰی اَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِیْكَ
لَكَ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ لَنْ تُطَاعَ
اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصٰی اِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصٰی
فَتَغْفِرُ اَقْرَبُ شَهِیْدٍ وَّاَدْنٰی حَفِیْظٍ حُلْتَ دُوْنَ النُّفُوْسِ وَاَخَذْتَ
بِالنَّوَاصِیْ وَكَتَبَتِ الْاٰثَارَ وَنَسَخَتِ الْاٰجَالَ اَلْقُلُوْبُ لَكَ
مُفْضِیَةٌ وَّالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِیَةٌ اَلْحَلَالُ مَا اَحْلَلْتَ وَالْحَرَامُ
مَا حَرَّمْتَ وَالدِّیْنُ مَا شَرَعْتَ وَالْاَمْرُ مَا قَضَیْتَ وَالْخَلْقُ
خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنْتَ اللّٰهُ الرَّءُوْفُ الرَّحِیْمُ اَسْاَلُكَ
بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِیْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَبِكُلِّ

حَقِّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّآئِلِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْلَنِيْ فِيْ هٰذِهِ الْغَدَاةِ اَوْ فِيْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ وَاَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ طَطَبْ

ترجمہ : خدایا: تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد و پیمان پر جتنا بن پڑا قائم ہوں، اور میں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس تو مجھے بخشدے، کیونکہ بجز تیرے کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، میں اپنے (تمام) کئے ہوئے کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بخاری، نسائی (عن شداد بن اوس بن ثابت الانصاری)

الٰہی! تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور بقدر استطاعت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے (تمام) کئے ہوئے کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں (اور) تیری (ہر انعمت کا جو مجھ پر ہے مقر ہوں، اور اپنے (ہر) گناہ کا معترف ہوں، پس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، ابوداؤد، ابن سنی۔

اے اللہ! تو ہی ان سب سے زیادہ مستحق ہے جن کی یاد کی جائے، اور تو ہی ان سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے، اور تو ہی سب مالکوں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے اور تو ہی ان سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہے، جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہی دینے والوں میں سب سے بڑھا ہوا ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو یگانہ ہے، تیرا کوئی مثل نہیں، بجز تیری ذات کے ہر چیز فانی ہے، بغیر تیری اجازت کے تیری اطاعت نہیں ہو سکتی، اور تیرے علم کے بغیر تیری معصیت نہیں ہو سکتی، تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تُو قدر فرماتا ہے، اور تیری نافرمانی کی جاتی ہے تو تُو بخش دیتا ہے، تُو قریب ترین گواہ اور نزدیک ترین نگہبان ہے، نفوس پر تیرا تصرف ہے، پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، اعمال (ونشانات) تو نے ہی لکھے ہیں، زندگیاں (عمریں) تو نے ہی تحریر کی ہیں، دل تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں مخفی تیرے نزدیک علانیہ ہے، حلال وہی ہے، جسے تُو نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے، جسے تو نے حرام کیا اور مذہب وہی ہے جسے تو نے مقرر کیا، اور حکم وہی ہے جو تو نے صادر فرمایا، اور مخلوق سب تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے اور ہر بندہ تیرا ہی غلام ہے، اور تُو ہی اللہ ہے شفیق و مہربان، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری ذات کے نور سے جس سے آسمان و زمین روشن ہیں، اور تیرے ہر استحقاق سے، اور اس حق سے جو سائلین کا تجھ پر ہے کہ میری خطا، اسی صبح یا اسی شام میں معاف فرما، اور اپنی قدرت کاملہ سے مجھے دوزخ سے پناہ دے، الکبیر و کتاب الدعاء

toobaa-elibrary.blogspot.com

للطبرانی (عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ)

شرح : حدیث شریف میں ہے، جو شخص یہ دُعا پڑھتا ہے، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی دس برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے پناہ دیتا ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ی لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ سَ حِبْ اَ طَ ی سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ مُرْدَتٍ سَ مُسْ حِبْ عَوْ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِائَةَ مَرَّةٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِائَةَ مَرَّةٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ تِ وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ط

ترجمہ: اللہ مجھے کفایت کرنے کو بس ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے اسی پر بھروسہ ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، سات بار کہے، ابن سنی (عن ابی الدرداءؓ)

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اور وہی قابلِ تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دس مرتبہ پڑھے۔ نسائی، ابن حبان، احمد (عن ابی ایوب الانصاریؓ) طبرانی، ابن سنی (عن ابی ہریرہؓ)

میں اللہ بزرگ و برتر کی تسبیح اور تحمید کرتا ہوں، سو مرتبہ کہے، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی حاکم، ابن حبان، ابوعوانہ (عن ابی ہریرہؓ)

سبحان اللہ سو مرتبہ "الحمد للہ" سو مرتبہ "لا الہ الا اللہ" سو مرتبہ "اللہ اکبر" سو مرتبہ پڑھے۔ ترمذی (عن ابن عمرؓ)

اور پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم پر دس بار درود بھیجے، طبرانی (عن ابی الدرداءؓ)

شرح: جو شخص ہر روز صبح و شام اس کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے تمام غموں سے اسے کفایت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے سو مرتبہ صبح اس کو پڑھا، تو قیامت کے دن کوئی دوسرا شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا، بجز اس شخص کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو، یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ تعداد میں حصر نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا زیادہ پڑھے گا اسی قدر ثواب کا مستحق ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، جو شخص صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ کہے، تو اس کو سبق کرنے والے

toobaa-elibrary.blogspot.com

کے برابر ثواب ملے گا، اور جو "الحمد للہ" سو بار کہے اسے جہاد میں سو گھوڑے دینے والے کے برابر ثواب ملیگا یا یہ فرمایا کہ سو جہاد کرے۔ اور جو "لا الہ الا اللہ" سو مرتبہ کہے اسے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی نسل کے سو غلام آزاد کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور جو "اللہ اکبر" سو مرتبہ کہے، تو اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہ ہوگا، بجز اس شخص کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ۔ (مسلم)

علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس شخص نے دس بار صبح اور دس بار شام مجھ پر درود بھیجا وہ قیامت میں میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔

اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد بات کرنے سے پیشتر مجھ پر درود بھیجے تو اللہ تعالےٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سے تیس حاجتیں جلد اور ستر تاخیر سے، اور بعد نماز مغرب پڑھنے والے کا بھی یہی ثواب ہے، کذا ذکرہ المصنف فی المنہیہ۔

kutubaa-elibrary.blogspot.com

کنٹونمنٹ پبلک لائبریری
لوئر اوارین سیما روڈ راولپنڈی

وَاِنِ ابْتُلِيَ بِهَمٍّ اَوْ دَيْنٍ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَاِلٰى هٰهُنَا يُقَالُ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ جَمِيْعًا وَلٰكِنْ يُقَالُ فِي الْمَسَاءِ مَكَانَ اَصْبَحْنَا اَمْسَيْنَا وَمَكَانَ هٰذَا الْيَوْمِ هٰذِهِ اللَّيْلَةُ وَمَكَانَ التَّذْكِيْرِ التَّانِيْثُ وَمَكَانَ النُّشُوْرُ الْمَصِيْرُ كَمَا كَتَبْنَاهُ بِالْحُمْرَةِ فَوْقَ كُلِّ كَلِمَةٍ وَيُزَادُ فِي الْمَسَاءِ فَقَطْ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَاَ وَبَرَاَ وَيُزَادُ فِي الصَّبَاحِ فَقَطْ اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَآءُ وَالْعَظَمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يَضُمُّ فِيْهِمَا لِلّٰهِ وَحْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَّاَوْسَطَهٗ فَلَاحًا وَّاٰخِرَهٗ نَجَاحًا اَسْاَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ مُصْ

ادائے قرض اور رنج وغم دُور ہونے کی دُعائیں

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں رنج وغم سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے جبر وزور سے، ابوداؤد عن ابی سعید الخدریؓ)

یہاں تک صبح وشام دونوں وقت پڑھے، لیکن شام کے وقت "اصبح" کی جگہ "امسی"

صرف شام کی دعا

اور "هٰذا الیوم" کی جگہ "هذه اللیلة" اور مذکر کی جگہ مؤنث اور "النشور" کی جگہ "المصیر" کہے جیسا کہ ہم نے سُرخی سے ہر کلمہ کے اُوپر لکھ دیا ہے۔

اور فقط شام میں یہ زیادہ کیا جائے، ہم نے اور سارے ملک نے خدا کے لئے، شام کی سب تعریف خدا کے لئے ہے، میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس نے اپنی بلا اجازت آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اور اس چیز کی بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں جس کا اس نے اندازہ کیا، پھیلایا اور پیدا کیا، طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

اور فقط صبح میں یہ زیادہ کیا جائے، ہم نے اور سارے ملک نے خدا کے لئے صبح کی، ذاتی و صفاتی بڑائیاں، تخلیق، تدبیر، لیل و نہار، اور جو شب و روز میں ظاہر ہوتا ہے وہ سب اللہ کے واسطے ہے، جو یکتا و یگانہ ہے، اے اللہ آج کے دن کے اوّل حصہ کو میرے حق میں بہتر، درمیانی حصہ کو فلاح اور آخری حصہ کو کامیاب بنادے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ (عن عبدالرحمٰن بن ابی اوفیٰ)

صرف صبح کی دعا

شرح : حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن کا ذکر ہے کہ جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں ایک انصاری بیٹھے تھے، جن کا نام تھا ابوامامہ، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ابوامامہ! تو بے وقت مسجد میں کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کیا "یا رسول اللہ طرح طرح کے رنج و غم اور قرضوں کے تقاضے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فرمایا "میں تجھے ایسے چند کلمے بتائے دیتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے خدا تیرا رنج و غم دُور اور قرض ادا کردے گا، تو صبح و شام یوں کہا کر کہ "اللھم انی اعوذ بک الخ" حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں چند ہی روز ان کلمات کو پڑھنے پایا تھا کہ خدا نے میرا غم و اندوہ بھی دُور کر دیا، اور قرض بھی ادا کرا دیا۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ "الذی یقال فی صباح کل یوم ومسائہ سے وان اجلی بھا احد دین تک" وہ دعائیں بیان کی ہیں جو صبح و شام پڑھی جاتی ہیں، اس لئے یہ فرمایا کہ جو دعائیں ان یہ الفاظ "اصبح و امسی" ہوں ان میں صبح کے وقت "اصبحنا و اصبح" اور "هذا الیوم" اور "وما بعدہ" اور "الیک یا الیہ النشور" پڑھے اور شام کو "امسینا و امسی" اور "هذه اللیلة" اور "الیک یا الیہ المصیر" پڑھے۔

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ وَمِنْكَ
وَاِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ اَوْ نَذَرْتُ
مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ
تَشَأْ لَا يَكُوْنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اَللّٰهُمَّ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلٰوةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ وَمَا لَعَنْتَ مِنْ لَّعْنٍ
فَعَلٰى مَنْ لَعَنْتَ اَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا
وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ی مُس اَطَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الرِّضَا
بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ
وَشَوْقًا اِلٰى لِقَآئِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ وَّ
اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَعْتَدِيَ اَوْ يُعْتَدٰى عَلَيَّ اَوْ
اَكْتَسِبَ خَطِيْئَةً اَوْ ذَنْبًا لَّا تَغْفِرُهٗ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
فَاِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاُشْهِدُكَ وَكَفٰى
بِكَ شَهِيْدًا اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا
شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ
حَقٌّ وَلِقَآئَكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

وَاَنَاكَ اِنْ تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ تَكِلْنِیْ اِلٰی ضُعْفٍ وَّعَوْرَةٍ وَّذَنْبٍ وَّخَطِیْئَةٍ وَّاِنِّیْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِیْ ذُنُوْبِیْ كُلَّهَا اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ مُسْ اَطْ

ترجمہ : میں حاضر ہوں، الٰہی! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، اور تیری فرمانبرداری کے لئے مستعد ہوں، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تیری طرف سے ہے، اور تیری ہی طرف منسوب ہے الٰہی! جو کچھ میں نے کہا، یا قسم کھائی، یا نذر مانی تیری مشیت ان سب سے پہلے ہے، تُو نے جو چاہا ہوا، جو نہ چاہے گا نہیں ہوگا، طاقت و قوت تیری ہی وجہ سے ہے، بیشک تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

خدایا! جو کچھ میں نے رحمت کی دُعا مانگی وہ اس پر ہو جس پر تُو نے رحمت فرمائی اور جو کچھ میں نے لعنت کی وہ اس پر ہو جس پر تُو نے لعنت کی، دُنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، اسلام پر مجھے موت دے اور صالحین کے زمرہ میں مجھے شامل فرما، (ابن سنی، حاکم، احمد، طبرانی از عن زید بن ثابتؓ)

اے اللہ! تو مجھے تیرے فیصلہ پر راضی رہنا، مرنے کے بعد والی زندگی کا چین، تیرے دیدار کی لذت اور تیرے دیدار کا ایسا شوق جو بلا تکلیف اور بلا فتنہ ہو نصیب فرما، اور میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں زیادتی کروں یا مجھ پر زیادتی ہو، یا مجھ سے ایسی خطا یا گناہ سرزد ہو جسے تو معاف نہ فرمائے۔

اے اللہ! خالق ارض و سما، حاضر و غائب کے واقف، بزرگی و عزت والے میں اس دُنیوی زندگی میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تو ہی گواہ بس ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا ہی ملک ہے اور تیرے ہی لئے تعریف ہے، اور تُو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (ہمارے سردار دو جہان) محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے تیری ملاقات یقینی ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، یقیناً تُو اہل قبر کو قبر سے اُٹھائے گا۔ اور اگر تُو مجھے میرے نفس کے حوالہ کر دے گا تو تو مجھے خسارہ، بے حیائی، گناہ اور قصور کے حوالہ کرے گا، اور مجھے تیری ہی رحمت کا بھروسہ ہے پس تو میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں، اور میری توبہ قبول فرما بیشک تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے،

حاکم، احمد، طبرانی (عن زید بن ثابتؓ)

شرح: اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری جملہ یہی تھا "رب توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین"

آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاکر یہ دعا تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اسے ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَقَالَنَا یَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ یُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا فَمُوْمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَنَا هٰذَا الْیَوْمَ وَاَقَالَنَا فِیْهِ عَثَرَاتِنَا وَلَمْ یُعَذِّبْنَا بِالنَّارِ مُوْطَیْ ثُمَّ یُصَلِّیْ رَكْعَتَیْنِ تِ طَ عَلَی اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی ابْنَ اٰدَمَ ارْكَعْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوَّلَ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ دَسَ

طلوع آفتاب کی دُعائیں

ترجمہ: جب آفتاب طلوع ہو تو یہ دُعا پڑھے۔

خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے آج کے دن کے گناہ معاف کئے، اور گناہوں کے سبب سے ہمیں ہلاک نہیں کیا، مسلم موقوفاً (عن ابن مسعودؓ)

خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں (آج کا یہ) دن بخشا، اور اس میں ہماری لغزشیں، کوتاہیاں اور بھول چوک معاف کی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا، طبرانی، ابن سنی موقوفاً (عن ابن مسعودؓ)

پھر دو رکعت نماز پڑھے، ترمذی، (عن انسؓ) طبرانی (عن ابی امامہؓ)

(حدیث قدسی ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم دن کے اوّل حصہ میں میرے لئے چار رکعت نماز ادا کر، میں اس دن کے آخر تک تجھے کفایت کروں گا، ترمذی، ابوداؤد، نسائی (عن ابی الدرداءؓ)

شرح: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے نماز فجر جماعت سے ادا کی اور طلوع آفتاب تک ذکر الٰہی میں مشغول رہا پھر دو رکعت نماز پڑھی تو وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم دن کے اوّل حصہ میں میرے لئے چار رکعت نماز ادا کر میں اس دن کی تمام ضرورتیں پوری کروں گا، اور تیری تکلیفیں اور مصیبتیں دُور کر دوں گا، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چار رکعتوں سے نماز اشراق یا چاشت مُراد ہے۔

مَا يُقَالُ فِي النَّهَارِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائَةَ مَرَّةٍ
خ مُتِ س ق مُص مِأَتَيْ مَرَّةٍ أَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ
مِائَةَ مَرَّةٍ مُتِ س مُص مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فِي الْيَوْمِ عَشْرَ
مَرَّاتٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ مَلَكًا يَرُدُّ عَنْهُ الشَّيْطِيْنَ
ص مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعًا ق
عِشْرِيْنَ مَرَّةً أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ
وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ ط أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ
يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ
أَوْ يُحَطُّ مُ وَيُحَطُّ تِ س حِبْ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ مُ
تِ س حِبْ

دِن کی دُعائیں

ترجمہ: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، وہی قابلِ تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سو مرتبہ پڑھے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہؓ)

اور مسند احمد میں عبداللہ بن عمرؓ سے دو سو مرتبہ پڑھنا مروی ہے۔

"سبحان اللہ وبحمدہٖ" سو مرتبہ پڑھے، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہؓ)

جس شخص نے دن میں دس مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے

واسطے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو شیطان کو اس سے دُور کرتا رہتا ہے، ابویعلی (عن انسؓ)
جو شخص ۱۰۰ ہر روز مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے ستائیس یا پچیس بار مغفرت کی دُعا کرے گا
تو وہ ان مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی وجہ سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا
ہے۔ طبرانی (عن ابی الدرداءؓ)
کیا کوئی شخص ۱۰۰ تم میں سے ہر روز ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ (جو شخص) سو مرتبہ سُبحانَ اللہ
کہتا ہے، اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا (ہزار) برائیاں، مٹائی جاتی ہیں، صحیح مسلم
اور مٹائی جاتی ہیں، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن حبان (عن سعد بن ابی وقاصؓ)

شرح: حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے دن بھر میں سو مرتبہ "لا الٰہ الا اللہ الخ" پڑھا اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے نامۂ اعمال میں سو نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے سو گناہ معاف ہوں گے، اور دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا اور قیامت میں اس سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہو گا مگر وہ شخص کا جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔

ستائیس ۱۰۰ بار یا پچیس بار یہ شک راوی ہے، یعنی راوی کو یہ صحیح یاد نہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ستائیس بار فرمایا یا پچیس بار، دوسری روایت میں ہے جو مومن مرد اور مومن عورتوں کے لئے استغفار کرتا ہے اللہ تعالےٰ اس کے نامۂ اعمال میں ہر مومن مرد و عورت کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔

"او ۱۰۰ بحط" کا لفظ "او" یا تنویع کے لئے ہے، یعنی متقیوں کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گنہگاروں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں یا "او" جمع کے واؤ کے معنی میں ہے، یعنی دونوں باتیں ہوتی ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور برائیاں بھی مٹائی جاتی ہیں، جیسا "و بحط" کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

وَلْيَقُلْ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ دَ تِ مُسْ

مغرب کی اذان کے وقت کی دُعا

ترجمہ: مغرب کی اذان کے وقت یہ دُعا پڑھنی چاہیے۔

الٰہی! یہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے کا وقت ہے، اور تیرے مؤذنوں کی آواز (اذان) کا وقت ہے۔ پس تُو مجھے بخش دے، (ابوداؤد، ترمذی، حاکم عن ام سلمہؓ)

شرح: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جناب رسالتمآب صلے اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دُعا مغرب کی اذان کے وقت پڑھنی بتلائی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَا يُقَالُ فِي اللَّيْلِ آمَنَ الرَّسُولُ الْآيَتَيْنِ وَآخِرَ الْبَقَرَةِ ع قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ خ مُ س وَقِرَاءَةُ مِائَةِ آيَةٍ مُسْ وَقِرَاءَةُ عَشْرِ آيَاتٍ مُسْ وَقِرَاءَةُ عَشْرِ آيَاتٍ أَرْبَعٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا وَخَوَاتِيمَهَا مُوَطَّ وَقِرَاءَةُ يٰسٓ حِبْ

رات کی دُعائیں

ترجمہ: وہ دُعائیں جو رات میں پڑھی جاتی ہیں۔

"اٰمَنَ الرَّسُوْلُ" سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں (پڑھے) صحاح ستہ (عن ابن مسعود الانصاریؓ)

"قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" (پڑھے) بخاری (عن ابی سعید الخدریؓ) مسلم، نسائی (عن ابی الدرداءؓ)

اور قرآن مجید کی سو آیتیں پڑھنا، حاکم (عن ابن عمرؓ)

اور قرآن شریف کی دس آیتیں پڑھنا حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

اور دس آیتیں سورۂ بقرہ کی پہلی چار آیتیں اور آیۃ الکرسی۔ اور آیۃ الکرسی کے بعد کی دو آیتیں، اور سورۂ بقرہ کی تین آخری آیتیں پڑھنا، طبرانی موقوفاً (عن ابن مسعودؓ)

سورۂ یٰسین پڑھنا۔ ابن حبان (عن جندبؓ و عبداللہ البجلیؓ)

شرح: یہ وہ دعائیں ہیں جو رات میں پڑھی جائیں ان کے لئے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، خواہ اوّل رات میں یا درمیان میں یا آخر میں جس وقت چاہے پڑھے

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ

(رسول یعنی پیغمبر اعظمؐ اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتاری ہے، اور پیغمبر کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی (یہ سب) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے اور کہتے ہیں کہ) ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو (بھی) جُدا نہیں سمجھتے (یعنی سب کو مانتے ہیں) اور بولے کہ ہم نے (تیرا ارشاد) سُنا اور تسلیم کیا اے ہمارے پروردگار (ہم) تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی

الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟
وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝
(البقرہ۔ رکوع ۴۰)

طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس (کے اٹھانے) کی اُس کو طاقت ہو جس نے اچھے کام کئے تو (اُن کا نفع بھی) اُسی کے لئے ہے اور جس نے بُرے کام کئے (اُن کا وبال بھی) اُسی پر (ہے) اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم کو (اس کے وبال میں) نہ پکڑ اور اے ہمارے پروردگار جو (بوجھ) ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے (اُن کے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا) بار ڈالا تھا ویسا بار ہم پر نہ ڈال، اور اے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس (کے اٹھانے) کی ہم کو طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا اور ہمارے قصوروں سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا (حامی و مددگار) ہے تو ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

ارشاد نبوی ہے جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آخری آیتیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسے ہر بُرائی سے بچائے گا۔

حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے رات کو سو آیتیں پڑھیں وہ اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والوں میں نہ لکھا جائے گا، اسی طرح جس نے دس آیت پڑھ لی اس کا بھی غافلوں میں شمار نہ ہوگا۔

سورۃ البقرہ کی پہلی چار آیتیں:۔

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ
عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (البقرہ رکوع ۱)

الٓمّٓ۔ یہ وہ کتاب ہے جس (کے کلام الٰہی ہونے) میں کچھ بھی شک نہیں، پرہیزگاروں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے (راہ خدا میں بھی) خرچ کرتے اور (اے پیغمبر) جو (کتاب) تم پر اُتری اور جو کتابیں) تم سے پہلے اُتریں ان (سب) پر ایمان لاتے اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی (آخرت میں) مراد پائیں گے۔

آیۃ الکرسی:۔

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا
تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِيْ
يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ

اللہ وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ (کا خانہ عالم کا) سنبھالنے والا، نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں (کسی کی) سفارش کرے، جو کچھ لوگوں کو پیش آ رہا ہے (وہ) اور جو کچھ ان کے بعد رہونے والا ہے)

بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝ (البقرۃ رکوع ۳۴)

(وہ) اس کو (سب) معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے اس کی کرسی (سلطنت) آسمان وزمین (سب) پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور آسمان وزمین کی حفاظت اس پر (مطلق) گراں نہیں اور وہ (بڑا) عالیشان (اور) عظمت والا ہے

آیۃ الکرسی کے بعد کی دو آیتیں:۔

لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (البقرۃ رکوع ۳۴)

دین میں زبردستی (کا کچھ کام) نہیں (کیونکہ) ہدایت (الگ) ظاہر ہو چکی ہے تو جو شخص معبودوں کو نہ مانے اور اللہ (ہی) پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی پکڑ رکھی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ (سب کی) سنتا اور (سب کچھ) جانتا ہے اللہ ایمان والوں کا حامی (و مددگار) ہے کہ ان کو (کفر کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان کی) روشنی میں لاتا ہے اور جو لوگ (دین سے) منکر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں کہ ان کو (ایمان کی) روشنی سے نکال کر (کفر کی) تاریکیوں میں دھکیلتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں (اور) وہ ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے۔

سورۂ بقرہ کی تین آخری آیتیں جن میں سے دو پہلے بیان ہو چکیں ایک یہاں لکھی جاتی ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ (البقرۃ رکوع ۴۰)

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور (لوگو) جو تمہارے دل میں ہے اگر اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر دل کے کھوٹ پر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے رات کو اپنے گھر میں یہ آیتیں پڑھیں تو صبح تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص رات کو (سونے کی) رضا کے لئے سورۂ یٰسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔

دارقطنی کی روایت میں ہے جو شخص رات کو سورۂ یٰسین پڑھتا ہے، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَا يُقَالُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جَمِيعًا سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ خ س مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فِيْ يَوْمٍ اَوْ فِيْ لَيْلَةٍ اَوْ فِيْ شَهْرٍ ثُمَّ مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ اَوْ فِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ اَوْ فِيْ ذٰلِكَ الشَّهْرِ غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ خ س دَعَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ فَقَالَ اِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ يُرِيْدُ اَنْ يُمْنَحَكَ كَلِمَاتٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ تَرْغَبُ اِلَيْهِ فِيْهِنَّ وَتَدْعُوْهُنَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ صِحَّةً فِيْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا يَتْبَعُهَا فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضْوَانًا طس

toobaa-elibrary.blogspot.com

دِن اور رات کی دُعائیں

ترجمہ: وہ دعائیں جو دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں (ان میں سے ایک) سیّد الاستغفار ہے (اور وہ یہ ہے)

اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور اپنی استطاعت کے بقدر تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، جو کچھ بھی میں نے کیا اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مجھ پر جو تیری نعمت ہے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہ کا معترف ہوں (خدارا) تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی (دوسرا) گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔

جس نے اس (دعا) پر یقین رکھتے ہوئے اس کو دن میں پڑھا، اور دُنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس نے اس (دعا) پر یقین رکھتے ہوئے اس کو رات میں پڑھا، اور دُنیا سے رحلت کر گیا تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ بخاری (نسائی (عن شداد بن اوسؓ)

جس نے (یہ دعا کہ) خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خدا سب سے بڑا ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا و یگانہ ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں (اور) اس کا کوئی شریک نہیں، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کا مُلک ہے، اور وہی قابلِ تعریف ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، طاقت و قوت خدا ہی کی طرف سے ہے، دن میں یا رات میں یا مہینہ میں پڑھی اور اسی دن یا رات یا مہینہ میں مر گیا تو اس کے (سب) گناہ معاف ہو گئے۔ بخاری (نسائی (عن شداد بن اوسؓ)

(ایک روز) رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ فرمایا خدا کا پیغمبر یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خدا کی طرف سے اُترے ہوئے (ملکت بحرے) کلمات سکھلائے، تم انہیں ذوق و شوق سے برابر پڑھتے رہو اور دن رات ان کے ساتھ دعائیں مانگو (اور وہ یہ ہیں)

اے اللہ! مجھ سے صحت، ایمان کے ساتھ، اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ اور ایسی کامیابی جس کے پیچھے فلاح ہو، اور تیری رحمت، عافیت، مغفرت اور تیری خوشنودی چاہتا ہوں۔ طبرانی فی الاوسط (عن ابی ہریرہؓ)

وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى أَهْلِهِ دَ وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ مُ دَ سَ قَ ی

گھر میں آمد و رفت کی دُعائیں

ترجمہ: جب (کوئی شخص) اپنے گھر میں آئے تو یہ دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام علیک کرے، خدایا! میں تجھ سے اندر آنے اور باہر جانے کی بہتری طلب کرتا ہوں، اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے، اور اللہ کے نام سے ہم نکلے اور خدا پر جو ہمارا پروردگار ہے بھروسہ کیا، (ابوداؤد، عن مالک الاشعریؓ)

جب کوئی شخص اپنے گھر میں آتے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے متبعین سے) کہتا ہے (یہاں) تمہارے لئے نہ شب باشی ہے نہ کھانا، اور جب آتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے (یہاں) تمہیں شب باشی کا موقعہ مل گیا اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے یہاں تمہیں شب باشی اور کھانا دونوں مل گئے (مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ۔

شام ہونے کا بیان

شرح: (پہلی) میں ایک روایت ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ آدمی اس وقت گھر میں کوئی نہ ہو تو اس طرح سلام کرے "السلام علیکم وعلیٰ عباد اللہ الصالحین" اور فرشتوں کی نیت کرے کذا ذکر علی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر اپنی مفلسی و محتاجی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا "جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور تو سلام کر کے داخل ہو اور خواہ کوئی ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر درود بھیجو اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھو" اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ وَاغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ شَيْئًا ع

سوتے وقت کی دعائیں

ترجمہ: جب[1] سرِشام ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے روکو، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں، پھر جب گھڑی بھر رات گذر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور "بسم اللہ" کہہ کر دروازہ بند کر دو، اور "بسم اللہ" ہی کہہ کر چراغ بجھا دو، اور "بسم اللہ" ہی کہہ کر مشک کا منہ باندھ دو، اور "بسم اللہ" ہی کہہ کر (کھلے ہوئے) برتن ڈھانک دو، اور اگر اس وقت ڈھانکنے کے لئے کچھ نہ ہو، تو چوڑاؤ ہی میں برتن پر کچھ رکھ دو۔ صحاح ستہ (عن جابرؓ)

شرح: یعنی[1] برتن کا سرپوش نہ ہو یا وقت پر نہ ملے تو کوئی چیز مثلاً لکڑی وغیرہ ہی برتن پر رکھ دے حدیث شریف میں ہے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، برتن ڈھانکو اور مشک کا منہ باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اُترتی ہے اور وہ کھلے برتن وغیرہ میں داخل ہو جاتی ہے

عِنْدَ النَّوْمِ إِذَا أَتٰى فِرَاشَهٗ وَهُوَ طَاهِرٌ د اَوْ فَلْيَتَطَهَّرْ طَسْ
اَوْ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ ع ثُمَّ يَأْتِيْ اِلٰى فِرَاشِهٖ
فَيَنْفُضُهٗ بِصَنِيْفَةِ ثَوْبِهٖ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّيْ
وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا
وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ
ع مُصْ وَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ مُ ع وَيَتَوَسَّدُ
بِيَمِيْنِهٖ دَاَيْ يَضَعُهَا تَحْتَ خَدِّهٖ دَتِ سَ ثُمَّ يَقُوْلُ
بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَخْسِئْ شَيْطَانِيْ
وَفُكَّ رِهَانِيْ وَثَقِّلْ مِيْزَانِيْ وَاجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الْاَعْلٰى د
مُسْ اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ رَمُصْ
ثَلٰثَ مِرَارٍ دَسَ تِ بِاسْمِكَ رَبِّيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ
اَبِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ مُصْ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ
اَمُوْتُ وَاَحْيٰى خَ مُدَتِ سَ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلٰثًا
وَّثَلٰثِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَرْبَعًا وَّ
ثَلٰثِيْنَ خَ مُدَتِ سَ حِبْ

ترجمہ: انسان جب سونے کے لئے اپنے بستر پر آئے تو پاک ہو، ابوداؤد (عن البراء بن عازبؓ)
یا چاہئے کہ پاک ہو کر آئے، طبرانی فی الاوسط (عن ابن عباسؓ)

یا نماز کی طرح وضو کر کے آئے، (صحاح ستہ (عن البراءؓ)

پھر بستر کو تین بار کپڑے کے پلّے سے جھاڑے اور یہ دعا پڑھے تیرے نام پر اے میرے پروردگار میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیری ہی مدد سے اٹھاؤں گا، اگر تو میری جان روک لے تو اس کی بخشش فرما اور اگر بھیجے تو اس کی ایسی حفاظت کر جیسی تو اپنے نیک بندوں کی کرتا ہے، صحاح ستہ، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہؓ)

اور چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹے، مسلم، صحاح ستہ (عن ابی ہریرہؓ)

اور اپنے دائیں ہاتھ کا تکیہ لگائے، یعنی دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، (عن حذیفہؓ)

پھر کہے اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، اور میرے شیطان کو دور کر دے، اور میری جان آزاد کر دے، اور میرے (اعمال کا) پلّہ بھاری کر دے، اور مجھے طبقہ اعلیٰ میں کر دے، ابوداؤد، حاکم (عن ابی الازہر الانصاریؓ)

اے اللہ جس روز تو اپنے بندوں کو (قبر سے) اٹھائے مجھے تیرے عذاب سے بچالے، بزار، ابن ابی شیبہ (عن حفصہؓ)

تین بار کہے، ابوداؤد، نسائی (عن حفصہؓ) ترمذی (عن بزارؓ)

تیرے نام پر اے میرے پالنے والے (میں نے اپنا پہلو رکھا) پس تو میرے گناہ بخش دے، احمد (عن ابن عمرؓ)

تیرے نام پر میں نے اپنا پہلو رکھا، پس تو مجھے بخش دے، ابن ابی شیبہ (عن ابن عمرؓ)

الٰہی! میں تیرے ہی نام پر مرتا اور جیتا ہوں، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن حذیفہؓ)

"سبحان اللہ" تینتیس بار، "الحمد للہ" تینتیس بار، "اللہ اکبر" چونتیس بار کہے، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان (عن علیؓ)

شرح: مصنفؒ نے ابوداؤد، طبرانی، صحاح ستہ کی روایتوں میں جو مختلف الفاظ آئے تھے وہ سب بیان کر دئے پوری روایت ذکر نہیں کی کیونکہ صرف طہارت کا بیان کرنا مقصود ہے، ارشاد نبوی ہے جو شخص رات کو اپنا بدن پاک کرتا ہے، تو رات بھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے، جب وہ کروٹ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے "اللھم اغفر لہ" الٰہی اسے بخش دے، دوسری جگہ ہے جو شخص رات کو طہارت پر سوتا ہے، اور اسی رات دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔

رھانؒ: یعنی گرو سے نفس انسانی مراد ہے جو اعمال کے عوض گرو ہے، جیسا ارشاد باری ہے۔ "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ" (یعنی میرے نفس کو اپنے اور بندوں کے حقوق اور گناہوں سے رہائی دے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

ایک مرتبہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالِ غنیمت کے کچھ لونڈی غلام آئے، آپ مسجد نبوی میں انھیں تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بھی اس کا علم ہوا، اس وقت پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور پانی بھرتے بھرتے سینہ پر نشان پڑ گیا تھا، آپ نے حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حالات بیان کئے اور ایک خادم کی خواہش ظاہر کی، رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں (اور وہ یہ ہے کہ) تم سوتے وقت "سبحان اللہ" تینتیس بار "الحمد للہ" تینتیس بار "اللہ اکبر" چونتیس بار پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَيَجْمَعُ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَنْفُثُ فِيهِمَا فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ خ عَهٗ وَيَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خ س مُص اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَّا كَافِيَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِيَ مُدَتِ س

ترجمہ: (سوتے وقت) دونوں ہاتھ ملائے اور "قل ھو اللہ احد" اور "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس" پڑھ کر اُن میں دم کرے، پھر جہاں تک ہو سکے انھیں جسم پر پھیرلے اور سر، منہ اور بدن کے سامنے کے حصہ سے شروع کرے، اس طرح تین مرتبہ کرے، بخاری سنن اربعہ (عن عائشہؓ)

اور آیۃ الکرسی پڑھے، بخاری، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن علیؓ)

خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، ہمارے کاموں کو سنوارا، برائی اور نقصان سے بچایا، اور رہنے اور بسنے کی جگہ دی کتنے ہی ایسے ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے نہ کوئی ٹھکانا، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن انسؓ)

شرح: حدیث شریف میں آتا ہے، جس نے سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھی تو اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا، اور جو بستر پر لیٹ کر اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمسایہ اور اردگرد کے کئی گھروں کی حفاظت فرماتا ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَفَانِیْ وَاٰوَانِیْ وَاَطْعَمَنِیْ وَسَقَانِیْ وَالَّذِیْ مَنَّ عَلَیَّ وَاَفْضَلَ وَالَّذِیْ اَعْطَانِیْ فَاَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَیْءٍ وَّمَلِیْكَهٗ وَاِلٰهَ كُلِّ شَیْءٍ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ رَبِّ سَخِّبْ مُسْتَعَاذٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ یَشْهَدُوْنَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَشَرْكِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰی نَفْسِیْ سُوْٓءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰی مُسْلِمٍ اَطْ

ترجمہ: خدا کا شکر ہے جس نے میرے رنج وغم کو دور کیا، مشکلات کو آسان کیا، مجھے ٹھکانا دیا، مجھے کھلایا پلایا، مجھ پر احسان کیا، اور خوب کیا، مجھے دیا اور خوب دیا، ہر حال میں خدا کا شکر ہے، اے اللہ ہر چیز کے پالنے والے اور مالک اور ہر شے کے معبود میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان، ابویعلیٰ، (عن ابن عمرؓ) حاکم (عن انسؓ)

اے اللہ آسمان وزمین کے پالنے والے، حاضر وغائب کے جاننے والے، تو ہی ہر چیز کا رب ہے، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی اپنی ذات وصفات میں یکتا و یگانہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔

میں شیطان اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اپنے نفس پر کوئی بُرائی کروں یا اسے کسی مسلمان کے دَر تک لگاؤں، احمد، طبرانی (عن ابن عمروؓ)

شرح: بعض روایتوں میں اس دعا کے اندر "نعوذ باللہ من حال اھل النار" یعنی اہلِ دوزخ کی حالت سے پناہ مانگتا ہوں اور زیادہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ دَتِ سَ حِبْ مُسْ مُصْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَاَنْتَ تَوَفّٰهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَاِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ مُرْ سَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاْثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ دَسَ مُصْ

ترجمہ: اے اللہ! آسمان وزمین کے موجد، حاضر وغائب سے واقف، ہر چیز کے مالک ومختار، میں اپنے نفس کی برائی اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ عن ابی بکرؓ)

اے اللہ! تو نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے، تو ہی اسے موت دے گا، تیرے ہی ہاتھ میں اس کی موت وزیست ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کر، اور اگر موت دے تو تو اسے بخشدے اے اللہ! میں تجھ سے سلامتی چاہتا ہوں (مسلم، نسائی عن عمرؓ)

اے اللہ! میں ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضۂ قدرت میں ہے، تیری کریم ذات اور کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ! تو ہی قرض، تاوان اور گناہ دور کرتا ہے، اے اللہ! تیرا لشکر کبھی شکست نہیں کھاتا، تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، اور تیرے قہر سے دولتمند کو اس کی دولتمندی کچھ فائدہ نہیں دیتی، تیری ہی ذات پاک اور قابل حمد ہے، (ابوداؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ عن علیؓ)

شرح: حدیث شریف میں "شِرْكِهٖ" اور "شَرَكِهٖ" دونوں مروی ہے، "شِرْكِهٖ" کے معنی ہیں اس کے شرک کرنے سے اور "شَرَكِهٖ" اس کے جال (فریبی وسوسوں سے)

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ
ثَلٰثَ مَرَّاتٍ تِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حِبْ
مُوْسٰى وَیَقُوْلُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ
الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ
وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِیْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
كُلِّ شَیْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِیَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَكَ
شَیْءٌ وَّاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شَیْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَكَ
شَیْءٌ وَّاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُوْنَكَ شَیْءٌ اِقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ وَاَغْنِنَا
مِنَ الْفَقْرِ مُ عَهٗ مُصْ حِ بِسْمِ اللّٰهِ سَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِیْ
اِلَیْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِیَ اِلَیْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِیْ اِلَیْكَ وَاَلْجَاْتُ
ظَهْرِیْ اِلَیْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَیْكَ لَا مَلْجَاَ وَلَا مَنْجَاَ مِنْكَ اِلَّا اِلَیْكَ
اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَنَبِیِّكَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ وَلْیَجْعَلْهُنَّ
اٰخِرَ مَا یَتَكَلَّمُ بِهٖ عَ وَلْیَقْرَاْ قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْكٰفِرُوْنَ
طَ ثُمَّ لْیَنَمْ عَلٰى خَاتِمَتِهَا دَتِ سَ حِبْ مُسْ
مُصْ

ترجمہ : میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سنبھالنے والا ہے، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، تین بار کہے (ترمذی عن ابی سعید الخدری)

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی قابلِ تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت و قوت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، خدا کی ذات پاک اور قابلِ حمد ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا سب سے بڑا ہے (ابن حبان عن ابی ہریرہؓ) نسائی موقوفاً اور لیٹتے وقت (یہ) کہے، اے اللہ! آسمانوں کے پروردگار، زمین کے پروردگار، عرشِ عظیم کے پروردگار اے ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، دانہ کے پھاڑنے والے، گلی کے چٹکانے والے، توریت، انجیل اور قرآن کے اتارنے والے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو تیرے قبضہ میں ہے۔

اے اللہ! تو ہی سب سے پہلے ہے جس کے پہلے کچھ نہ تھا، اور تو ہی سب کے بعد رہ جائے گا جس کے بعد کچھ نہ ہوگا، اور تو ہی سب سے ظاہر ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی سب سے پوشیدہ ہے جس کے نیچے کچھ نہیں، تو ہمارا قرض ادا کر دے اور ہمیں احتیاج سے غنی بنا دے (مسلم، سنن اربعہ، ابن ابی شیبہ عن ابی ہریرہؓ) ابو یعلی (عن عائشہؓ)

خداوندا میں نے اپنی جان تجھے سونپ دی اور اپنا رُخ تیری طرف کر دیا، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور اپنی پیٹھ تیری طرف رکھ دی، تیری رغبت اور خوف سے تجھ سے سوائے تیرے کوئی ٹھکانا اور پناہ نہیں، تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری، اور اس نبیؐ پر جس کو بھیجا اور چاہئے کہ ان کلمات پر اپنی بات ختم کرے صحاح ستہ (عن ابراء بن عازبؓ)

اور چاہئے کہ (سوتے وقت) "قل یا ایھا الکافرون" پڑھے، طبرانی (عن جبلۃ بن حارثہ) پھر اسے ختم کر کے سو جائے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم، مصنف ابن ابی شیبہ (عن فروۃ بن نوفل الاشجعی)

شرح : ارشاد نبویؐ ہے، جو شخص بستر پر لیٹتے وقت تین بار استغفار کرے تو اس کے گناہ (خواہ) دریا کے جھاگ، درختوں کے پتے، عالج کی ریت یا زمانہ کے دنوں کے برابر ہوں بخش دیئے جاتے ہیں۔

"عالج" زمینِ مغرب میں ایک جنگل کا نام ہے جس میں ریت بہت ہے۔

لغت میں توبہ کے معنی پھرنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں پچی نیت سے پشیمان ہوتے ہوئے گناہ سے پھرنے کو توبہ کہتے ہیں۔

کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ کر کے اس طرح بھول جانا کہ دل سے اس کی لذت ایسی نکل جائے، جیسے جانتا ہی نہیں۔

حدیث شریف میں ہے، جس نے بستر پر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھی تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تو بخش دیئے جاتے ہیں۔

قرض سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا احتمال ہے، احتیاج سے غنی ہونے کے معنی ہیں کہ لوگوں کی طرف کوئی حاجت نہ رہے یا دل سے حاجت ہی نکل جائے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو وضو کر کے بستر پر داہنی کروٹ لیٹ کر "اسلمت الخ" کہے، اور اسی رات مرجائے تو تیری موت فطرۃ پر واقع ہوگی اور اگر صبح اٹھیگا تو بھلائی پائے گا۔ مشکوٰۃ

"ولیجعلن آخر ما یتکلم بہ" یعنی یہ دعا آخری کلام ہونا چاہئے، اس کے بعد پھر کوئی دنیوی بات چیت نہ ہو، لیکن قرآن مجید اور دعا وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ آدمی اس کے پڑھنے سے شرک سے پاک رہتا ہے۔ مشکوٰۃ

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَّرْقُدَ وَيَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ اٰيَةٍ دَتِ سَ وَهُنَّ الْحَدِيْدُ وَالْحَشْرُ وَالصَّفُّ وَالْجُمُعَةُ وَالتَّغَابُنُ وَالْاَعْلٰى مُوْ سَ وَحَتّٰى يَقْرَأَ الٓمّٓ السَّجْدَةَ وَتَبٰرَكَ الْمُلْكُ سَ تِ مُصْ مُسْ وَحَتّٰى يَقْرَأَ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ وَالزُّمَرَ تِ سَ مُسْ مَا كُنْتُ اُرٰى اَحَدًا يَّعْقِلُ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَّقْرَأَ الْاٰيَاتِ الثَّلٰثَ الْاَوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مُوْ صَحِيْحٌ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سونے سے پہلے مسبحات پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن العرباض بن ساریہؓ)

اور وہ (مسبحات) سورۂ حدید، سورۂ حشر، سورۂ صف، سورۂ جمعہ، سورۂ تغابن اور سورۂ اعلیٰ ہیں۔ نسائی موقوفاً (عن معاویہ بن صالحؓ)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سورۂ "الٓمّٓ السجدۃ" اور سورۂ "ملک" نہ پڑھ لیتے۔ نسائی، ترمذی، ابن ابی شیبہ، حاکم۔

اور نیز جب تک سورہ "بنی اسرائیل" اور سورہ "زمر" نہ پڑھ لیتے، ترمذی، نسائی، حاکم۔ (عن عائشہؓ)

(حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقلمند سورۂ "بقرہ" کی آخری تین آیتیں پڑھنے سے پہلے سوجائے۔

شرح: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سورۂ بقرہ کی دو آخری آیتیں "آمن الرسول الخ" مجھے عرش کے خزانہ سے ملی ہیں، تم سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، کیونکہ ان میں بخشش کی طلب، اللہ کا تقرب اور دعا ہے، اور آپ سے پیشتر کسی نبی کو یہ آیتیں نہیں دی گئیں، جو شخص ان میں سے دعا کی آیتیں پڑھتا ہے وہ مقبول ہوتی ہیں۔ مشکوٰۃ۔

مصنفؒ نے یہاں بھی اپنے وعدہ کے خلاف کیا ہے، کیونکہ کتاب کے دیباچہ میں یہ کہا ہے کہ جس موقوف حدیث کو بیان کروں گا اس کے ماخذ سے پہلے لفظ "موقوفا" لکھوں گا، پھر جس صحابی پر موقوف ہوگی اس کا ذکر کروں گا یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا بلکہ صحیح کہہ کر گذر گئے۔

علامہ نوویؒ کتاب الاذکار میں رقمطراز ہیں کہ امام حافظ ابوبکر نے ابوداؤد سے یہ روایت حضرت علیؓ کی سند سے نقل کی ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

إِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وَقَرَأْتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْمَوْتَ رَمَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلَّا بَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتّٰى يَهُبَّ مِنْ نَوْمِهِ مَتٰى هَبَّ إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَّشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ اخْتِمْ بِخَيْرٍ وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ اخْتِمْ بِشَرٍّ فَإِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ ثُمَّ نَامَ بَاتَ الْمَلَكُ يَكْلَؤُهُ الْحَدِيثُ يَأْتِي

تَمَّتْهُ سَ حِبْ مُسْ صِ

ترجمہ: جب تُو نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، اور سُورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امن میں ہوگیا۔ بزار (عن انس رضؓ)

جو آدمی اپنے بستر پر آرام کرتے وقت کتاب اللہ کی کوئی سُورۃ پڑھتا ہے تو اللہ تعالےٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی وقت ہی نیند سے بیدار ہو۔ احمد (عن شداد بن اوس رضؓ)

جب آدمی سونے کے لئے اپنے بستر پر آتا ہے، تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے (اپنا عمل) بھلائی پر ختم کر، شیطان کہتا ہے بُرائی پر ختم کر، پھر اگر وہ اللہ کا ذکر کرکے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، بقیہ حدیث آئندہ آئے گی، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابویعلی (عن جابرؓ)

شرح: علامہ ملا علی قاری نے اس کی شرح جزء ثانی میں اس حدیث کا بقیہ حصہ "وإذا انتبه من النوم فقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي الحديث" بیان کیا ہے۔

اور صاحب فتح المبین بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے کتاب علمت میں اس حدیث کا بقیہ حصہ "فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة" اگر چارپائی سے گر کر مرگیا تو جنت میں داخل ہوگا ذکر کیا ہے۔

لیکن صحیح قول اوّل ہی ہے، کیونکہ "باقی تتمہ" سے معلوم ہوتا ہے، کہ بقیہ حدیث اسی کتاب میں ہے۔

اگر اللہ کا ذکر کرکے سوتا ہے، تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ شیطان شب باشی کرتا ہے، اور اس کی بیداری پر ہنسنے اور وسوسہ ڈالنے کا منتظر رہتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے، جو شخص رات کو سورۂ "دخان" پڑھتا ہے، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے، کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو سورۂ "آل عمران" کا آخر "ان فی خلق السموات" الخ پڑھتا ہے تو اس کے واسطے رات بھر جاگنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، مشکوٰۃ۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا رَاٰی فِیْ مَنَامِہٖ مَا یُحِبُّ فَلْیَحْمَدِ اللّٰہَ عَلَیْھَا وَلْیُحَدِّثْ بِھَا خ م س وَلَا یُحَدِّثْ بِھَا اِلَّا مَنْ یُّحِبُّ خ م وَاِذَا رَاٰی مَا یَکْرَہُ فَلْیَتْفُلْ خ م اَوْلِیَبْصُقْ م اَوْلِیَنْفُثْ ع ثَلَاثًا ثَلَاثًا عَنْ یَّسَارِہٖ ع وَلْیَتَعَوَّذْ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ وَمِنْ شَرِّھَا ع ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَّلَا یُحَدِّثْ بِھَا اَحَدًا خ م د س ق فَاِنَّھَا لَا تَضُرُّہٗ ع وَلْیَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِہِ الَّذِیْ کَانَ عَلَیْہِ م اَوْلِیَقُمْ فَلْیُصَلِّ خ

خواب دیکھنے کا بیان اور اس کی دعائیں

ترجمہ: جب کوئی اپنے خواب میں پسندیدہ چیز دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو بیان کرے، بخاری، مسلم، نسائی (عن ابی سعیدؓ)

اور دوست کے علاوہ کسی سے نہ بیان کرے، بخاری، مسلم (عن ابی قتادہؓ)

اور جب کوئی (خواب میں) ناپسندیدہ بات دیکھے، تو بائیں جانب تین بار تھنکار دے، بخاری، مسلم (عن ابی قتادہؓ)

یا تھوک دے، مسلم (عن ابی قتادہؓ)

یا پھونک دے، صحاح ستہ (عن ابی قتادہؓ)

تین تین بار اپنی بائیں جانب (ایسا کرے) صحاح ستہ (عن ابی قتادہؓ)

اور شیطان اور خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، صحاح ستہ (عن ابی قتادہؓ)

تین تین بار۔ اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی سعیدؓ)

پھر وہ خواب اس کو ہرگز ضرر نہ پہنچائے گا، صحاح ستہ (عن ابی سعید و ابی قتادہؓ)

اور جس کروٹ پر ہے، اس کو بدل دے، مسلم (عن جابرؓ)

یا اٹھ کر نماز پڑھے، بخاری (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: اس لئے کہ جب دوست اسے سنے گا تو اچھی تعبیر دے گا، اور دشمن (یعنی تعبیر دے گا جس سے رنج و غم

toobaa-elibrary.blogspot.com

پہنچے، اصل کثر وہی ہوتا ہے جو معبر اول کہتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے پرند کے پاؤں پر ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو تعبیر کے موافق واقع ہو جاتا ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت نے رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ! میں نے خواب میں اپنے گھر کی چوکھٹ ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے، آپ نے فرمایا "تیرا کوئی غائب شخص آئے گا" چنانچہ اس کا خاوند سفر سے واپس آیا، کچھ دن بعد پھر وہ سفر پر چلا گیا، اور اس عورت نے وہی خواب دیکھا، تو پھر رسول اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ استشراف نہ رکھتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس نے اپنا خواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا، آپ نے تعبیر دی "تیرا شوہر مر جائے گا" اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا "اپنے خواب کا کسی سے ذکر تو نہیں کیا ہے؟" اس نے جواب دیا "جی ہاں، میں نے بیان کیا ہے" آپ نے فرمایا "پھر وہی ہوگا جو تعبیر دی گئی ہے"

اگر خوف زدہ اور پریشان کن خواب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اور اگر اچھا اور خوش کن خواب دیکھے تو دوست یا عقلمند دانا حاکم سے کہہ دے، چنانچہ رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنا خواب صحابہ رضی اللہ عنہم کو سناتے، اور تعبیر بیان کرتے اور اس کی تعبیر دیتے۔

یعنی انسان جب خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو تین بار بائیں جانب تھتکار دے اور تین بار شیطان اور اس کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔

روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، تفکارنا، تھوکنا، تھونکنا۔ اور یہ تینوں تھوک کی درجہ بدرجہ قسمیں ہیں "بُصَاقٌ" اس طرح تھوکنے کو کہتے ہیں جس میں تھوک بہت ہو اور "نَفْلٌ" جس میں تھوڑا تھوک ہو اور "نُخَامَةٌ" جس میں نقطہ تھوک کی چھینٹیں نکلیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَإِذَا فَزِعَ أَوْ وَجَدَ وَحْشَةً أَوْ أَرَقَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ
التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَنْ يَحْضُرُونِ أَوْ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا مَنْ عَقَلَ مِنْ
وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ دَتْ
سَ مُسْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ
وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ
شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَفِتَنِ
النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ
بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ ط وَفِي الْأَرَقِ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا
أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا
أَضْلَلْنَ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ
مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْغَى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ طس مُصٓ اللّٰهُمَّ
غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اهْدِ لَيْلِي وَأَنِمْ عَيْنِي

ڈر، خوف اور نیند اُچٹ جانے کی دُعائیں

ترجمہ: جس وقت ڈرے یا گھبرائے یا نیند اُچٹ جائے تو کہے میں اللہ کے کلماتِ تامہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب اور اس کے عذاب اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیاطین کے وسوسوں اور ان کے پاس آنے سے۔ (احمد، حسن، ولید بن الولید)

toobaa-elibrary.blogspot.com

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ اپنے سمجھدار بچوں کو تو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور نا سمجھ بچوں کے لئے اس کو کاغذ پر لکھ کر ان کی گردن میں ڈال دیتے تھے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم (عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ)

میں اللہ کے کلمات تامہ کی جن سے نہ نیک بچ سکتا ہے نہ بد، پناہ مانگتا ہوں، اس چیز کی برائی سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور جو آسمان پر چڑھتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو زمین کے اندر پیدا ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کی برائی سے، اور رات اور دن کے حوادث کی برائی سے مگر جو واقعہ اچھا پیش آئے، اے رحمٰن! (طبرانی (عن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ)

نیند اچٹنے میں کہے اے اللہ! ساتوں آسمان اور ہر اس چیز کے رب جن پر وہ سایہ افگن ہیں، اور ساتوں زمینوں اور ہر اس چیز کے رب جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور شیاطین اور ہر اس شخص کے رب جن کو انھوں نے بہکایا اور بھٹکایا ہے، تو تیری مخلوقات سے میری حفاظت فرما، مبادا کوئی ان میں سے مجھ پر ظلم و تعدی کرے، تیرا ہی پناہ دیا ہوا غالب اور محفوظ رہتا ہے، تیرا نام بڑا بابرکت اور عظمت والا ہے، طبرانی فی الاوسط، ابن ابی شیبہ (عن خالد بن الولید رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! ستارے چھپ گئے، آنکھوں نے نیند بھر لی، تو ہی زندہ اور سنبھالنے والا ہے، تجھے ڈانگا آتی ہے نہ نیند، اے زندہ اور سنبھالنے والے میری رات میں چین دے اور میری آنکھوں میں نیند ابن سنی (عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ)

شرح: "کَلِمَاتِ اللّٰہِ تَامَّۃ" اللہ کا علم، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کا وعدہ سچا اور اس کی وعید پوری ہونے والی ہے۔

"ھَمَزَاتٌ" وسوسے

"طَوَارِقٌ" رات کے حادثات و واقعات۔

"فِتْنَۃ" متغیر ہونا، گمراہی، گناہ، کفر، رسوائی، عذاب، دیوانگی، محنت، آزمائش، مختلف معنی میں آتا ہے یہاں سب ہو سکتے۔

حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے اپنی نیند اچٹ جانے کی شکایت کی آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو: "اللھم غارت النجوم الخ" اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری تکلیف دور کر دی۔

وَإِذَا انْتَبَهَ مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي وَلَمْ
يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ
حَلِيمًا غَفُورًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ سَ حٰمٓ مُسٓ صٓ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُسٓ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ خٓ دٓ
تٓ سٓ مُصٓ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ
إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا
وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ دٓ تٓ سٓ حٰمٓ مُسٓ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ سٓ حٰمٓ مُسٓ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلٰهَ
إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ يَدْعُو
اُسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

خَ عَهُ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ بِسْمِ اللّٰهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَشْرًا اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوْتِ عَشْرًا وَّقِيَ كُلَّ شَيْءٍ يَخَافُهُ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ اَنْ يُّدْرِكَهُ اِلٰى مِثْلِهَا طس وَاِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ عَنْ فِرَاشِهٖ ثُمَّ عَادَ اِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ اِزَارِهٖ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِيْ مَا خَلَفَهٗ عَلَيْهِ فَاِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ رَدَدْتَّهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ت ی

بیداری کی دُعائیں

ترجمہ: جب سو کر اُٹھے تو کہے اس خدا کا شکر ہے جس نے میری جان لوٹا دی اور مجھے سوتے میں موت نہ دی، اس خدا کا شکر ہے جس نے آسمان و زمین پکڑنے اور اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روک رکھا ہے اگر وہ خراب ہو جائیں تو اس کے سوا کون سنبھال سکتا؟ بیشک وہ بہت بُردبار اور بڑا ہی درگذر کرنے والا ہے، اس خدا کا شکر ہے جو آسمان کو اپنی بلا اجازت زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ آدمیوں پر بڑی شفقت رکھتا اور رحم کرتا ہے، (نسائی، ابن حبان، حاکم، ابویعلی (عن جابرؓ)

اُس خدا کا شکر ہے جو مُردوں کو جِلاتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، حاکم (عن جابرؓ)

اُس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد جِلایا اور اُسی کی طرف اُٹھ کر جانا ہے، بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن حذیفہؓ)

تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی ذات پاک ہے، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں، اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم نصیب کر، اور مجھے راہ راست پر لانے کے پیچھے میرے دل کو ڈانواں ڈول نہ کر اور اپنی سرکار سے مجھے رحمت کا رخلعت) عطا فرما کچھ شک نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے علم میں

ترقی دے اور میری ہدایت کے بعد میرا دل کج (یعنی گمراہ) نہ کر، اور اپنے پاس سے رحمت عطا کر بیشک تو بہت دینے والا ہے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم، (عن عائشہؓ)

ایک اللہ کے سوا کہ وہ سب پر غالب ہے اور کوئی معبود نہیں (وہی) آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور ان چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہیں (اور وہ) زبردست (اور) بڑا بخشنے والا ہے، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن عائشہؓ)

جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے رات کو جاگے اور کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، وہی قابل تعریف ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، اللہ ہی کی ذات پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے یا (اور) دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، اور اگر وضو کیا اور دو رکعت نماز ادا کی تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، بخاری، سنن اربعہ، (عن عبادۃ بن الصامتؓ)

جو رات کو کروٹ لیتے وقت دس بار "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" اور دس بار "سبحان اللہ" کہے اور دس بار "استغفر اللہ" میں اللہ پر ایمان لایا اور "کذبت بالطاغوت" میں نے معبودانِ باطل کی عبادت کا انکار کیا، کہے تو وہ ہر اس چیز سے جس سے وہ ڈرتا ہے محفوظ رہیگا اور جس وقت تک وہ اسے پڑھتا رہے گا کوئی گناہ اسے نہ پا سکے گا اور نہ ہلاک کر سکے گا۔ طبرانی فی الاوسط (عن ابن عمرؓ)

جب رات کو اپنے بستر سے اٹھے اور پھر دوبارہ بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے تین بار اسے جھاڑ دے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے سے اس پر کیا چیز آئی ہے، اور جب لیٹے تو کہے تیرے نام پر اے اللہ میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیری ہی مدد سے اس کو اٹھاؤں گا، اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم کر، اور اگر چھوڑ دے تو اس کی ایسی حفاظت فرما جیسی تو اپنے نیک بندوں (میں سے کسی) کی کرتا ہے، ترمذی، ابن سنی (عن ابی ہریرہؓ)

کروٹ لیتے وقت کی دعا — رات کو بستر سے اٹھکر دوبارہ بستر پر لیٹنے کا طریقہ اور اسکی دعا

شرح: "تعارّ" استغفار یا تسبیح کہتے ہوئے جاگنے کو کہتے ہیں۔

"اَوْ دَعَا اُجِیْبَ" یعنی راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "الھم اغفرلی" فرمایا، یا "یدعو" فرمایا۔

"وَاِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ" یعنی کوئی گناہ اس کے برکت کرنے سے پڑھنے کے وقت تک نہ اسے پکے گا اور نہ ہلاک کر سکیگا یعنی نہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوگا اور نہ وہ اس کی وجہ سے برباد ہوگا۔

وَاِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ فَاِنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ مُصْ
ىَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ ع مُصْ وَاِذَا
خَرَجَ غُفْرَانَكَ حِبْ عَهُ مُصْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي
الْاَذٰى وَعَافَانِيْ سَيْ مَوْ مُصْ

پاخانہ میں آمدورفت کی دُعائیں

ترجمہ: اور جب تہجد کے لئے اُٹھے اور اگر پاخانہ جائے تو "بسم اللہ" کہے، ابن ابی شیبہ، ابن سنی (عن علیؓ)

خداوندا میں ناپاک جنوں (مذکر و اناث نر و مادہ) سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اے اللہ! میں تجھ سے گندگی اور گندی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں
} صحاح ستہ، ابن ابی شیبہ (عن انسؓ)

جب پاخانہ سے نکلے تو کہے "غُفْرَانَكَ" خداوندا! ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ابن حبان، سنن اربعہ، ابن ابی شیبہ (عن عائشہؓ)

خدا کا شکر ہے جس نے میری تکلیف دُور کی اور مجھے عافیت دی، نسائی، ابن سنی (عن ابی ذرؓ) ابن ابی شیبہ، موقوفاً (عن ابی ذرؓ)

شرح: یعنی جب رات کو تہجد ادا کرنے کے لئے اُٹھے اور پاخانہ کا ارادہ کرے تو "بسم اللہ" کہہ کر پاخانہ میں داخل ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اُمت کی پردہ پوشی اور جنات کے درمیان میں "بسم اللہ" کہنے سے پردہ ہو جاتا ہے۔

"اَلْخُبُثُ" جمع خَبِيْثٌ = جس کے معنی ایذا دینے والے جن اور شیطان کے ہیں۔

"اَلْخَبَآئِثُ" جمع خَبِيْثَةٌ = ایذا دینے والے جن اور شیطان کی مادہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

"اَلْخُبْثُ" جمع خَبِيْثٌ = گندگی، کفر، شرک، فجور

"اَلْخَبَائِثُ" جمع خَبِيْثَةٌ = گندی چیزوں، بُرے افعال، بُری خصلتیں، بُرے عقیدے۔

چونکہ حدیث دونوں طرح مروی ہے، اس لئے ہم نے بھی دونوں ترجمے کر دیئے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لئے پاخانہ میں جاتے

تھے تو فرمایا کرتے اللھم انی اعوذ بک الخ اس دعا کے پڑھنے سے پاخانے کے جنوں اور شیاطین کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم پاخانہ سے باہر آتے وقت فرماتے تھے "غفرانک" میری مغفرت چاہتا ہوں۔

پیشاب پاخانہ کے آداب

پاخانے جاتے وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے:۔

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" (خداوندا! میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے پناہ مانگتا ہوں اس دعا کے پڑھنے سے آدمی پاخانے کے جنوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔

پاخانے سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی مناسب ہے:۔

"اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْھَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ" (خدا کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور صحت عنایت فرمائی)

بعض روایتوں میں صرف "غُفْرَانَکَ" "تیری مغفرت چاہتا ہوں" آیا ہے۔

جنگل میں پیشاب پاخانے کے لئے قبلہ رُخ نہ بیٹھے لیکن گھر میں کسی چیز کی آڑ میں ہو تو مضائقہ نہیں، اور مقصود اس سے خانہ کعبہ کا ادب ہے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا، پیشاب کرتے وقت داہنے ہاتھ سے ستر پکڑنا منع ہے، کیونکہ استنجا ذلیل ترین کام ہے جو ہاتھ سے لیا جاتا ہے، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر فضیلت رکھتا ہے، اس لئے ایسے کام بائیں ہاتھ کے لئے موضوع ہیں، استنجے کے لئے کم سے کم تین ڈھیلے لینے چاہئیں، اس سے کم لینے منع ہیں اور زیادہ کی قید نہیں، کیونکہ مقصود اصلی ازالۂ نجاست ہے اور وہ جتنے ڈھیلوں سے بھی حاصل ہو سکے درست ہے، گوبر، کوئلے، ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے۔

ملک عرب میں چونکہ ہمیشہ پانی کی قلت رہتی تھی، اس لئے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا حکم عام تھا کہ لوگ ڈھیلوں اور پتھروں سے استنجا کیا کریں، مگر پھر بھی پانی سے استنجا کرنے والے زیادہ طاہر اور پاک سمجھے جاتے تھے، چنانچہ قرآن مجید میں ان کی اس طرح تعریف کی گئی ہے، ارشاد ہے:۔

لَا تَقُمْ فِیْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ یَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِیْهِ ؕ فِیْهِ رِجَالٌ یُّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِیْنَ ۝

سورہ توبہ۔ رکوع ۱۳۔

(رسولِ معظم) تم اس (مسجد) میں کبھی (جا کر) کھڑے بھی نہ ہونا، وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی اس کا البتہ حق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر امامت کرو کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب صاف ستھرے رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

اب ہندوستان و پاکستان میں پانی کی ہر طرف کثرت ہے، جا بجا چشمے اور ندیاں بڑی بہہ رہی ہیں، اگر گھر نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس وقت اگر کوئی شخص ڈھیلوں سے استنجا نہ بھی کرے اور صرف پانی پر اکتفا کرے

تو یہ اس کے لئے کافی دوافی ہے۔ اور نہ صرف کافی دوافی ہے بلکہ آزکی و اطہر ہے۔

ایک بات لوگوں میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلے سے پیشاب خشک کرتے اور گھر کے صحن میں عورتوں اور بچوں کے سامنے استنجا کرتے ہوئے ٹہلتے اور کھلے بازاروں میں پگڑ لگاتے پھرتے ہیں، یہ نہایت بے شرمی اور بے حیائی ہے، اس سے ضرور پرہیز کرنا چاہئے، عام راہوں میں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، اور ان درختوں کے تلے جہاں لوگ آرام لیتے ہیں پیشاب یا تخانہ کرنا حرام اور لعنت پڑنے کا سبب ہے، کیونکہ جب لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ایسے شخص کو بُرائی لعنت سے یاد کریں گے، اسی طرح حمام میں اور پانی کے گھاٹ پر بھی پیشاب پاخانہ منع ہے کیونکہ چھینٹیں اُڑیں گی تو بدن یا کپڑے ناپاک ہوں گے، پل اور سوراخ میں بھی پیشاب نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور وغیرہ ہو اور اس سے تکلیف پہنچے یا وہاں کوئی ضعیف و کمزور جانور وغیرہ ہو اور اس کو ایذا پہنچے، پیشاب اور استنجا کرتے وقت سلام کا جواب دینا، یا خود سلام کرنا منع ہے، کیونکہ سلام دعا ہے، اور پیشاب اور پاخانے کی حالت ذکر کے ادب کے منافی ہے۔

انگوٹھی پر نام خدا یا کوئی متبرک کلمہ کندہ ہو تو اسے پہن کر پاخانے میں جانا منع ہے، کہ خدا کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے، کہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں اُڑنے کا خوف ہو یا کوئی اور عذرِ شدید ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر لینا جائز ہے، جناب پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کی پشتِ مبارک میں درد تھا اور اس وجہ سے آپ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، بہرکیف اگر عذرِ شدید ہو تو کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کا مضائقہ نہیں لیکن جو لوگ صرف غیر مسلموں کی تقلید کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں نجاست سے احتراز عادۃً بہت مشکل ہے، مگر اس ضرورت کو سمجھے وہ جس کو نماز پڑھنی ہو، اور بے نمازیوں اس احتیاط پر عمل کرنے لگا؟ اور باتوں میں ظاہری صفائی کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کئے جاتے ہیں، اور پیشاب جیسی گندی چیز کے بارے میں اس قدر تساہل ہے۔

طہارت میں اُسی قدر پانی خرچ کریں جس سے طہارت حاصل ہو جائے زیادہ صرف کریں گے تو اسراف میں داخل ہوگا۔ دو مرد اور اسی طرح دو عورتیں ایک جگہ پیشاب پاخانے کے لئے نہ بیٹھیں، نہ کوئی کسی کا ستر دیکھے نہ باہم باتیں کریں، کیونکہ یہ نہایت بے حیائی کی باتیں ہیں اور خدا کو ناپسند آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "اَلْحَیَاءُ شُعْبَۃٌ مِّنَ الْاِیْمَانِ" (حیا، ایمان کا جزء ہے)

وَاِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُسَمِّ اللّٰهَ دَتِ قَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ سَيْ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ رَفَعَ نَظَرَهٗ اِلَى السَّمَآءِ دَسَ وَلْيَقُلْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ مُدَسَ قَ مُصْ يَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَ مُصْ يَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ تِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ مُسْ سَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ كُتِبَ لَهٗ فِيْ رَقٍّ ثُمَّ جُعِلَ فِيْ طَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ طَسْ

وضو کی دعائیں

ترجمہ: جب وضو کرے تو "بسم اللہ" کہے، ابوداؤد، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ) ترمذی (عن سعید بن زیدؓ)

اور کہے اے اللہ مجھے بخش دے، اور میرے گھر میں وسعت دے، اور میرے رزق میں برکت عطا کر، نسائی، ابن سنی (عن ابی موسی الاشعریؓ)

اور جب وضو سے فارغ ہو تو اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے، ابوداؤد، نسائی (عن عمرؓ)

اور کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات وصفات میں یکتا ویگانہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اسکے بندے اور اس کے رسول ہیں مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن سنی، (عن عمرؓ)

تین بار یہ دعا پڑھے، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن سنی (عن عمرؓ)

(اور بعض روایات میں اس کلمہ کے ساتھ یہ دُعا بھی آئی ہے)
اے اللہ! تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک وصاف رہنے والوں میں سے بنادے، ترمذی (عن عمرؓ) تُو پاک ہے اے اللہ! اور مستحق حمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں (اس لئے) تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، حاکم، نسائی (عن ابی سعید الخدریؓ)
جو شخص وضو کرتے وقت کہے، تُو پاک ہے، اے اللہ! اور مستحق حمد ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں (تو بعینہٖ یہ الفاظ یا اس کا ثواب) اس کے لئے ایک پرچہ پر لکھ کر مُہر لگا دی جاتی ہے، جو قیامت تک (لگی رہے گی اور) توڑی نہیں جائے گی، طبرانی فی الاوسط (عن ابی سعید الخدریؓ)

شرح: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی لے کر آیا، آپ نے وضو شروع کیا اور میں نے سنا کہ آپ وضو کرتے وقت فرما رہے تھے "اللھم اغفر لی ذنبی" میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ یہ دُعا فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا "کیا میں نے (دنیا و آخرت کی) کوئی چیز چھوڑ دی؟" یعنی میں نے سب کچھ مانگ لیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے، اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہو (مشکوٰۃ)

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَیْدِیَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَیْنِ

مسلمانو! جب نماز کے لئے آمادہ ہو تو اپنے منہ دھویا کرو، اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں (دھویا کرو)

(سورہ مائدۃ۔ رکوع ۲)

حدیث شریف میں آیا ہے:۔
"مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ" (جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو ہے)
مطلب یہ ہے کہ نماز بغیر وضو قبول نہیں ہوتی، فضائل وضو میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں، آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وضو آدھا ایمان ہے اور وضو پر وضو کرنے سے وسوسہ نیکیاں ملتی ہیں، جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک متوضی (وضو کرنے والا) کو قیامت کے روز قیمتی زیور پہنائے جائیں گے۔
جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اُمت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں بلائے جائیں گے کہ ان کے اعضا وضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے۔
وضو کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لئے آمادہ ہو تو اوّل دل میں نیت کرے کہ میں نماز کے لئے وضو کرتا ہوں پھر بسم اللہ کہہ کر تین دفعہ دونوں ہاتھ پہونچوں تک دھوئے، تین دفعہ کلی کرے مسواک سمیت کیونکہ وضو میں مسواک کرنا بھی مسنون ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کرنے سے خدا خوش ہوتا اور منہ پاک صاف رہتا ہے، مسواک کرنے میں ایک طبی مصلحت بھی ہے، وہ یہ کہ منہ اکثر اوقات بند رہتا اور خارجی ہوا کی آمد و رفت وہاں تک بہت کم ہوتی ہے، اس لئے کہ سونے کے اوقات میں منہ کی رطوبت دانتوں اور ڈاڑھوں کی جڑوں میں جمع ہو جاتی ہے جس سے چند ہی روز میں گندہ دہنی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح بسا اوقات کھانے کے کچھ اجزا یا گوشت کے چھوٹے چھوٹے ریشے آدمی کی غفلت سے دانتوں کی جڑوں میں یا ریخوں میں لگے رہ جاتے ہیں تو اگر مسواک کے ذریعے سے انہیں بلند نہ نکالا جائے گا تو سڑ کر دانتوں اور ڈاڑھوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، اور اس سے درد شدید پیدا ہو جانا ایک آسان سی بات ہے، اس لئے آدمی کو چاہئے کہ ہر وضو کے وقت نہیں تو کم سے کم صبح اور عشا کے وقت ضرور مسواک کر لیا کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر سے گھر میں تشریف لاتے مسواک کرتے اور فرماتے کہ جس وقت میرے پاس جبرئیل آتے ہیں مسواک کی تاکید کرتے ہیں حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اُمت پر مسواک کرنا فرض تو نہیں کر دیں گے، یا میں مسواک میں بکثرت مبالغہ کرنے سے پوپلا تو نہیں ہو جاؤں گا، مسواک کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ پیلو ہی کے درخت کی ہو بلکہ جس درخت کی بھی ہو کافی ہے، اور اب تو بالوں کی اور کٹی ہوئی ہڈیوں کی برش نما مسواکیں چل پڑی ہیں یہ بھی مشہور مسواک کے حکم میں داخل ہیں، اسی طرح دانتوں کو صرف انگلی سے صاف کرنا یا منجن ملنا یا طبیب کے بتائے ہوئے مسنوں کا استعمال کرنا بھی مسواک میں داخل ہے کیونکہ جو فائدہ مسواک پر متفرع ہوتا ہے، یعنی ازالۂ بخر وہی ان چیزوں میں بھی متصور ہے، الغرض متوضی (وضو کرنے والا) مسواک اور تین کلیاں کر چکے تو تین دفعہ ناک میں پانی دے، بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑے اور ناک کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کرے، پھر تین دفعہ منہ دھوئے طول میں ماتھے کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور عرض میں دونوں کانوں کی لوؤں تک، داڑھی کو اچھی طرح تر کرنا اور انگلیوں سے خلال کرنا مسنون ہے، زاں بعد دونوں ہاتھ کہنیوں تک تین بار دھوئے، پھر نیا پانی لے کر سر کا مسح کرے جس طرح کرے کہ پانی سے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے اور سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھے اور گدی تک کھینچتا لے جائے، پھر گدی سے کھینچتا ہوا اُسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، لیکن یہ صورت انہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو "محلقین" ہوں یعنی سر پر بال نہ رکھتے ہوں، کیونکہ جن کے سر پر بال ہوں اُنہیں اتنا ہی بس کرتا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھیں اور دونوں ہاتھ گدی تک لے جائیں تاکہ منتشر بال جم جائیں۔

سر کا مسح کر کے کانوں کا مسح کرے زاں بعد داہنا پاؤں ٹخنوں تک تین دفعہ دھوئے اور اسی طرح بایاں پاؤں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا مسنون ہے، تاکہ پانی سب جگہ پہنچ جائے، اعضاء وضو کو تین تین بار دھونا افضل و بہتر ہے، اور اسی کو اسباغ اور اتمام و تکمیل بھی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دو دو بار یا صرف ایک ایک بار بھی دھوئے گا وضو صحیح درست ہو جائے گا، مگر تین تین بار سے زیادہ وضو منع ہے، کیونکہ پانی خدا کی بڑی نعمت ہے اور اُس کو بے ضرورت زیادہ بہانا حقیقت میں ضائع کرنا ہے اور اسی کو اسراف

کہتے ہیں، اعضاء وضو میں سے کوئی عضو ناخن کے برابر بھی خشک رہ جائے گا تو از سر نو وضو کرنا پڑے گا، لیکن اعضائے وضو تر ہوں تو خشک جگہ کو مل کر تر کرنے سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ایک وضو سے کئی وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کے لئے اس زمانہ کی ٹونٹی کے حساب سے سوا سیر یا ڈیڑھ سیر پانی کفایت کرتا ہے، اس سے زائد داخل اسراف ہے، گو پانی کی افراط ہی کیوں نہ ہو، اور وضو کرنے والا بہتی ندی پر کیوں نہ ہو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہئے:۔

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و یگانہ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اسکے رسول ہیں ـــــ خداوندا! مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہمیشہ بالغے کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں داخل کر دے جو پاکی حاصل کرنے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے

وضو میں مسواک کرنے کی بابت ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ شروع میں اس کی بڑی تاکید ہے، آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا مسواک والی نماز بے مسواک والی نماز سے ثواب میں ستر درجہ بڑھ کر ہے۔

نواقض وضو

ریح نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر آواز سنے یا بدبو پہلے، صرف شبہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پاخانہ، پیشاب مذی، ودی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، قے کرنے، نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹ کر سو جانے یا کسی چیز پر سہارا دے کر سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اور استرخاء بے خبری میں ریح وغیرہ کے نکل جانے کا قوی احتمال ہے، ہاں اگر کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے سو جائے اور کسی قسم کی ٹیک نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، نماز میں گھبل کھلا کر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی، مرد عورت اگر اپنا بیا ستر ہاتھ سے چھوئیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ بیچ میں کپڑا حائل ہو یا نہ ہو۔ عورت کو چھونے اور لم بوسہ لینے اور آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا

پنج وقتہ نیا وضو کرنا ہر نماز کے لئے وضو کرنا بڑی پاکی اور بڑے ثواب کا کام ہے، اس لئے اللہ تعالےٰ نے اول اول رسول اللہ صلعم پر پنج وقتہ نماز کے ساتھ پنج وقتہ وضو بھی فرض کر دیا تھا۔ بعد کو اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن بعض صحابہ عملاً اس کے پابند رہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر نماز نئے وضو کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

ہمیشہ باوضو رہنا بعض صحابہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، حضرت عدی بن حاتم کا قول ہے۔ ما اقیمت الصلوٰۃ منذ اسلمت الا وانا علی وضوء (جب سے میں اسلام لایا ہر نماز کے وقت باوضو رہتا تھا)

ایک بار رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضؓ سے پوچھا کہ: بلال تم مجھ سے پہلے کیونکر جنت میں داخل ہو گئے؟ بولے "یا رسول اللہ! میرا معمول یہ ہے کہ جب اذان کہتا ہوں تو دو رکعت نماز لازمی طور پر پڑھ لیتا ہوں اور جس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی وقت نوراً وضو کر لیتا ہوں"

ہر وقت مسواک کرنا رسول اللہ صلعم کمال طہارت ونظافت کی وجہ سے ہر وقت مسواک کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ "اگر امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر وقت نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا بھی حکم دیتا" لیکن صحابۂ کرام کے جوش عمل کے سامنے کون سا کام شاق تھا، حضرت زید بن ارقم رضؓ نے اس شدت کے ساتھ اس کا التزام کیا کہ ہمیشہ قلم کی طرح کان پر مسواک رکھے رہتے تھے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَلتَّهَجُّدُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلٰوةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ
مُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ خ مُ صَلٰوةُ
اللَّيْلِ خ مُ وَالنَّهَارِ اَ مَثْنٰى مَثْنٰى خ مُ اَ وَكَانَ اِذَا قَامَ مِنَ
اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
مَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَآؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ
وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ
لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ
خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ عَ وَ اَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَاغْفِرْ لِيْ
مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ خ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ
اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ع
عَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ خ

تہجد

ترجمہ: فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز آدمی رات کو نماز پڑھنا ہے۔ مسلم (عن ابی ہریرہؓ) نمازِ فرض کے علاوہ آدمی کی بہترین نماز اپنے گھر میں ادا کی ہوئی نماز ہے، بخاری، مسلم (عن زید بن ثابتؓ) رات کی نماز بروایت بخاری و مسلم اور دن کی بروایت احمد دو دو رکعت ہیں بخاری و مسلم (عن ابن عمرؓ) احمد (عن ابن عمرؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لئے اُٹھتے تو فرماتے، اے اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اُن میں ہے، سب کا مدبر اور سنبھالنے والا ہے، اور اے اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اُن میں ہے، سب کا مالک و مختار ہے اور (اے اللہ!) تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جتنی چیزیں اُن میں ہیں سب کا روشن کرنے اور ہدایت دینے والا ہے، اور تیرے ہی لئے تعریف ہو، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تجھ سے ملنا برحق ہے، تیرا فرمان حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور سارے نبی علیہم السلام سچے ہیں محمد صلے اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں اور قیامت برحق ہے، اے اللہ! میں نے تیرے آگے گردن جھکا دی ہے اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوا ہوں، اور تیرے ہی بَل پر جھگڑا کرتا ہوں اور تیری ہی طرف فریاد لاتا ہوں، ابوعوانہ (عن ابن عباسؓ)

تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور تیرے ہی پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، تو تُو مجھے بخش دے جو کچھ میں نے (نبوت سے) پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا، اور جو کچھ پوشیدہ کیا، اور جو کچھ علانیہ کیا، بخاری، (عن ابن عباسؓ)

اور اس کو بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی سب سے آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی سب سے پیچھے ہٹانے والا ہے۔ مسلم (عن ابن عباسؓ)

تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، صحاح ستہ، ابوعوانہ (عن ابن عباسؓ)

اور طاقت و قوت اللہ ہی کی وجہ سے ہے، بخاری (عن ابن عباسؓ)

شرح : یعنی فرضؔ نمازیں مسجد میں پڑھے، اور سُنن و نوافل وغیرہ کا گھر میں پڑھنا افضل و بہتر ہے۔

چونکہ علامہؒ ابن البوری شافعی المذہب ہیں، اس لئے اس جگہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، امام شافعی، امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک رات کو دو رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چار چار رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے، اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک رات کو دو دو رکعت پڑھنا اور دن میں چار چار رکعت پڑھنا افضل و بہتر ہے

مصنفؒ کی یہ عادت ہے کہ جس کتاب کی جتنی حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی علامت لکھ دیتے ہیں، ہم نے بھی ترجمہ میں اسی کا لحاظ رکھا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس کتاب کی روایت کہاں تک ہے، لیکن بعض جگہ ایسا نہیں کرتے، مثلاً اس حدیث میں "انت ربنا و الیك المصیر" ابوعوانہ نے زیادہ کیا ہے اور "انت الٰھی" فقط مسلم نے، اور "وما انت اعلم به منی" بخاریؒ نے زیادہ کیا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجرؒ فتح الباری میں رقمطراز ہیں کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کو پڑھتے تھے۔

تہجد و نماز شب رات جس میں ہم نیند کا لطف اُٹھاتے ہیں، اس میں صحابہ کرامؓ عبادت الٰہی اور تہجد گذاری

میں مصروف رہتے تھے، ایک صحابی نے رات کو نماز میں نہایت بلند آہنگی سے قرأت کی، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا "خدا اس پر رحم کرے مجھے بہت سی آیتیں یاد دلادیں جن کو میں بھول گیا تھا۔

ایک بار آپ مسجد میں "معتکف تھے اور صحابہ کرامؓ بھی مصروف نماز تھے، اور اس قدر بلند آہنگی کے ساتھ قرأت کرتے تھے کہ آپ نے پردہ اٹھا کر فرمایا "تم میں ہر شخص خدا کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، اتنا نہ چلاؤ کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچے"۔ حضرت ابوالدرداءؓ رات کے اکثر حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سلمان فارسیؓ نے ان کی بی بی کی شکایت پر اس سے اُن کو باصرار روکا۔

صحابہ کرامؓ راتوں کو نہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ غیروں بالخصوص اپنے اہل وعیال کو بھی بیدار کر کے شریک نماز کرتے تھے، ایک دفعہ آپ رات کو گھر سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ پست آواز کے ساتھ نماز میں قرأت کر رہے ہیں، آگے بڑھے تو حضرت عمرؓ نہایت بلند آہنگی کے ساتھ نماز میں قرأت کرتے ہوئے نظر آئے دونوں بزرگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ "ابوبکرؓ! نماز میں تمہاری آواز پست تھی"۔ بولے کہ "میں جس سے (خدا سے) سرگوشی کر رہا تھا، اس کے کان میں میری آواز پہنچ گئی"۔ حضرت عمرؓ سے ارشاد ہوا کہ "تمہاری آواز نہایت بلند تھی"۔ بولے کہ "یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگاتا اور شیطان کو دور بھگاتا ہوں"۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمرؓ رات کو نماز پڑھتے تھے تو اخیر شب میں اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کے لئے جگاتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے تھے

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ	اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید کرو اور (خود بھی) اس کے
عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ	پابند رہو ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے (بلکہ) ہم تم
نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى (سورہ طٰہٰ رکوع ۸)	کو روزی دیتے ہیں اور (اس میں شبہ نہیں) کہ بہبودگاری کا ہے

حضرت ابوہریرہؓ اور ان کی بی بی اور خادم نے نماز کے لئے رات کے تین حصے کر رکھے تھے، اور ان میں جب ایک نماز سے فارغ ہو چکتا تھا تو دوسرے کو نماز کے لئے جگا دیتا تھا۔

یہ دوق نماز صرف چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ عموماً تمام صحابہ میں پایا جاتا تھا، حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مغرب سے عشا تک بیدار رہ کر نمازیں پڑھتے تھے، چنانچہ خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا	یہ لوگ (عبادت میں مشغول رہنے کے سبب سے) راتوں کو بہت
يَهْجَعُوْنَ ؕ (سورہ الذاریات رکوع ۱)	ہی کم سوتے تھے

اس میں صحابہ کرام کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں، اوّل اوّل سورۂ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرامؓ تراویح کی طرح راتوں کو نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے قرآن مجید نے صحابہ کرامؓ کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ	ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ خوف و رجا سے خدا
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَمِمَّا	کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے، اس میں سے صرف
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ (سورۃ السجدۃ رکوع ۲)	کرتے ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

میں مصروف رہتے تھے، ایک صحابی نے رات کو نماز میں نہایت بلند آہنگی سے قرأت کی، صبح ہوئی تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا "خدا اس پر رحم کرے مجھے بہت سی آیتیں یاد دلادیں جن کو میں بھول گیا تھا۔

ایک بار آپ مسجد میں معتکف تھے اور صحابہ کرامؓ بھی مصروف نماز تھے، اور اس قدر بلند آہنگی کے ساتھ قرأت کرتے تھے کہ آپ نے پردہ اٹھا کر فرمایا "تم میں ہر شخص خدا کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے۔ اتنا نہ چلاؤ کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچے" حضرت ابوالدرداءؓ رات کے اکثر حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سلمان فارسیؓ نے ان کی بی بی کی شکایت پر اس سے ان کو باصرار روکا۔

صحابہ کرامؓ راتوں کو نہ صرف خود نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ گھروں بالخصوص اپنے اہل وعیال کو بھی بیدار کر کے شریک نماز کرتے تھے، ایک دفعہ آپ رات کو گھر سے نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ پست آواز کے ساتھ نماز میں قرأت کر رہے ہیں، آگے بڑھے تو حضرت عمرؓ نہایت بلند آہنگی کے ساتھ نماز میں قرأت کرتے ہوئے نظر آئے دونوں بزرگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ "ابوبکر! نماز میں تمہاری آواز پست تھی" بولے کہ "میں جس سے رازداری کر رہا تھا، اس کے کان میں میری آواز پہنچ گئی" حضرت عمرؓ سے ارشاد ہوا کہ "تمہاری آواز نہایت بلند تھی" بولے کہ "یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگاتا اور شیطان کو دور کرتا ہوں" موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمرؓ رات کو نماز پڑھتے تھے تو اخیر شب میں اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کے لئے جگاتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے تھے

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ	اور اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید کرو اور (خود بھی) اس کے
عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ	پابند رہو ہم تم سے کچھ (رزق) نہیں مانگتے (بلکہ) ہم تم
نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى (سورۂ طٰہٰ رکوع ۸)	کو روزی دیتے ہیں اور انجام (بخیر) تو پرہیزگاری کا ہے

حضرت ابوہریرہؓ اور ان کی بی بی اور خادم نے نماز کے لئے رات کے تین حصے کر لئے تھے، اور ان میں سے ایک نماز سے فارغ ہو چکتا تھا تو دوسرے کو نماز کے لئے جگا دیتا تھا۔

یہ ذوق نماز صرف چند صحابہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ عموماً تمام صحابہ میں پایا جاتا تھا، حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ مغرب سے عشا تک بیدار رہ کر نمازیں پڑھتے تھے، چنانچہ خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا	یہ لوگ (عبادت میں مشغول رہنے کے سبب سے) راتوں کو بہت
يَهْجَعُونَ ۝ (سورہ الذاریات رکوع ۱)	ہی کم سوتے تھے

اس میں صحابہ کرامؓ کو سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں، اوائل اول سورۂ مزمل کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرامؓ تراویح کی طرح راتوں کو نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے قرآن مجید نے صحابہ کرامؓ کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ	ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ تو درد سے خدا
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَمِمَّا	کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے صرف
رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝ (سورۃ السجدۃ رکوع ۲)	کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلعم کے ساتھ تہجد اور نوافل میں شرکت

رسول اللہ صلعم رات کی نمازوں میں لمبی لمبی سورتیں مثلاً سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ اور انعام پڑھتے تھے، اور جس قدر وقت قیام میں صرف ہوتا تھا، اتنا ہی وقت رکوع و سجود میں بھی صرف فرماتے تھے، اس لئے اس قدر طویل اور پُرسکون نماز میں وہی شخص شریک ہو سکتا تھا جس کا دل شوقِ عبادت اور شوقِ اقتدائے رسولؐ سے لبریز ہو، صحابہ کرامؓ اسی قسم کا شوقِ عبادت اور شوقِ اقتدائے رسول رکھتے تھے، اس لئے آپ کے ساتھ شریک نماز ہو کر اس دولت سے بہرہ اندوز ہوتے تھے، چنانچہ حضرت عوف بن مالکؓ ایک بار آپ کے ساتھ تہجد میں شریک ہوئے، آپ نے پہلی رکعت میں سورۂ بقرہ اور دوسری میں آل عمران پڑھی، اور وہ ذوقِ عبادت میں کھڑے رہے۔

ایک بار حضرت حذیفہؓ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔

آپ نماز شب میں بقرہ، آل عمران اور نساء کی سورتیں پوری پوری پڑھتے، اگر کوئی خوف کی آیت آجاتی تو خدا سے دعا کرتے، اور اس سے پناہ مانگتے، اسی طرح اگر کوئی بشارت آمیز آیت آتی تو دعا کرتے اور اس کی خواہش فرماتے، حضرت عائشہؓ بھی آپ کے ساتھ اس نماز میں شریک رہتیں۔

یہ شوق صرف چند صحابہؓ کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ عموماً تمام صحابہ میں پایا جاتا تھا۔

ایک بار چند صحابہؓ نے آپ کو شب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سفر میں گئے، صبح کو اور لوگوں سے ذکر کیا تو وہ بھی شریک ہوئے اور متصل دو تین شب برابر شریک ہوتے رہے، آپ نے یہ حالت دیکھی تو ایک شب گھر سے نہ نکلے لیکن صحابہ کرامؓ نے مختلف طریقوں سے اپنے شوق کا اظہار کیا، کھانسے، کھنکارے، چلائے، اور دروازے پر کنکریاں ماریں، آپ اندر سے غصہ میں نکلے اور فرمایا تمہاری ان حرکتوں سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔

آپ شب میں چٹائی کو گھیر کر حجرے کی صورت پیدا کر لیتے تھے، اور اس میں نماز ادا فرماتے تھے، صحابہ کرامؓ کو خبر ہوئی تو وہ بھی شریک نماز ہونے لگے، لیکن آپ نے ان کو اس سے روک دیا۔

یہ شوق اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل بھی اس سے خالی نہ تھا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ عہدِ نبوت میں نہایت صغیر السن تھے، لیکن اس شوق میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے پاس سوئے، آدھی رات ہوئی تو آپ نے اٹھ کر پہلے آل عمران کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، پھر وضو کر کے نماز شروع کی، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی ان اعمال کی تقلید کی اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ت سُبْحَانَ
اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ د س وَقَعَدَ الثُّلُثَ
الْاَخِيْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ
خ اَلْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ اٰلِ عِمْرٰنَ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاَ
وَاسْتَنَّ فَصَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلّٰى
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ خ م د س ق وَكَانَ يُصَلِّيْ
مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا
يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ خ م وَكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ
اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ خ م وَاِذَا قَامَ لِصَلٰوةِ
اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَّحَمِدَ عَشْرًا وَّسَبَّحَ عَشْرًا وَّاسْتَغْفَرَ
عَشْرًا د س ق مُصْ حِبْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ د س ق مُصْ عَشْرًا حِبْ
وَيَتَعَوَّذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ د س ق مُصْ
عَشْرًا حِبْ وَاِذَا افْتَتَحَ صَلٰوةَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ
وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مُعَهْ حِبْ

ترجمہ: تو نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سرطرح کی تعریف کا خدا تعالیٰ ہی مستحق ہے، (جو تمام جہان کا پروردگار ہے) ترمذی (عن ربیعہ بن کعب الاسلمیؓ)

پاک ہے اللہ (جو) تمام جہان کا پروردگار ہے، میں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں، ابوداؤد نسائی (عن ربیعہ بن کعب الاسلمیؓ)

(جب) نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پچھلی تہائی رات میں اٹھ کر بیٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور سورۃ آل عمران کی آخری دس آیتیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۔ بیشک تحقیق کہ آسمان اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کے
اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ ۔ دور و چل میں عقلمندوں (کے سمجھنے) کے لئے (قدرت خدا کی بہتیری)
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۔ آل عمران ع ۲۰ نشانیاں (موجود) ہیں۔

سے لے کر ختم تک پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے، وضو فرماتے اور مسواک کرتے پھر گیارہ رکعت نماز پڑھتے، پھر (جب) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو دو رکعت (سنت فجر) پڑھتے اور (مسجد) تشریف لے جاتے۔ پھر نماز فجر ادا کرتے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابن عباسؓ)

اور (کبھی) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے (جن میں) پانچ رکعت وتر کی پڑھتے، اور پھر آخری رکعت کے کسی رکعت میں نہ بیٹھتے۔ بخاری مسلم (عن عائشہؓ)

اور (کبھی) رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعت پڑھتے تھے (جن میں) ایک وتر پڑھتے بخاری مسلم (عن عائشہؓ)

اور جب رات کو تہجد کے لئے اٹھتے تو دس بار "اللہ اکبر" دس بار "الحمد للہ" دس بار "سبحان اللہ" اور دس بار "استغفر اللہ" کہتے، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن حبان (عن عائشہؓ)

اور (دس بار) کہتے اے اللہ! مجھے بخش دے، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق دے، اور مجھے عافیت دے، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن حبان (عن عائشہؓ)

دس بار کہنا ابن حبان نے روایت کیا ہے، ابن حبان (عن عائشہؓ)

اور دس بار قیامت کے دن مقام کی تنگی سے اللہ کی پناہ مانگتے، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، ابن حبان (عن عائشہؓ)

اس روایت میں بھی دس بار کہنا ابن حبان ہی کی روایت ہے، ابن حبان (عن عائشہؓ)

اور جب تہجد شروع کرے تو کہے اے اللہ جبرئیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، جن باتوں میں (یہ) تیرے بندے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو ہی ان کے جھگڑوں کو چکائے گا، جن چیزوں میں اختلاف ہے، ان میں تو اپنے فضل سے حق کی طرف میری رہنمائی فرما، تو ہی جس کو چاہے سیدھا راستہ بتلا سکتا ہے۔
مسلم، سنن اربعہ، ابن حبان (عن عائشہ)

شرح: یعنی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم تہجد کی تیرہ رکعت پڑھتے تھے، جن میں آٹھ رکعت تہجد کی، اور پانچ رکعت وتر کی ایک سلام سے پڑھتے اور کوئی جلسہ بجز اخیر کے سلام کی نیت سے نہ فرماتے۔
اس حدیث کے ترجمہ میں علماء کا اختلاف ہے۔
میدان حشر لوگوں پر اس قدر تنگ ہوگا کہ لوگ اس کی سختی اور دہشت سے دوزخ میں جانے کی آرزو کرنے لگیں گے۔
حضرت شریق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ جب رات کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تھے تو دس بار "اللہ اکبر" دس بار "الحمد للہ" دس بار "سبحان اللہ و بحمدہ" دس بار "سبحان الملک القدوس" دس بار "استغفر اللہ" دس بار "لا الہ الا اللہ" اور دس بار "اللھم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و یوم القیمۃ" پڑھتے، پھر نماز تہجد ادا فرماتے تھے، مشکوۃ

وَاِذَا صَلّٰی الْوِتْرَ ثَلَاثًا فَیَقْرَأُ فِی الْاُوْلٰی سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی وَفِی الثَّانِیَةِ قُلْ یَا اَیُّهَا الْکَافِرُوْنَ وَفِی الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ دَتِ سَ اَقَ حِبْ یَ وَالْمُعَوِّذَتَیْنِ دَ اَقَ تِ حِبْ وَیَفْصِلُ بَیْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِیْمَةٍ یُسْمِعُهَا اَوْ لَا یُسْلِمُ اِلَّا فِیْ اٰخِرِهِنَّ سَ یَ اَوْ یُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ خَ مُ اَوْ بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ قُطْ سُنِّیَ اَوْ بِتِسْعٍ اَوْ اِحْدٰی عَشْرَةَ رَکْعَةً اَوْ اَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ سُنِّیَ

وتر کا طریقہ

ترجمہ: اور جب تین وتر پڑھے، تو پہلی رکعت میں "سبح اسم ربک الاعلیٰ" دوسری میں "قل یا ایھا الکافرون" اور تیسری میں "قل ھو اللہ احد" پڑھے، (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ابن حبان، ابن سنی (ابوداؤد عن ابی بن کعبؓ) (ترمذی عن ابن عباسؓ) ابن ماجہ (عن ابی بن کعب، ابن عباسؓ) نسائی، احمد، ابن حبان (عن عبدالرحمٰن بن ابزیؓ)

اور معوذتین یعنی "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس" پڑھے (ابوداؤد، احمد، ابن حبان، ابن ماجہ، ترمذی (عن عائشہؓ)

اور وتر کی پہلی دو رکعت اور پچھلی ایک رکعت میں سلام پھیر کر علیحدگی کر دے، اس طرح (سلام کرے کہ) لوگ سن لیں۔ احمد

یا ان تینوں رکعت کے آخر ہی میں سلام پھیرے نسائی، ابن سنی (عن عبدالرحمٰن بن ابزیؓ)

یا ایک وتر پڑھے، بخاری، مسلم (عن عائشہؓ و ابن عمرؓ)

یا پانچ یا سات رکعت پڑھے، دارقطنی، بیہقی (عن ابی ہریرہؓ)

یا نو یا گیارہ رکعت یا اس سے زیادہ پڑھے۔ بیہقی (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، تینوں پڑھنے کی روایت ہے۔

مصنفؒ چونکہ شافعی المذہب ہیں اس لئے ایک وتر سے زیادہ پڑھنے کی صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وتر سے زیادہ پڑھے تو وتر کی پہلی دو رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور پھر ایک رکعت علیحدہ پڑھے جیسا کہ شوافع حضرات کا مذہب ہے یعنی دو رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت پڑھ کر سلام پھیرے جس طرح احناف پڑھتے ہیں۔

وترؒ کی رکعتوں میں بہت اختلاف ہے، شوافع وغیرہ ایک رکعت پڑھتے ہیں اور احناف تین رکعت پڑھتے ہیں، چونکہ اکثر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد پڑھتے تھے، اس لئے بعض حضرات نے تہجد کی آٹھوں کو وتر شمار کر لیا اور روایت کر دی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَيَقْنُتُ فِي الْاَخِيْرَةِ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ مُسْ
فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ
وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ
مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ
وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ
وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ عَهْ حِبْ مُسْ مُصْ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى
النَّبِيِّ سَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ
الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ
بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ
الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ
وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ
اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سُنِّيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا
نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ىَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سُنِّيْ
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ
وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ

toobaa-elibrary.blogspot.com

بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ مَوْمُصْ سُنَّتِي

وِتر کی دُعائیں

ترجمہ: اور وتر کی آخری رکعت میں جب رکوع سے کھڑا ہو تو دعائے قنوت پڑھے۔ حاکم (عن الحسن بن علیؓ)

اور کہے خداوندا! جن لوگوں کو تو نے ہدایت کی ہے، ان کے زمرے میں مجھے بھی ہدایت دے، اور مجھے دنیاوی اور اُخروی آفتوں سے عافیت میں رکھ ان لوگوں کے زمرے میں جنہیں تو نے عافیت دے رکھی ہے، اور ان لوگوں کے زمرے میں میری کارسازی کر جن کی تو نے مدد کی، اور جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں برکت دے، اور مجھے اُس چیز کی بُرائی سے بچالے جو تو نے میرے مقدر میں لکھی ہے، کیونکہ تیرا حکم سب پر چلتا ہے، اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا، جس کا تو نگہبان ہوا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوسکتا، اور جس کو تو نے دشمن رکھا وہ ہرگز عزت نہیں پاسکتا، تو بابرکت ہے، اے ہمارے پروردگار، اور تو ہی برتر ہے، ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ (سنن اربعہ ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن الحسن بن علیؓ)

اور رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، نسائی (عن الحسن بن علیؓ)

الٰہی! ہم کو اور سب ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں، اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور ان کے دلوں میں اُلفت و محبت پیدا کردے، اور ان کے سارے کام سنوار دے، اور اپنے اور اُن کے دشمنوں پر ان کی مدد کر۔

خداوندا! کفار کو جو تیری راہ سے لوگوں کو روکتے، تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں لعنت کر۔

الٰہی! ان کی باتوں میں مخالفت پیدا کردے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل کر جسے تو گنہگار قوم پر سے روکی نہیں کرتا، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے، بیہقی فی سنن الکبیر (عن عمر بن الخطابؓ)

اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، اور تیری ناشکری سے بچتے ہیں، ہم اس شخص کو چھوڑ دینگے اور ترک کر دینگے جو تیرا گناہ کرے گا۔ ابن سنی۔

شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے، بیہقی فی سنن الکبیر

خداوندا! ہم تجھی کو بندگی کرتے اور صرف تیرے لئے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوڑتے اور تیری خدمت میں شتابی کرتے ہیں، اور تیرے یقینی عذاب سے ڈرتے اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، بیشک تیرا قطعی اور یقینی عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے، ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابن مسعودؓ) البیہقی (عن عمر بن الخطابؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا سَلَّمَ مِنْهُ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهٗ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ سَ دَ مُصْ قُطْ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ قُطْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ عَهٰ طٰسٓ مٓصٓ وَاِذَا صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يَقْرَاُ فِي الْاُوْلٰى قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُرْحِبٌ اَوْ فِي الْاُوْلٰى قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ اَلْاٰيَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اَلْاٰيَةَ مُ وَيَقُوْلُ وَهُوَ جَالِسٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَمُحَمَّدٍ سُنِّيْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مُسْ مَعْ ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ دَتْ

ترجمہ: اور جب وتر سے (فارغ ہوکر) سلام پھیرتے تو تین بار کہے، ہمارا بادشاہ پاک اور ہر طرح کے عیب سے منزہ ہے، اور تیسری مرتبہ میں آواز کو بلند اور دراز کرے، (نسائی، ابوداؤد، ابن ابی شیبہ، دارقطنی (عن ابی بن کعبؓ)

اور فرشتوں اور جبرئیل کے پروردگار، کہنا بھی دارقطنی کی روایت میں ہے (عن ابی بن کعبؓ)

اے اللہ میں تیری رضا کی تیرے غصہ سے اور تیری معافی کی تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری ذات کی تجھ سے پناہ لیتا ہوں، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کرسکتا، تو ایسا ہی ہے، جیسی تو نے خود اپنی تعریف وثنا کی ہے، سنن اربعہ، طبرانی فی الاوسط، ابن ابی شیبہ (عن علیؓ)

اور جب فجر کی سنتیں پڑھے تو پہلی رکعت میں " قل یا ایھا الکافرون " اور دوسری میں " قل ھو اللہ احد " پڑھے مسلم، ابن حبان (عن ابی ہریرۃؓ)

یا پہلی رکعت میں

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

البقرۃ رکوع ۱۷

(مسلمانو! تم یہود و نصاریٰ کو یہ) جواب دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور (قرآن) جو ہم پر اُترا (اُس پر) اور (صحیفے) جو ابراہیم اور اسمٰعیل اور اسحٰق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر اُترے (اُن پر) اور موسےٰ اور عیسیٰ کو جو (کتاب) ملی (اُس پر) اور جو اور دوسرے پیغمبروں کو اُن کے پروردگار سے ملا (اُس پر) ہم ان (پیغمبروں) میں سے کسی ایک میں بھی (کسی طرح کی) جُدائی نہیں سمجھتے اور ہم اُسی (ایک خدا) کے فرمانبردار ہیں۔

اور دوسری میں

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّٰهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

آل عمران رکوع ۷

(اے پیغمبر ان سے) کہو کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف (رجوع کرو) جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں (مانی جاتی) ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اُس کا شریک نہ ٹھیرائیں اور اللہ کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو (اپنا) مالک نہ بنائے پھر اگر (ایسی سیدھی اور سچی بات کے ماننے سے بھی) منہ موڑیں تو (مسلمانو! ان لوگوں سے) کہہ دو کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم تو (ایک ہی خدا کو) ماننے ہیں۔

پڑھے مسلم (عن ابن عباسؓ)

اور فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر تین بار (یہ دُعا) پڑھے، اے اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور محمد نبی صلے اللہ علیہ وسلم ..... (البیہقی فی سنن الکبیر) کے پروردگار میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، حاکم، ابن سنی (عن اُسامہ بن عمیرؓ)

پھر (فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر قبلہ رُو) اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جانا چاہیے، ابوداؤد ترمذی (عن ابی ہریرۃؓ)

شرح: لیٹنا محض راحت و آرام کے لئے ہے، تاکہ رات کے قیام سے آرام پاکر نشاط کے ساتھ فرض ادا کرے، اور یہ لیٹنا مستحب ہے۔

وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ دَسَ
قَ مُسْ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَّزِلَّ اَوْ نُزَلَّ اَوْ نَضِلَّ
اَوْ نُضَلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ عَلَيْنَا اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا عَهْ مُسْ ے
بِسْمِ اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَلتُّكْلَانُ عَلَى اللّٰهِ مُسْ
قَ ے بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
دَتِ سَ حِبْ ے مَا خَرَجَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهٖ
قَطُّ اِلَّا رَفَعَ طَرْفَهٗ اِلَى السَّمَآءِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ
اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ
اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ دَقَ

گھر سے باہر جانے کی دُعا

ترجمہ اور جب اپنے گھر سے نکلے تو کہے (میں) اللہ کے نام سے (نکلتا ہوں) میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ابوداؤد ابن ماجہ، حاکم (عن ام سلمہؓ)

اے اللہ! ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے قدم ڈگمگائیں یا کوئی ہمارے قدم ڈگمگا دے، یا ہم بے راہ ہو جائیں یا ہم پر ظلم کریں، یا کوئی ہم پر ظلم کرے، یا ہم نادان بنیں، یا کوئی ہم سے نادانی کرے (ابن سنی بزیادہ کہ) میں اللہ کے نام سے (نکلتا ہوں) طاقت وقوت اللہ ہی کی مدد سے ہے (اور) اللہ ہی پر (ہمارا) بھروسہ ہے، حاکم، ابن ماجہ، ابن سنی (عن ابی ہریرہؓ)

میں اللہ کے نام سے (نکلتا ہوں) میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، طاقت وقوت اللہ ہی کی وجہ سے ہے ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، ابن سنی (عن انسؓ)

(حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں) جب بھی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھٹک جاؤں یا بھٹکایا جاؤں، یا خرچ کماؤں، یا پھسلایا جاؤں یا ظلم کروں یا مظلوم بنوں، یا جہالت برتوں یا میرے ساتھ جہالت برتی جائے (ابوداؤد، ابن ماجہ، عن ام سلمہؓ)

وَاِذَا خَرَجَ لِلصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَّفِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا وَّفِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَّعَنْ یَّمِیْنِیْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِیْ نُوْرًا وَّخَلْفِیْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ لِّیْ نُوْرًا خ مُ دَ س ق وَفِیْ عَصَبِیْ نُوْرًا وَّفِیْ لَحْمِیْ نُوْرًا وَّفِیْ دَمِیْ نُوْرًا وَّفِیْ شَعْرِیْ نُوْرًا وَّفِیْ بَشَرِیْ نُوْرًا خ مُ دَ س ق وَفِیْ لِسَانِیْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِیْ نَفْسِیْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِیْ نُوْرًا م وَاجْعَلْنِیْ نُوْرًا س مس اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ نُوْرًا وَّفِیْ لِسَانِیْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِیْ سَمْعِیْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِیْ بَصَرِیْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِیْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِیْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِیْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِیْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ نُوْرًا م دَ س

نماز کیلئے جانے کی دعائیں

ترجمہ: اور جب (سنت فجر پڑھ کر اپنے گھر سے) نماز فجر کے لئے نکلے تو اثنا راہ میں کہے اے اللہ میرے دل میں، میری بینائی اور شنوائی میں نور کردے، اور میری داہنی اور بائیں طرف نور کردے، اور میرے پیچھے نور کردے اور میرے لئے (ایک خاص) نور کردے، بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابن عباسؓ)

اور میرے ہڈیوں میں، اور میرے گوشت میں اور میرے خون میں، اور میرے بالوں میں اور میری کھال میں نور کردے، بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، (عن ابن عباسؓ)

اور میری زبان میں نور کردے، اور میری جان میں نور کردے، اور مجھے نور عظیم دے، مسلم، (عن ابن عباسؓ)

اور مجھے نور مجسم عطا کردے، نسائی، حاکم، (عن ابن عباسؓ)

اے اللہ! میرے دل میں، اور میری زبان میں نور کردے، اور میری شنوائی اور بینائی میں نور کردے اور میرے پیچھے اور میرے آگے نور کردے اور مجھے نور عطا کر، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن ابن عباسؓ)

شرح : "اللّٰھم اجعل فی قلبی نورًا" نور ایک خاص کیفیت کا نام ہے جس سے احکامات الٰہیہ کا علم اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور کسل، کینہ، حسد، کبر، غصہ اور معصیت وغیرہ کی ظلمتیں دور ہوتی ہیں، جس سے خود بھی ہدایت پاتا اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

اور اعضاء وجوارح کے نور کے یہ معنی ہیں کہ طاعت میں مصروف رہیں اور غفلت اور گناہ سے محفوظ رہیں ارشاد باری ہے:۔

"فَھُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّہٖ" (الزمر، رکوع ۳) (اور وہ اپنے پروردگار کی مشعل ہدایت آگے رکھتا اور اسی کی روشنی پر (چلتا) ہے)

"وَجَعَلْنَا لَہٗ نُوْرًا یَّمْشِیْ بِہٖ فِی النَّاسِ" (اور اس کو ایک نور عطا فرمایا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں (بھی) (الانعام رکوع ۱۵) طرح چلتا پھرتا ہے)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں، میں نے جس شخص کو اس دعا پر مداومت کرتے دیکھا اس کے پاس ایک برکت اور نورانیت معلوم ہوتی تھی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَعِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ دَ وَاِذَا دَخَلَهُ فَلْيُسَلِّمْ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ سَ قَ حِبْ مُسْ يَ وَلْيَقُلْ
اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ مُ دَ سَ قَ حِبْ مُسْ يَ اَللّٰهُمَّ
افْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ قَ عَوْ اَ فَ
يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مُصْ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ
اللّٰهِ قَ تِ مُصْ مَهْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
مَهْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ قَ تِ
مُصْ مَهْ وَبَعْدَ دُخُوْلِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ
الصَّالِحِيْنَ مَوْ مُسْ فَاِذَا خَرَجَ مِنْهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ سَ قَ حِبْ
مُسْ يَ اَلرَّجِيْمِ قَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ مُ دَ
سَ اَوْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مُصْ تِ قَ مَهْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ مَهْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ مُصْ تِ قَ مَهْ وَلَا
يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَ مُ وَاِنْ سَمِعَ مَنْ يَّنْشُدُ

ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا مُدَّقٌ وَإِنْ رَأَى مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ تِسْ مُسْ جِبْ

مسجد میں آمد و رفت کی دعائیں

ترجمہ: مسجد میں داخل ہوتے وقت کہے۔ میں عظمت والے اللہ اور اس کی بزرگ ذات اور اس کی قدیم بادشاہت کی شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، ابوداؤد (عن عبداللہ بن عمرو بن العاص)

اور جب مسجد میں داخل ہو تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابن سنی (عن ابی ہریرہؓ)

اور کہے اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، (عن ابی حمیدؓ) ابن حبان، حاکم، ابن سنی۔ (عن ابی ہریرہؓ)

اے اللہ! ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور ہمارے لئے اپنے رزق کے اسباب آسان کر دے، ابن ماجہ، ابوعوانہ (عن ابی حمیدؓ)

یا کہے (میں) اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں) اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، ابن ماجہ ترمذی، ابن ابی شیبہ، ابن خزیمہ، ابن ابی شیبہ نے یہ الفاظ اور زیادہ کئے ہیں)، دروازوں، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر داخل ہوتا ہوں) (عن فاطمہؓ)

اے اللہ! محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، ابن خزیمہ (عن فاطمہؓ)

(اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ابن ماجہ، ترمذی، ابن ابی شیبہ، ابن خزیمہ (عن فاطمہؓ)

اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہے، ہو پر اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، تو فوراً حاکم، (عن ابن عباسؓ)

اور جب وہاں سے نکلے تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور کہے اے اللہ! مجھے شیطان سے بچا، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابن سنی۔ (عن ابی ہریرہؓ)

جو مردود ہے (یعنی راندے درگاہ ہے) ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل (وکرم) چاہتا ہوں، مسلم، ابوداؤد، نسائی، (عن ابی حمیدؓ)

یا کہے (میں) اللہ کے نام سے (نکلتا ہوں) اور رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، ابن ابی شیبہ

toobaa-elibrary.blogspot.com

مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت

مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت

ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ (عن فاطمہؓ)

اے اللہ! محمدؐ پر درود بھیج اور محمدؐ کی آل پر، ابن خزیمہ (عن فاطمہؓ)

اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ (عن فاطمہؓ)

اور جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے، بخاری مسلم (عن ابی قتادہؓ)

اور اگر کسی شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتا ہوا سنے، تو کہے خدا تجھے اس کو واپس نہ کرے، کیونکہ مسجدیں اس لئے نہیں بنائی گئی ہیں، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ)

اگر کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھے تو کہے اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، ترمذی، نسائی، حاکم، ابن حبان (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، جو اس دعا کو پڑھے گا وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، مشکوٰۃ۔

بجائے سلام کے یہ درود پڑھے، یا وہ بھی کہے اور یہ بھی پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ درود کے بعد یہ دعا پڑھے "اللھم اغفرلی ذنوبی الخ"

ابن حبان دو رکعتوں کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، امام شافعیؒ کے نزدیک یہ واجب ہیں اور احناف کے نزدیک مستحب ہیں۔ علماء نے بیان کیا ہے اگر مسجد میں آکر قضا، نماز یا سنتیں یا کوئی اور نماز پڑھے تب بھی تحیۃ المسجد کا ثواب مل جائیگا اور اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو اور اس کے ذمہ کوئی قضا نماز ہو تو پڑھ لے، ورنہ یہ کلمات پڑھے "سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر" اور بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کرے اور مسجد حرام میں کعبہ کا طواف تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔

مسجد کے حقوق و آداب

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰۗىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝ (التوبہ رکوع ۳)

مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ (اپنے جیسے کافروں سے) اللہ کی مسجدیں آباد رکھیں اور (شرک افعال و اقوال سے) اپنے اوپر کفر کی گواہی بھی دیتے جائیں، یہی لوگ ہیں جن کا کیا دھرا سب اکارت ہوا، اور یہی لوگ ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ میں رہنے والے ہیں (حقیقت میں تو) اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا، اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا، اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جا سکتی ہے کہ (آخرکار) ان لوگوں میں (جا شامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۗىِٕفِيْنَ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں خدا کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بے رونقی کے درپے رہے، یہ لوگ خود اس لائق نہیں کہ مسجدوں میں آنے پائیں مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لئے دنیا میں (بھی) رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں (بھی) بڑا (بھاری) عذاب ہے۔

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاۗىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝

(بقرہ رکوع ۱۲)

اور ہم نے ابراہیم اور اسمٰعیلؑ سے فرمایا کہ ہمارے (اس) گھر (یعنی خانہ کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور مجاوروں اور رکوع (اور) سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے پاک (وصاف) رکھو۔

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـــًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّاۗىِٕفِيْنَ وَالْقَاۗىِٕمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝

(الحج رکوع ۳)

اور (اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم (کی عبادت کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ معتبر کردی (اور حکم دیا) کہ ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک (خدائی) نہ کرنا اور ہمارے (اس) گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے صاف ستھرا رکھنا۔

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۗءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(النور رکوع ۵)

(اور وہاں وہ چراغ خدا کے) ایسے گھروں (یعنی عبادت کاہوں) میں (روشن کیا جاتا ہے) جن کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی عظمت کی جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے، ان (عبادت گاہوں) میں صبح وشام ایسے لوگ خدا (کے نام) کی تسبیح (وتقدیس) کرتے رہتے ہیں جن کو سوداگری اور خرید وفروخت خدا کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتے (کیونکہ وہ لوگ) اس دن سے ڈرتے ہیں جب (مارے خوف کے) دل الٹ جائیں گے) اور آنکھیں (دہشت کی) پھری رہ جائیں گی اور اس خیال سے یہ لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہتر سے بہتر بدلہ دے اور ان کو اپنے فضل سے کچھ اور بھی دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔

مساجد کی تعمیر

مسجدوں کا بنانا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کا اہم پہنچانا ہے، اور اسی لئے کارِ ثواب ہے، جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

"جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا" یعنی ہمارے لئے تمام روئے زمین مسجد ہے جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں اور آدمی اکیلا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، مگر نماز جماعت سے اسلام کی شان وشوکت

toobaa-elibrary.blogspot.com

اظہار ہوتی ہے اور اس کے لئے عبادت گاہ خاص کا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے مسجدوں کا بنانا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کا بہم پہنچانا ہے۔

ضرورت کے موقع پر مسجد کے بنانے کا بڑا ثواب ہے، پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جو شخص خدا کی خوشنودی کے لئے مسجد بناتا ہے، خدا اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا" مسجد کے بنانے والے کو نہ صرف اس کی زندگی تک بلکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جب تک مسجد کی نمود باقی رہتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے، جو مسجد کو آباد کرنے اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک کالی کلوٹی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، جب وہ مرگئی تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا "اے عورت! تو نے کون سے عمل کو افضل پایا" صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا یہ عورت سنتی ہے؟ فرمایا "ہاں تم سے بہتر سنتی ہے" دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ عورت نے جواب دیا کہ "میں نے سب عملوں سے افضل مسجد کی جاروب کشی کو پایا"

صاف ستھرا رکھنے کے علاوہ خوشبودار بھی کرتا چاہئے، کبھی کبھی اگر، لوبان اور خوشبودار چیزیں سلگائی جائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے اور انھیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا۔

مسجد میں خرید و فروخت اور جھگڑے کی باتیں نہ کریں، اونچی آواز سے نہ بولیں، گنہگاروں پر حد نہ لگائیں، مسجد کے قریب شور و غل نہ کریں، سیٹی نہ بجائیں، تالیاں نہ پٹخاریں۔ خدا نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے حق میں عذاب دوزخ کی خبر دی ہے جو مسجد حرام کے متصل کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پٹخارا کرتے تھے، چنانچہ ارشاد ہے:۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (الانفال رکوع ۴)

یعنی اور خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا ان (مشرکوں) کی نماز ہی کیا تھی (اے کافرو!) بیساختہ کفر کرتے رہے، اب اس کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو۔

مسجد میں بیہودہ دنیاوی باتیں نہ کریں بلکہ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہیں، جو شخص مسجد میں "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کہتا ہے وہ بہشتی باغات کا میوہ کھاتا ہے، مسجد میں قبلہ کی طرف تھوکنا منع اور سخت گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کوئی بغیر تھوکے نہ رہ سکے تو بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوک لے لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑے پر تھوک کر مل ڈالے اگر مسجد کا فرش پختہ ہو تو مطلق نہ تھوکے، کچا اور خام ہو تو تھوک لے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ کھرچ ڈالے۔ اوپر سے مٹی ڈال دے، سب سے بڑا کام مسجدیں تھوکنا اور پھر اسے دفن نہ کرنا ہے، کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے، مسجد میں خلاف شرع اشعار پڑھنے درست نہیں، گمشدہ چیز مسجد میں ڈھونڈھنی گناہ ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو دوسرے کو یہ کہنا مسنون ہے کہ خدا کرے وہ تجھے نہ ملے قبرستان میں یا کسی قبر کے پاس قبر بنالے کی غرض سے مسجد بنانا حرام ہے، اذان سنکر مسجد سے نکل جانا سخت

toobaa-elibrary.blogspot.com

گناہ ہے، ایسے شخص کو پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنا نا فرمان فرمایا ہے۔

جس کا گھر بار نہ ہو اسے مسجد میں سونا جائز ہے، ورنہ نہیں، مسافروں کو مسجد میں رہنا اور سونا درست ہے۔

ضروریاتِ مسجد

پانی، بوریا، بدھنا اور ضرورت کی چیزیں مہیا رکھیں، چراغ، تیل، بتی، ڈول رسی کی اگر ضرورت پڑے تو فراہم کریں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں چراغ جلانے والے، جھاڑو دینے والے، بدھنے بوریئے کا انتظام رکھنے والے قیامت کے روز بڑے بڑے درجے پائیں گے

مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں:۔

"اَللّٰھُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ" اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھولدے

باہر چلیں تو کہیں:۔

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ" اے اللہ! میں تیرا فضل (وکرم) چاہتا ہوں۔

مسجد میں داخل ہو کر سب سے اوّل دو رکعت نفل پڑھیں، اگر باوضو ہوں، ورنہ وضو کرکے اور اسی کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، سفر سے آنے والا بھی پہلے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھے پھر مکان میں آئے، جو شخص گھر سے وضو کرکے مسجد میں جاتا ہے حج اور احرام کا ثواب پاتا ہے۔

اہلِ محلہ اپنے محلے ہی کی مسجد میں نماز پڑھیں، محلے کی مسجد میں ایک وقت کی نماز پچیس نمازوں کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو پچیس نماز کا اور جامع مسجد میں پانسو نماز کا اور بیت المقدس میں پچیس ہزار کا اور مسجد نبوی میں پچاس ہزار کا اور بیت اللہ میں لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے

مسجد کا حق ہے کہ عورتیں خاص کر جوان عورتیں بالخصوص اس فتنہ و فساد کے زمانے میں وہاں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے گھروں میں پڑھیں، کیونکہ آمد و رفت میں ان کی بے پردگی ہوتی ہے، شریر اور بدمعاش اور اوباش لوگ بُری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ایک صحابی ابو حمید ساعدی تھے، ان کی بی بی نے پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، فرمایا مجھے تیرا شوق معلوم ہے، لیکن تیرا گھر کے اندر یعنی کوٹھری میں نماز پڑھنا دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے اور دالان میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے۔

جہاں تک ممکن ہو عورت کو پردہ داری میں کوشش کرنی چاہئے بے شک احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مستورات مردوں کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہوتی تھیں جہاد میں بھی مردوں کا ساتھ دیتی تھیں، نیز عید اور عیدین کی نماز میں عورتوں کا شامل ہونا پایا جاتا ہے مگر جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مقابلے میں بہ بُعد زمانہ اس وقت لوگوں کے دینی خیالات فاسد اور حالات بھی ابتر ہو گئے ہیں، اس لئے بحالت موجودہ عورتوں کا پردے کی رعایت کے ساتھ مشغولِ عبادت ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب مردوں میں اور نہ عورتوں میں وہ حلاوتِ ایمانی ہے۔ اور

toobaa-elibrary.blogspot.com

نہ اطاعتِ رسول اور نہ پاسِ اسلام۔

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے جو احکام وقتی ہوتے تھے، صحابہ کرام فوراً ان کی تعمیل کرتے تھے، اور جو دائمی ہوتے ہمیشہ ان کے پابند رہتے تھے، اور اس کے خلاف کبھی ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تھی۔

آپ کے زمانے میں عورتیں بھی شریک جماعت ہوتی تھیں، اس حالت میں اقتضائے کمالِ عفت وعصمت یہ تھا کہ ان کے لئے مسجد کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے، اس بنا پر آپ نے ایک روز ارشاد فرمایا:۔

"لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ" کاش ہم یہ دروازہ صرف عورتوں کے لئے چھوڑ دیتے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ تادمِ مرگ اُس دروازہ سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔

لیکن آج کل ہم سے اس کی پابندی بھی غیر ممکن اور محال بن گئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں راستوں کی یہ کیفیت تھی کہ:۔

ایک بار آپ مسجد سے نکل رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورتیں مل جل کر چل رہے ہیں، عورتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا "پیچھے رہو، تم وسط راہ سے نہیں گذر سکتیں" اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارے ہو کر چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیواروں سے اُلجھ جاتے تھے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَالْاَذَانُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً مَعْرُوْفَةً عَلَّمَهٗ اَمَهٗ وَيُزَادُ فِيْ اَذَانِ الصُّبْحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ دَقَطْ مَهٗ وَاِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَلْيَقُلْ كَمَا يَقُوْلُ عَ يَ وَبَعْدَ الْحَيْعَلَةِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ خ مُ دَ س

اذان واقامت

ترجمہ: اذان کے انیس کلمے مشہور ہیں، سنن اربعہ، احمد، ابن خزیمہ (عن ابی محذورۃؓ) اور صبح کی اذان میں "نماز نیند سے بہتر ہے" دو مرتبہ زیادہ کیا جائے، ابوداؤد، دارقطنی، ابن خزیمہ (عن انسؓ)

اور جب مؤذن کی اذان سنے تو جو کچھ وہ کہے وہی سننے والا کہے، صحاح ستہ، ابن سنی (عن ابی سعید الخدریؓ) اور "حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" نماز کی طرف آؤ۔ بہتری کی طرف آؤ۔ کے بعد "لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" طاقت وقوت اللہ ہی کی وجہ سے ہے، کہے۔ بخاری مسلم (عن معاویہؓ) ابوداؤد، نسائی (عن عمرؓ)

شرح: ہر اذان سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہے، خواہ جنابت کی حالت ہو، اور اگر کئی مؤذن کہیں تو اول ہی کا جواب دینا ضروری ہے، اور اگر سننے والا مسجد میں ہو تو اس پر جواب دینا واجب نہیں، فتاویٰ قاضی خان۔

اور اگر تلاوتِ قرآن کر رہا ہو تو اس کے بارے میں دو قول ہیں، مختار یہ ہے کہ وہ جواب نہ دے، اور اگر زبان سے جواب دے اور بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو جواب ادا نہ ہوگا، بلکہ چاہئے کہ زبان سے جواب دے اور پاؤں سے چل کر حاضر ہو، اس وقت جواب پورا ہوگا۔

بعض حضرات نے "حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" کے بعد "لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَلَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ" (طاقت وقوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا) ——— کہنا بھی بیان کیا ہے۔

مؤذن جب "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" نماز نیند سے بہتر ہے، کہے تو سننے والا اس کے جواب میں کہے ——— صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ اَكْرَمِ الْفَضْلَيْنِ تو نے سچ کہا اور ہماری بھلائی کی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، الٰہی تو مجھے خواب غفلت سے بیدار کرنے اور تکبیر میں قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ جب جماعت کھڑی ہوگئی، کہے وقت اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا، خدا نماز کو دائم قائم رکھے، کہے۔

إِذَا قَالَ ذٰلِكَ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ مُ دَسَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ مُ عَهٗ ىَ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالِهٖ يَعْنِي الْمُؤَذِّنَ وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهٖ فَلَهُ الْجَنَّةُ صِ وَكَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَأَنَا وَأَنَا دَحِبْ مُسْ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ لَهُ الْوَسِيْلَةَ مُ دَتِ سَ ىَ

ترجمہ: اور جب اس کو اپنے دل سے کہے گا تو جنت میں داخل ہوگا، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن عمرؓ) جو شخص اذان سنتے وقت یہ کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، میں اللہ کے رب، محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اور اسلام کے دین ہونے کو دل سے پسند کرتا ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، مسلم، سنن اربعہ، ابن سنی (عن سعید بن ابی وقاصؓ)

جس شخص نے مؤذن (کے کہنے) کی طرح کہا، اور اس کی گواہی کی طرح گواہی دی تو اس کے لئے جنت ہے، ابویعلی (عن انسؓ)

رسول انور صلے اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کو گواہی دیتے ہوئے سنتے تو فرماتے، میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ ابوداؤد، ابن حبان، حاکم (عن عائشہؓ)

پھر رسول انور صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اللہ سے آپؐ کے لئے وسیلہ طلب کرے، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن سنی (عن عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ)

شرح: وسیلہ کے معنی قرب اور نزدیکی کے ہیں، بعض نے مکان شفاعت کے معنی لئے ہیں اور بعض نے کہا ہے بہشت کا ایک مقام ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ سے میرے لئے وسیلہ طلب کرو، جو جنت کا ایک مکان ہے، اور وہ اللہ کے ایک خاص بندے کے لئے ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے میری شفاعت واجب وضروری ہے۔

يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ خ عَهْ حِبْ سُنِّىْ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ سُنِّىْ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَّسْمَعُ النِّدَآءَ فَيُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُ وَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاجْعَلْهُ فِى الْاَعْلِيْنَ دَرَجَتَهٗ وَفِى الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهٗ وَفِى الْمُقَرَّبِيْنَ ذِكْرَهٗ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِىْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَآئِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّىْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اُسْتُجِيْبَ اللّٰهُ دَعْوَتَهٗ اَطْسِ

ترجمہ: (اذان کا جواب دینے والا) کہے اے اللہ! اس پوری (و کامل) دعا اور قائم نماز کے پروردگار محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر، اور ان کو مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، (بخاری، سنن اربعہ، ابن حبان، بیہقی فی الکبیر (عن جابر بن عبد اللہ الانصاریؓ)

"بیشک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا" امام بیہقی نے یہ الفاظ روایت کئے۔

کوئی مسلمان جو اذان اور تکبیر سنکر تکبیر کہے، اور کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلے اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر کہے اے اللہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت دے، اور ان کو اعلیٰ درجہ والوں میں کر، اور ان کی محبت برگزیدہ لوگوں میں اور ان کا ذکر خاص لوگوں میں کر، ایسا نہیں جس کے لئے قیامت کے روز شفاعت واجب نہ ہو، (طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

جو شخص مؤذن کی آواز سنکر کہے، اے اللہ! اس قائم (کھڑی ہونے والی) دعا اور نفع دینے والی

اذان کے بعد دعا کی فضیلت کا بیان

نماز کے پروردگار، محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اور مجھ سے اس طرح راضی ہو کہ اس کے بعد ناراض نہ ہو، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ احمد، طبرانی فی الاوسط، ابن سنی (عن جابرؓ)

شرح: دعوۃ تامہ سے دعوۃ عامہ مراد ہے، اس لئے کہ تمام نمازیوں کو اذان کے ذریعہ سے نماز کے لئے بلایا جاتا ہے، صلاۃ قائمہ سے مراد ہے وہ نماز جو قائم (کھڑی) ہونے والی ہے، اور جس کے لئے لوگوں کو بلایا گیا ہے۔

مقام محمود کے لفظی معنی تو ہیں مقام پسندیدہ، اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مقام محمود جس کا پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، وہ مرتبہ شفاعت ہے کہ قیامت کے دن لوگ مضطر ہو کر تمام انبیاء سابقین علیہم السلام سے سفارش کرانی چاہیں گے، اور چونکہ تمام انبیاءؑ آدمی ہی گذرے ہیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لغزش بتقاضائے بشریت ہو گئی ہے، انبیائے سابقینؑ اپنی لغزشوں کو یاد کر کے شفاعت کی جرأت نہ کر سکیں گے، آخر یہ مہم ہمارے پیغمبر آخر الزماںؐ سر کریں گے، اور خدا سے ان تمام لوگوں کی شفاعت کی اجازت ہوگی، اور حق تعالیٰ کی رحمت عام اس پیرایہ میں ظاہر ہوگی کہ ہمارے پیغمبر سب کی شفاعت کریں اور خدا کی جناب میں ان کی شفاعت قبول ہو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ نَزَلَ بِهٖ كَرْبٌ اَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنِ الْمُنَادِيَ فَاِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ وَاِذَا
تَشَهَّدَ تَشَهَّدَ وَاِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ
وَاِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ
رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا دَعْوَةُ الْحَقِّ وَكَلِمَةُ
التَّقْوٰى اَحْيِنَا عَلَيْهَا وَاَمِتْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ
خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا ثُمَّ يَسْاَلُ اللّٰهَ حَاجَتَهٗ مُسْلِمٌ
وَالدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ لَا يُرَدُّ دَتْ سَ حِبْ
صِ فَادْعُوْا صِ فَاسْاَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
تِ وَالْاِقَامَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَدَقَ مَهْ تِ اَوْ هِيَ كَالْاَذَانِ
اِلَّا فِي التَّرْجِيْعِ وَزِيَادَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
اَعَهْ مَهْ

ترجمہ: جو شخص مصیبت یا سختی میں مبتلا ہوا سے چاہئے کہ مؤذن کا منتظر رہے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب وہ حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کہے تو یہ بھی اسی طرح کہے، پھر یہ کہے اے اللہ اس سچی، مقبول، دعوتِ حق اور

فروخت کا پابند

پرہیزگاری کی بات کے پروردگار! ہمیں (قول میں اور عمل میں) اس (تقویٰ ہی) پر زندہ رکھ، اور اسی پر موت دے، اور اسی پر (قبر سے) اُٹھا، اور ہمیں زندگی اور موت کی حالت میں اس دُعا کے بہترین لوگوں میں سے کر، پھر اپنی حاجت مانگے، حاکم، ابن سنی (عن ابی امامہؓ)

اور اذان و اقامت کے درمیان دُعا ضرور قبول ہوتی ہے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، ابویعلی، (عن انسؓ)

اس لئے دُعا کرو، ابویعلی (عن انسؓ)

ابویعلی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ "اللہ سے دنیا اور آخرت کے لئے عافیت مانگو" ترمذی میں بجائے "فَادْعُوا اللّٰهَ" کے "فَاسْئَلُوا اللّٰهَ" کے الفاظ ہیں، ترمذی (عن انسؓ)

اور اقامت یہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کے لئے آؤ! بہتری کی طرف آؤ! نماز شروع ہوگئی ہے، نماز شروع ہوگئی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ترمذی (عن عبداللہ بن زیدؓ)

یا اقامت اذان ہی کی طرح ہے، بجز ترجیع اور دو مرتبہ قد قامت الصلوٰۃ کہنے کے سنن اربعہ ابن خزیمہ (عن ابی محذورہؓ)

شرح: یعنی جو کلمات اذان کے ہیں وہی اقامت کے ہیں، لیکن اقامت میں "اشهد ان لا اله الا الله" "اشهد ان محمد رسول الله" ایک ایک بار ہے اور "قد قامت الصلوٰة" دو بار کہنا زیادہ ہے یہ مذہب امام شافعیؒ کا ہے، چونکہ مصنفؒ شافعی المذہب ہیں اس لئے انھوں نے یہی نقل کر دیا، لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اذان و اقامت کے الفاظ یکساں ہیں اور شہادتین مکرر ہیں۔ صرف اقامت میں قد قامت الصلوٰة دو بار زیادہ کہنا ہے

اذان کی فضیلت اور اس کے احکام

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ۝

المائدہ رکوع ۹

اور جب تم اذان دے کر مسلمانوں کو نماز کے لئے بلاتے ہو، تو یہ (یہود و نصاریٰ اور کفار) نماز کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں اور یہ حرکت بیجا ان سے ہے اس لئے سرزد ہوتی ہے کہ یہ (ایسے بیوقوف) لوگ ہیں کہ (بالکل) نہیں سمجھتے

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ الجزء رکوع ۱۴

مسلمانو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کے لئے اذان دی جائے تو یادِ الٰہی (یعنی نماز) کے لئے لپکو اور اس وقت بیچنا (کھوچنا) چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو۔

نماز کے وقت اذان کہنا سنت ہے، اور سنت بھی مؤکدہ پھر اس کے لئے کوئی خاص شخص مقرر نہیں بلکہ ہر مسلمان اذان دینے کا منصب رکھتا ہے، باوضو ہو چاہے بے وضو ہو، مگر بہتر ہے کہ وضو کر کے اذان دے، جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان دینے اور صف اول میں کس قدر اجر ملتا ہے، اور اس پر کامیاب ہونے کے لئے بجز قرعہ ڈالنے کے اور کوئی تدبیر نہ بن پڑے تو ضرور قرعہ ڈالیں۔ (ابوداؤد)

پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کے بہتر بندے وہ ہیں جو یاد الٰہی کے لئے چاند سورج اور تاروں کی رعایت رکھتے ہیں، یعنی ان کے طلوع و غروب کو دیکھتے رہتے اور اس سے اوقات نماز پہچانتے ہیں، اور چونکہ اذان تنبیہ نماز ہے، اس لئے مؤذن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بندہ ارشاد فرمایا۔

تین طرح کے آدمی قیامت کے روز مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے جن پر اگلی پچھلی امتوں کو رشک ہوگا، ایک وہ جنہوں نے خدا کا حق ادا کیا اور خدا کے حق کے ساتھ اپنے آقا کا حق بھی، اور دوسرے وہ جنہوں نے ایک قوم کی امامت کی اور وہ ان سے خوش رہی، تیسرے وہ جو پنج وقتہ نماز کے لئے اذان کہتے ہیں۔

اذان کی بزرگی اور مؤذنوں کے فضائل میں جو حدیثیں وارد ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اذان اسلام کی بڑی علامت ہے، اور مؤذن لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا اور "اَلَیٰ الْخَیْرِ کَفَاعِلِہٖ" (بھلائی کا راستہ بتانے والا گویا اس کا کرنے والا ہے) کا ثواب حاصل کرتا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس زمانے میں اکثر مؤذن ثواب کے حاصل کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ مسجد کی خدمت از قسم جاروب کشی وغیرہ کے لئے مقرر ہوتے ہیں، اور اس میں اذان کی تذلیل ہے، اور بعض لوگوں نے اذان کو ایک مبتذل خدمت سمجھ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ منصب ان لوگوں کے سپرد کیا جاتا ہے جو کم وجاہت اور جاہل ہوتے ہیں، خود اذان کہنے میں اپنی توہین اور بے وقعتی سمجھتے ہیں ہاں امامت کرنے پر دوڑ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی نظروں میں اذان کی نسبت زیادہ وقیع ہے، حالانکہ مؤذن کا خدا کے نزدیک بڑا درجہ ہے، وہ لوگوں کو خدا کی یاد کی طرف بلاتا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔

حالت سفر میں بھی اذان و تکبیر دونوں کہنی چاہئیں، گو مسافر منفرد ہو، مؤذن ایسا شخص ہو مناسب ہے جو خوش لہجہ اور بلند آواز ہو، اذان دینے پر تنخواہ کا طالب نہ ہو، نماز کے اوقات کا اچھی طرح پہچاننے والا ہو۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اسلام کی بڑی نشانی ہے۔

اذان کے کلمات یہ ہیں:-

اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔

اَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ
میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول خدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول خدا ہے۔

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ
نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔

حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ
بہتری کی طرف آؤ، بہتری کی طرف آؤ۔

اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

صبح کی اذان میں حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کے بعد

اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - نماز نیند سے بہتر ہے، دو دفعہ کہنا چاہئے۔

اذان سننے والے کو مناسب ہے کہ حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ سُنَنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ (ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی قوت نہیں مگر خدا کی مدد سے) اور اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، سنکر صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ (تو نے سچ کہا اور ہماری بھلائی کی بات کہی) کہے اور باقی وہی الفاظ کہا جائے جو مؤذن کہتا ہے۔

اذان کے بعد سننے والے یہ دعا پڑھیں:-

اَللّٰھُمَّ رَبَّ ھٰذِہِ الدَّعْوَۃِ التَّامَّۃِ وَالصَّلٰوۃِ الْقَائِمَۃِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفَضِیْلَۃَ وَابْعَثْہُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗ۔

اے اللہ! اے پروردگار! اس پوری پکار کے اور قائم ہونے والی نماز کے صاحب محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔

جو شخص یہ دعا پڑھے گا رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم خدا کی جناب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے

اذان کے بعد یہ دعا بھی حدیث میں آئی ہے:-

اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ، رَضِیْتُ بِاللّٰہِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِیْنًا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں خدا کے پروردگار اور محمد کے پیغمبر ہونے اور اسلام کے دین ہونے کو دل سے پسند کرتا ہوں۔

تکبیر کے الفاظ یہ ہیں:-

اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ، اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ، اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ، اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ، حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ، حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃِ، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔

اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول خدا ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول خدا ہیں، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، بہتری کی طرف آؤ، بہتری کی طرف آؤ، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

مؤذن جتنے وقت بھی وہی الفاظ کہے یا سنی ہو مکبر کہا ہے، مگر قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃُ کی جگہ اَقَامَھَا اللّٰہُ وَاَدَامَھَا "خدا نماز کو دائم قائم رکھے" کہیں۔

اذان اور اقامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اذان میں بہ بہت اکیونکہ اس سے دور کے لوگوں کو بلانا اور مطلع کرنا مقصود ہوتا ہے، بخلاف اقامت کے کہ اس سے صرف مسجد ہی کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اذان میں وقف اور سکتے ہوتے ہیں اور اقامت میں نہیں۔

آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو ساعتیں ایسی ہیں جن میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک اقامت نماز کے وقت دوسرے جہاد میں صف بندی کے وقت، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ حِبْتِ قَالَ مُرْعَهْ حِبْ
بَعْدَ التَّكْبِيْرِ مُرْتِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ حَنِيْفًا حِبْ مُسْلِمًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ
صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ
فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ وَاهْدِنِيْ
لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّآ اَنْتَ وَاصْرِفْ
عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّآ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ
تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ مُرْعَهْ حِبْ
ط اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ خَ مُرْدَسْ قَ

ترجمہ: اور جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہو۔ ابن حبان، ترمذی (عن ابی رافعؓ)
تو تکبیر کے بعد یہ کہے۔ مسلم، سنن اربعہ، ابن حبان، ترمذی (عن علیؓ)
میں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اس کی طرف منہ کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، موحد
بن کر، ابن حبان، فرماں بردار ہو کر، اور میں ان میں سے نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ ان خدا میرا رب ہے

فرض نماز شروع کرتے وقت کا دعا

میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام دُنیا کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے، اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام کا) اقرار کرتا ہوں۔ الانعام رکوع ۲۰

اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، تو میرے تمام گناہ بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اور مجھے بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی راہ دکھا، تیرے سوا کوئی بہترین اعمال و اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور مجھے بدترین اعمال اور بدترین اخلاق سے بچالے، تیرے سوا کوئی بدترین اعمال و اخلاق سے بچا نہیں سکتا، میں تیرے لئے حاضر ہوں، اور خدمت کو تیار ہوں، اور تمام بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، اور بُرائی تیری طرف منسوب نہیں، میں تیرے ہی سبب سے موجود ہوں، اور تیری ہی طرف لوٹوں گا۔ تو ہی برکت والا اور برتر ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں (مسلم، سنن اربعہ، ابن حبان، طبرانی عن علیؓ)

خداوندا! مجھ میں اور میری خطاؤں میں ایسی دُوری کردے، جیسی تو نے مشرق و مغرب میں کی ہے، اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولے سے دھودے، (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان عن ابی ہریرہؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ
غَيْرُكَ دَتِ قَ مُسْ ط مَوْمُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا مُرْتِ سَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا
كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا مُرْدِسَ فِيْهِ دَسَ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ
ذُنُوْبِيْ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَنَقِّنِيْ مِنْ خَطِيْئَتِيْ
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ ط وَفِيْ صَلٰوةِ التَّطَوُّعِ دَ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلٰثًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ثَلٰثًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً قَ
اَصِيْلًا ثَلٰثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ قَ سُنِّيْ مِنْ نَّفْخِهٖ
وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ دَقَ حِبَ مُسْ مُصْ سُنِّيْ سُبْحَانَ ذِي
الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ طَسْ

نمازِ فرض و نفل میں ثنا

ترجمہ : اے اللہ ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیرا نام مبارک ہے بلند تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، طبرانی (عن علیؓ) موقوفاً مسلم (عن ابی سعیدؓ) اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لئے بہت تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں (مسلم، ترمذی، نسائی (عن ابن عمرؓ)

اللہ ہی کی تعریف ہے، ایسی تعریف جو بہت پاک اور مبارک ہے (مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن انسؓ)

اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری کر جس طرح تو نے پورب اور پچھم میں دوری کی ہے، اور مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح تو نے کپڑے کو میل کچیل سے پاک وصاف کر دیا۔ (طبرانی (عن سمرۃ بن جندبؓ)

اور نفل نماز میں پڑھے۔ (ابوداؤد (عن جبیر بن مطعمؓ)

اللہ بہت بڑا ہے تین بار کہے۔ اللہ ہی کیلئے بہت تعریف ہے تین بار، میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتا ہوں تین بار، میں شیطانِ مردود کے تکبر، جادو اور وسوسے سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابویعلی، ابن سنی (عن جبیر بن مطعمؓ) میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بادشاہت، غلبہ، بڑائی اور بزرگی والا ہے، (طبرانی فی الاوسط (عن حذیفہؓ)

وَاِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَلْيَقُلِ
الْمَاْمُوْمُ اٰمِيْنَ يُجِبْهُ اللّٰهُ مُ دَ سَ قَ وَاِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ
فَلْيُؤَمِّنِ الْمَاْمُوْمُ فَمَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهٗ تَاْمِيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ خَ مُ وَلَمَّا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اٰمِيْنَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهٗ اَ دَتِ مُصْ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهٗ دَ وَ
كَانَ اِذَا قَالَ اٰمِيْنَ يُسْمِعُ مَنْ يَّلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ دَ
قَ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ قَ وَقَالَ اٰمِيْنَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ط
وَحِيْنَ قَالَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ اٰمِيْنَ ط وَاِذَا
رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ مُ عَهٗ حِبْ مُسْ رَ ثَلَاثًا
رَ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ دَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِيْ خَ مُ دَ سَ قَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ثَلٰثَ
مَرَّاتٍ اَ ط اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ
خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ مُ دَ سَ
سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ مُ دَ سَ رَكَعَ لَكَ
سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ اَبُوْٓءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ هٰذِهٖ
يَدَايَ وَمَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ رَ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَ
الْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْعَظَمَةِ دَ سَ

ترجمہ : اور جب امام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہے، تو مقتدی کو چاہئے کہ آمین کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے (مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

اور جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ بخاری، مسلم (عن ابی ہریرہؓ)

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو اس کی آواز سنی۔ احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابویعلیٰ (عن وائل بن حجرؓ)

اور زور سے کہی۔ ابوداؤد (عن وائل بن حجرؓ)

اور جب آپ آمین کہتے تھے تو جو لوگ پہلی صف میں آپ کے قریب ہوتے تھے، اس کو سن لیتے تھے۔ ابوداؤد، ابن ماجہ (عن ابی ہریرہؓ)

(اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ) اس آواز سے مسجد گونج جاتی تھی۔

اور (کبھی) آپ نے تین بار آمین کہی، طبرانی (عن وائل بن حجرؓ)

آمین اور آمین کہنے والے کی دعا

اور جب وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے تو بعض اوقات رَبِّ اغْفِرْ لِي آمِينَ فرماتے، طبرانی (عن وائل بن حجرؓ)

اور جب رکوع کرتے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بڑا ہے، تین بار کہے، مسلم، سنن اربعہ (عن حذیفہؓ) ابن حبان، حاکم (عن عقبہ بن عامرؓ) بزار (عن ابن مسعودؓ)

اور یہ کم سے کم ہے، ابوداؤد (عن ابن مسعودؓ)

رکوع کی دعائیں

(یا یہ پڑھے):-

اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار، اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، خداوندا مجھے بخش دے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ تین بار کہے، احمد، طبرانی (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

(یا یہ پڑھے) اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے رکوع کیا، اور تجھی پر ایمان لایا اور تیرا ہی فرماں بردار بنا، اور تیرے ہی واسطے میرے کان، آنکھ، گودے، ہڈی اور پٹھے نے عاجزی کی۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن علیؓ)

(یا یہ پڑھے) تو نہایت پاک وصاف ہے، فرشتوں اور روح الامین کا پروردگار ہے۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی۔

(یا یہ کہے) میرا ظاہر و باطن تیرے لئے جھک گیا، اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، اور جو کچھ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ بزار، (عن ابن مسعودؓ)

(یا یہ پڑھے) میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، جو قبلہ، بادشاہت، بڑائی اور بزرگی والا ہے، ابوداؤد، نسائی (عن عوف بن مالکؓ)

شرح : آمین کہنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ زور سے

کہنے کے قائل ہیں، اور امام اعظم ابوحنیفہؒ آہستہ کہنے کے قائل ہیں۔

یعنی تین بار تسبیح کہنا تعدیل ارکان کا ادنیٰ درجہ ہے، اور تعدیل کہتے ہیں سکون و اطمینان سے ہر رکن کے ادا کرنے کو، اور یوں تو ایک دفعہ کے کہنے سے بھی رکوع ادا ہو جائے گا۔

تین مرتبہ تسبیح کہنا ادنیٰ درجہ ہے، پانچ یا سات بار کہنا افضل ہے، اعلیٰ کی کوئی حد نہیں، بعض نے دس بار کہنا بیان کیا ہے، اور بعض نے قیام کے بقدر، اور مظہر نے کہا ہے کہ سات بار کہنا کمال کا انتہائی درجہ ہے، لیکن یہ سب حالتیں تنہائی میں ہیں۔ امام مقتدیوں کی حالت کی رعایت رکھے۔

حضرت سفیان ثوریؒ کہتے ہیں امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحیں پانچ پانچ بار کہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ مُرْعَهٗ ط اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ خَ مُرْتِ سَ دَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ خَ مُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ خَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ خَ دَسَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَ الْمَآءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ مُرْدِتِ قَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ مُرْ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَآءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مُرْدَسَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَآءِ وَاَهْلَ الْكِبْرِيَآءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ط

ترجمہ: اور جب رکوع سے کھڑا ہو تو کہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی (مسلم، سنن اربعہ عن حذیفہ بن الیمانؓ) طبرانی، (عن ابن مسعودؓ)

اے اللہ! ہمارے پروردگار! تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد (عن ابی ہریرہؓ)

قیام کی دعائیں

(یا اس طرح کہے) اے ہمارے پروردگار! اور تیرے ہی لئے تمام تعریف ہے، بخاری مسلم (عن ابی ہریرۃؓ)
(یا اس طرح کہے) اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے، بخاری (عن ابی ہریرۃؓ)
(یا یوں کہے) اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی لئے بہت اور پاک اور مبارک حمد ہے۔ بخاری، ابوداؤد نسائی (عن رفاعۃ بن رافع الزرقیؓ)

(یا یہ پڑھے) اے اللہ! تیرے ہی لئے تعریف ہے، (ایسی تعریف) جو آسمانوں اور زمین کو بھر دے اور اس کے بعد جسے تو بھرنا چاہے (سب کو بھر دے) اے اللہ! مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر، اے اللہ! مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ (عن عبداللہ بن اوفیؓ)

اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے (ایسی تعریف) جو آسمانوں اور زمین کو بھر دے اور اس چیز کو بھر دے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور اس کے بعد جسے تو بھرنا چاہے سب کو بھر دے، اے تعریف اور بزرگی والے تو ہی اس کا مستحق ہے، جو بندہ کہے، اور ہم سب تیرے بندے ہیں، جو چیز تو عطا کرے اس کا منع کرنے والا کوئی نہیں، اور جو چیز تو منع کرے اس کا دینے والا کوئی نہیں اور تیرے قہر سے دولتمند کو اُس کی دولت کچھ نفع نہیں دیتی، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن ابی سعیدؓ)

اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! تیرے ہی لئے تعریف ہے، (اور ایسی تعریف) جو آسمانوں اور زمین کو بھر دے، اور اس چیز کو جو ان کے درمیان میں ہے، اور اس کے بعد جسے تو بھرنا چاہے سب کو بھر دے، (تو ہی) تعریف، بڑائی اور بزرگی کا مستحق ہے۔ جو چیز تو عطا کرے اس کا منع کرنے والا کوئی نہیں، اور تیرے قہر سے دولتمند کو اُس کی دولتمندی کبھی فائدہ نہیں دیتی۔ طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

قیام اور سجدہ کی دعائیں

وَاِذَا سَجَدَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی مُرْعَۃَ رَحِبَ مُسْ ثَلٰثًا
رَوَذٰلِكَ اَدْنَاہُ دَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ
بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ لَآ اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَیْكَ اَنْتَ
كَمَآ اَثْنَیْتَ عَلٰی نَفْسِكَ مُرْعَۃَ اَللّٰھُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ
وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْھِیَ لِلَّذِیْ خَلَقَہٗ وَصَوَّرَہٗ فَاَحْسَنَ صُوَرَہٗ
دَسَ وَشَقَّ سَمْعَہٗ وَبَصَرَہٗ تَبَارَكَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ
مُرْدَسَ خَشَعَ سَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَدَمِیْ وَلَحْمِیْ وَعَظْمِیْ وَعَصَبِیْ رَحِبَ
وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِہٖ قَدَمِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سَ حِبَ

ترجمہ: اور جب سجدہ کرے تو "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" پاک ہے میرا پروردگار عالی شان مسلم، سنن اربعہ (عن حذیفہؓ) بزار، ابن حبان، حاکم (عن عقبۃ بن عامر الجہنیؓ)

تین بار کہنا بزار کی روایت ہے، (عن ابن مسعودؓ) اور یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہے۔ ابوداؤد (عن ابن مسعودؓ)

اے اللہ! تیرے غضب سے تیری رضا کی، اور تیرے سزا دینے سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری پناہ لیتا ہوں، میں تیری تعریف نہیں کرسکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ مسلم، سنن اربعہ (عن عائشہؓ)

خداوندا! میں نے تیرے لئے سجدہ کیا، اور تجھ پر ایمان لایا، اور تیرے آگے گردن تسلیم خم کردی، میرے چہرہ نے اس کے لئے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اور صورت بنائی تو اچھی صورت عطا کی۔ ابوداؤد، نسائی (عن علیؓ)

اور اُس کے کان اور آنکھ بنائی (سبحان اللہ) خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو (سب) بنانے والوں میں بہتر (بنانے والا) ہے۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن علیؓ)

میرے کان، میری آنکھیں، میرا خون، میرا گوشت پوست، میری ہڈیاں، میرے پٹھے (ابن حبان) اور وہ چیز جس کو میرے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں سب پروردگار عالم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ نسائی، ابن حبان (عن جابرؓ)

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوحِ مُدَّسَ سُبْحَانَكَ
اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ خ مُدَّسَ قَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ
كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجُلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ مُدَّ
اَللّٰهُمَّ سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ وَبِكَ اٰمَنَ فُؤَادِيْ اَبُوْٓءُ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَهٰذَا مَا جَنَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ يَا عَظِيْمُ يَا عَظِيْمُ اغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الْعَظِيْمَةَ اِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيْمُ مُسَّ سُبْحَانَ
ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ
الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ
مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ مُسَّ رَبِّ اَعْطِ
نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَ
مَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ مُصَّ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ
نُوْرًا وَّاجْعَلْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ
تَحْتِيْ نُوْرًا وَّاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا مُصَّ

ترجمہ: (اے اللہ) تو نہایت پاک اور مبارک ہے، اور فرشتوں اور روح الامین (جبرئیل) کا پروردگار ہے۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن عائشہؓ)

اے اللہ! ہمارے پروردگار! ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

اے اللہ! میرے تمام گناہ چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ (سب) بخش دے۔ مسلم، ابوداؤد (عن ابی ہریرۃؓ)

اے اللہ! میرے ظاہر و باطن نے تیرے لئے سجدہ کیا، اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ کہ جو کچھ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے بڑی رحمت کرنے والے! اے بڑی (مغفرت کرنے والے!) میری مغفرت کر، کیونکہ بڑے گناہوں کو پروردگار عظیم ہی بخشتا ہے! حاکم (عن ابن مسعودؓ)

پاک ہے ناپاک اور باوشاہت والا، پاک ہے عزت اور غلبہ والا، پاک ہے (وہ) زندہ جو مرتا نہیں میں تیری بخشش کی تیرے عذاب سے اور تیری رضا کی تیری ناراضگی سے، اور تیری تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری ذات بزرگ (و برتر) ہے، حاکم (عن عمرؓ)

اے پروردگار! میرے نفس کو پرہیزگاری عطا کر، اور اس کو پاک کردے، تو ہی اس کا سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز و مالک ہے، اے اللہ! مجھے بخش دے، جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا، اور جو کچھ علانیہ کیا، (ابن ابی شیبہ (عن عائشہؓ)

اے اللہ! میرے دل میں نور کردے، اور میری شنوائی میں نور کردے، اور میری بینائی میں نور کردے، اور میرے آگے نور کردے، اور میرے پیچھے نور کردے، اور میرے نیچے نور کردے، اور مجھے نور عظیم دے، (ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ)

شرح: تقویٰ، پرہیزگاری، حرام چیزوں سے بچنا، حرص و ہوا سے احتراز کرنا ہے، اور نفس کی پاکی دل کی صفائی کا سبب ہوتی ہے، جس وقت نفس خواہشات اور ریاکی آمیزش سے صاف ہوجاتا ہے تو دل فوراً ماسوا اللہ کی آلودگی سے پاک ہوجاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا (الشمس رکوع ۱)

جس نے اپنی روح کو (شرک اور اخلاق بد کی گندگی سے) پاک کیا (وہ) ضرور (اپنی) مراد کو پہنچا، اور جس نے اس کو دبا دیا (وہ) ضرور گھاٹے میں رہا

دبا دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے عیوب کی اصلاح تو کی نہیں بلکہ اس کی گندگی پر خاک ڈال دی تاکہ اس کی فضیحت ظاہر نہ ہو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَفِیْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ سَجَدَ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ سَ دَتِ مُسُ مِرَارًا دَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ مُسُ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِیْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّضَعْ عَنِّیْ بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا لِیْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوٗدَ تِ قَ حِبْ مُسْ مَا وَضَعَ رَجُلٌ جَبْهَتَهٗ لِلّٰهِ سَاجِدًا فَقَالَ یَا رَبِّ اغْفِرْ لِیْ ثَلٰثًا اِلَّا رُفِعَ رَاْسُهٗ وَقَدْ غُفِرَ لَهٗ مَوْمُصْ

ترجمہ: اور (تلاوتِ) قرآن کے سجدہ میں کہے، میرے چہرہ نے اس کے لئے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس کی صورت بنائی، اور اسے اپنی طاقت وقوت سے شنوائی و بینائی بخشی، نسائی، ابوداؤد، ترمذی، حاکم، (عن عائشہؓ)

ابوداؤد نے چند بار کہنا اور زیادہ روایت کیا ہے، (عن عائشہؓ)

حاکم کی روایت میں اس کا اضافہ ہے: "فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ الخ" خدا بڑا ہی بابرکت ہے، جو سب بنانے والوں میں بہتر بنانے والا ہے (عن عائشہؓ)

اے اللہ! اس سجدہ سے میرے لئے اپنے پاس ثواب لکھ دے، اور (اس کے سبب سے) مجھ سے گناہوں کا بوجھ دور کر دے، اور اس کو اپنے پاس میرے لئے ذخیرہ بنا دے، اور اس کو مجھ سے قبول کر لے، جس طرح اس کو تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان حاکم (عن ابن عباسؓ)

کسی شخص نے اپنی پیشانی اللہ کے لئے سجدہ میں رکھ کر یہ نہ کہا۔ اے اللہ! میری مغفرت فرما، تین بار، مگر سر اٹھاتے ہی اس کی مغفرت ہو گئی، موقوفاً، ابن ابی شیبہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

سجدۂ تلاوت

شرح: یعنی جو شخص اللہ کے لئے اپنی پیشانی سجدہ میں رکھ کر تین بار یہ کہتا ہے "اے اللہ میری مغفرت فرما" تو وہ سجدہ سے سر اس حال میں اٹھاتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے

سجدۂ تلاوت میں "سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی" پاک ہے میرا پروردگار عالی شان، پڑھنا بھی کافی ہے، لیکن جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کا پڑھنا بہتر و افضل ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

تلاوتِ قرآن کے سجدے

قرآن مجید میں پندرہ آیتیں ایسی ہیں کہ انھیں پڑھ کر یا سن کر سجدہ کرنا واجب ہے۔
سجدۂ تلاوت کی تعداد اور تعیینِ آیت میں علماء کا اختلاف ہے، حضرت امام اعظمؒ اور امام صاحب کے شاگرد حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک چودہ آیتیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے

ایک سورۂ اعراف میں، رکوع ۲۴

اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَیُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ یَسْجُدُوْنَ ۩

(جو فرشتے) تمہارے پروردگار کے مقرب ہیں (وہ تک بھی) اُس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور اُسی کی تسبیح (و تقدیس) اور اسی کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔

دوسرے سورۂ رعد میں، رکوع ۲

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩

اور جس قدر مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے چار و ناچار سب اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں اور (اسی طرح) صبح و شام اُن کے سائے۔

تیسرے سورۂ نحل میں، رکوع ۶

یَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ ۩

اپنے پروردگار سے جو بالائے عرش ہیں) اُن کے اُوپر ہے (ہمہ وقت) ڈرتے رہتے ہیں اور (اُس کی جناب سے) جو حکم اُن کو دیا جاتا ہے اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔

چوتھے سورۂ بنی اسرائیل میں، رکوع ۱۲

وَیَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ یَبْكُوْنَ وَیَزِیْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩

اور ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے اُن کی عاجزی (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

پانچویں سورۂ مریم میں، رکوع ۵

اِذَا تُتْلٰی عَلَیْهِمْ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِیًّا ۩

جب (جب خدا نے) جن کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں سجدے میں گر پڑتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

چھٹے سورۂ حج میں، رکوع ۲

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِیْرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ ؕ

(اے مخاطب) کیا تو نے (اس بات پر) نظر نہیں کی کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو (مخلوق) زمین میں ہے اور سورج اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے (سب ہی تو خدا کے آگے سربسجود ہیں اور بہت سے آدمی (بھی) اور (آدمیوں میں) بہت سے (ایسے بھی ہیں جن پر) نافرمانی کی وجہ سے عذاب (کا آنا) لازماً ہو چکا ہے۔

وَمَنْ یُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۩

اور جس کو خدا ذلیل کرے تو (پھر) کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں خدا ہی جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔

ساتویں سورۂ فرقان میں، رکوع ۵

وَاِذَا قِیْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا

اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ (خدائے) رحمٰن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمٰن کیا ہے؟ کیا جس کے آگے تم ہمیں (سجدہ کرنے کو) کہو

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا پر

آٹھویں سورۃ نمل میں، رکوع ۲

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ پر

میں نے ملکہ اور اس کے لوگوں کو دیکھا کہ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو انھیں عمدہ کر دکھایا ہے اور اُن کو راہ (راست) سے روک دیا ہے، تو ان کو (اتنی بات بھی) نہیں سُوجھ پڑتی کہ خدا ہی کے آگے (کیوں) نہ سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو کام تم لوگ چھپا کر کرو اور جو علانیہ کرو سب سے واقف ہے۔

اللہ (وہ ذاتِ پاک ہے کہ) اُس کے سوا کوئی معبود نہیں (اور) وہی عرشِ بریں (کے تخت) کا مالک ہے۔

نویں سورۃ (الم) سجدہ میں، رکوع ۲

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ پر

ہماری آیتوں پر تو بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب اُن کو وہ (آیتیں) یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی حمد (وثنا) کے ساتھ تسبیح (و تقدیس) کرنے لگتے ہیں، اور وہ (کسی طرح کا) تکبر نہیں کرتے۔

دسویں سورۃ صٓ میں، رکوع ۲

وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۝ پر

اور اب داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے ان کو صرف جانچا ہے، تو انھوں نے اپنے پروردگار کے آگے (توبہ و) استغفار کی اور سجدے میں گر پڑے، اور (خدا کی طرف) رجوع ہوئے۔

گیارہویں سورۂ حٰمٓ سجدہ میں، رکوع ۵

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ۝ پر

اور (جہاں اور بہت سی نشانیاں ہیں) خدا کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں (تو لوگو!) نہ (تو) سورج کو سجدہ کرنا اور نہ چاند کو اور اگر تم کو خدا کی عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کو سجدہ کرنا جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پس (اے پیغمبر) اگر (یہ لوگ اس پر بھی) غرور کریں تو (خدا کے ہاں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں) جو (فرشتے) تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح (و تقدیس) میں لگے رہتے ہیں اور وہ (کبھی بھی) نہیں اُکتاتے۔

بارہویں سورہ النجم میں، رکوع ۳

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۝ پر — تو خدا کے آگے سجدے کرو اور (اُسی کی) عبادت کرو۔

تیرہویں سورۃ الانشقاق میں، رکوع ۱

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۝ پر — اور جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جائے تو (خدا کے آگے) سجدہ نہیں کرتے۔

چودہویں سورۃ علق میں، رکوع ۱

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ پر — سنو جی! (ہرگز) اس کا کہا نہ مانو اور (بے تامل خدا کی جناب میں) سجدے کرو (یعنی نماز پڑھو) اور قرب (خدا) حاصل کرو۔

حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک بھی چودہ ہی سجدے ہیں، لیکن "سورۃ صٓ" کا سجدہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سورۃ حج کے دو سجدے ہیں، ایک کی آیت تو نمبر ۱ میں مذکور ہو چکی دوسری یہ ہے۔ رکوع ۱۰

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ پر — اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک صرف گیارہ سجدے ہیں سورۃ "النجم" سورۃ "انشقاق" اور سورہ "علق" میں ان کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔

حضرات محدثین کے نزدیک پندرہ آیتوں پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔

جب ان آیتوں میں سے کوئی آیت پڑھے یا سنے تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، حالتِ سواری میں اگر سجدے کی آیت پڑھے یا سنے تو زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرے اور پیدل ہو تو زمین پر۔

حضرت رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم شب کو آیۂ سجدہ پڑھتے تو سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے۔

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ — یعنی میرا منہ اس کے لئے جھک گیا جس نے اُسے بنایا اور اپنی قوت و قدرت کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں پیدا کیں۔

وَاِذَا جَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ دَتِ قَ مُسْ سُنِّيْ وَاجْبُرْنِيْ تِ سُنِّيْ وَارْفَعْنِيْ مُسْ قَ سُنِّيْ وَيَقُوْتُ فِي الْفَجْرِ رَمُسْ مُوْمُصْ وَفِيْ سَائِرِ الصَّلَوٰتِ اِنْ نَزَلَ نَازِلَةٌ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فِي الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهٗ اَدَ

ترجمہ: اور جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو کہے اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے چین دے، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق دے۔ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، البیہقی فی السنن الکبیر (عن ابن عباسؓ)

اور میری گڑی بنا دے۔ ترمذی (عن ابن عباس)

اور مجھے بلند فرما۔ حاکم، ابن ماجہ، البیہقی فی السنن الکبیر (عن ابن عباسؓ)

اور فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھے، بزار، حاکم (عن انسؓ) ابن ابی شیبہ (موقوفاً عن عمرؓ)

اور اگر کوئی مصیبت نازل ہو تو باقی (پانچوں) نمازوں میں بھی (پڑھے) جب (امام فرضوں کی) اخیر رکعت میں "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" خدا نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہے تو اس کے مقتدی آمین کہیں، احمد، ابوداؤد (عن ابن عباسؓ)

شرح: امام شافعیؒ کے نزدیک ہمیشہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، ہاں اگر ضرورت ہو تو صرف صبح ہی کی نماز میں نہیں پانچوں وقت کی نمازوں میں احناف کے نزدیک بھی قنوت (نازلہ) کا پڑھنا جائز اور درست ہے۔

رکوع کے بعد دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قنوت پڑھنا شوافعؒ کا مذہب ہے۔ مگر احناف کے نزدیک دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھے، امام اعظمؒ کے نزدیک ہاتھ باندھ کر قنوت پڑھنا بہتر ہے، امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کر پڑھے اور امام محمدؒ کے نزدیک دعا مانگنے کی طرح ہاتھ اٹھا کر پڑھے۔

امام جب دعائے قنوت پڑھے تو مقتدی امام شافعیؒ کے نزدیک زور سے اور احناف کے نزدیک آہستہ سے آمین کہتے رہیں۔

جلسہ استراحت کی دعائیں، قنوت نازلہ، ہر مصیبت کے وقت فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنا

وَاِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ع سُنِّ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ
الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ
اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مُ عَهْ حِبْ
اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ س وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ مُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ مُ دَ س ق اَلتَّحِيَّاتُ
الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ د بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ
لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ
رَسُوْلُهٗ س ق مُس اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَلزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ
اَلطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ
اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
مُوْمُسْ طَا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرُ الْاَسْمَآءِ اَلتَّحِيَّاتُ اَلطَّيِّبَاتُ
اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى
عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ طٰسٓ

التحیات اور تشہد

ترجمہ: اور جب تشہد کے لئے بیٹھے (تو کہے) زبانی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، سلام آپ پر اے (خدا کے) نبیؐ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صحاح ستہ (عن ابن مسعودؓ) البیہقی فی السنن الکبیر (عن عائشہؓ)

زبانی مبارک عبادتیں اور بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، سلام تم پر اے نبیؐ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمدؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مسلم، سنن اربعہ، ابن حبان (عن ابن عباسؓ)

تمام قولی اور فعلی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، سلام تم پر اے خدا کے نبیؐ اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اُس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (اس روایت میں امام نسائی نے "لَا شَرِيْكَ لَهٗ" اور امام مسلم نے "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ" زیادہ روایت کیا ہے) مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

تمام قولی اور فعلی عبادتیں اور ملک اللہ ہی کے لئے ہے، ابوداؤد (عن سمرۃؓ)

(میں) اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) تمام قولی اور فعلی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں، سلام تم پر اے نبیؐ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمدؐ اس کے بندے اور اسکے رسول ہیں، نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن جابرؓ)

قولی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، نیک اعمال اللہ ہی کے لئے ہیں، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، سلام تم پر اے نبیؐ اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمدؐ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں، حاکم، موطا، موقوفاً (عن ابن عمرؓ)

(میں شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے اور (لفظ) اللہ سے جو تمام ناموں سے بہتر ہے، زبانی اور بدنی اور مالی (سب) عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی (ذات وصفات) میں یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اس کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر (جن کو) اس نے دین حق دے کر (مسلمانوں کو نجات کی) خوشخبری دینے والا اور (کافروں کو عذاب آخرت سے) ڈرانے والا (بنا کر) بھیجا ہے، اور (اس کی کہ) قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں، سلام آپ پر اے (خدا کے) نبی اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اس کی اور سلام ہم پر اور جتنے خدا کے نیک بندے ہیں سب پر، اے اللہ! مجھے بخش دے اور میری رہنمائی فرما، طبرانی فی الاوسط (عن ابن الزبیرؓ)

شرح: یہ تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حنفی حضرات یہی تشہد پڑھتے، اور اس کو تشہد ابن مسعود کہتے ہیں، صلح وہ بندہ ہے جو بندگی کا ایسا حق ادا کرے جیسا اسے حکم دیا گیا ہے، اور اسی پر قائم رہے، اور کسی قسم کا خلل اور فساد اس کے ظاہر و باطن میں راہ نہ پائے۔

حضرت خوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ صلاح اس حالت کو کہتے ہیں جس میں اپنے ارادے کا زوال اور فنا ہو اور حق کی مراد پر قائم ہو۔

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ" کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھانی مسنون ہے اور یہی احناف کا صحیح مذہب ہے۔

اکثر شافعی حضرات اس تشہد کو پڑھتے ہیں اور اس کو تشہد ابن عباس کہتے ہیں۔

یہ تشہد امام مالک کا مختار ہے۔

وَكَيْفِيَّةُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ع اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ خ مُسْ

ترجمہ: آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم پر (اس طرح) درود وسلام الصلوٰۃ بھیجے، (کہ) اے اللہ! محمدؐ پر اور محمدؐ کی آلؑ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیمؑ اور ابراہیمؑ کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بیشک تو ہی تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! محمدؐ اور محمدؐ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیمؑ اور ابراہیمؑ کی آل پر برکت نازل فرمائی، بیشک تو ہی تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے، صحاح ستہ، (عن کعب بن عجرہؓ)

خداوندا! محمدؐ اور آل محمدؐ پر رحمت بھیج جیسی تو نے ابراہیمؑ اور اولاد ابراہیمؑ پر رحمت بھیجی، بیشک تو بہت تعریف کیا گیا ہے بزرگی والا، خداوندا! محمدؐ اور آل محمدؐ پر برکت بھیج جیسی تو نے ابراہیمؑ پر برکت بھیجی، بے شک تو بہت تعریف کیا گیا ہے بزرگی والا، بخاری، مسلم، نسائی (عن کعب بن عجرہؓ)

شرح: صلوٰۃ کے معنی دعا، استغفار اور رحمت کے ہیں۔

صلوٰۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی رحمت نازل فرمانے کے ہوں گے، مثلاً "صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ" اس پر اللہ کی رحمت ہو۔

اور اگر صلوٰۃ کی نسبت بندہ کی طرف ہو تو اس کے معنی درود بھیجنے کے ہوں گے، مثلاً "صَلُّوْا عَلَيْهِ" ان پر درود بھیجو۔

آلؑ کے معنی اولاد، کنبہ، قبیلہ، پیرو

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنے کا طریقہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ خ س اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ خ مُ دس ق حب اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

خ س ق

ترجمہ: الٰہی (حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) پر اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر رحمت بھیجی، بیشک تو تعریف کیا گیا، بزرگ ہے الٰہی حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کو اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کی آل کو برکت دے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو برکت دی، بیشک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ بخاری، نسائی (عن کعب بن عجرہؓ)

الٰہی (حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) پر اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں اور اولاد پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) پر رحمت بھیجی اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کو اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں اور اولاد کو برکت دے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی اولاد کو برکت دی، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان (عن ابی حمید الساعدیؓ) بیشک تو تعریف کیا گیا ہے بزرگ ہے مسلم (عن ابی حمید الساعدیؓ)

الٰہی! حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) پر رحمت بھیج جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل پر رحمت بھیجی، اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کو اور حضرت محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کی آل کو برکت دے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی آل کو برکت دی۔ بخاری، نسائی ابن ماجہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ ؕ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ فِی الْعٰلَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۝ مُدَّتْ س اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ دس کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَبَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ س اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَبَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ ۝ ر

ترجمہ: اے اللہ! حضرت محمدؐ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ پر رحمت نازل فرمائی، اور حضرت محمدؐ اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیمؑ اور آپ کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ (عن ابی سعید الخدریؓ)

اے اللہ! حضرت محمدؐ پر اور حضرت محمدؐ کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیمؑ کی آل پر رحمت بھیجی، اور حضرت محمدؐ کو اور حضرت محمدؐ کی آل کو برکت دے جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ کی آل کو تمام عالم میں برکت دی، بیشک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابن مسعود الانصاریؓ)

خداوندا! حضرت محمدؐ نبی اُمّی پر اور حضرت محمدؐ کی آل پر رحمت بھیج، (ابوداؤد، نسائی (عن ابن مسعود الانصاریؓ)

جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ کی آل پر رحمت بھیجی اور حضرت محمدؐ نبی اُمّی کو برکت دے جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ کو برکت دی، بیشک تو تعریف و بزرگی والا ہے۔ (نسائی (عن ابن مسعود الانصاریؓ)

الٰہی! حضرت محمدؐ پر رحمت بھیج اور حضرت محمدؐ کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ پر رحمت بھیجی اور برکت دی، بیشک تو تعریف کیا گیا ہے بزرگ ہے۔ (بزار (عن ابی ہریرہؓ)

أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتّٰى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِيْ صَلَاتِنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ حَتّٰى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ مُسْ ثُمَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ حِبْ مُسْ أَمَنْ سَرَّهٗ أَنْ يَّكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفٰى إِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهٖ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۵

ترجمہ: ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا (اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے) پھر کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا۔ لیکن جب ہم اپنی نماز میں آپ پر درود بھیجیں تو کس طرح بھیجیں۔ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے پسند کیا کہ یہ شخص آپ سے سوال نہ کرتا (تو اچھا ہوتا) پھر آپ نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو یہ کہو۔

" اے اللہ حضرت محمد نبی اُمّی پر اور حضرت محمد کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر رحمت بھیجی، اور حضرت محمد نبی اُمّی کو اور حضرت محمد کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو برکت دی، بیشک تو ہی تعریف

کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے، ابن حبان، حاکم (عن ابن مسعود الانصاریؓ)

جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جب ہم اہل بیت (نبوت پر) درود بھیجے تو ثواب کو پورے پیمانے سے ناپ لے، اسے یہ کہنا چاہئے:۔

"خداوندا! حضرت محمدؐ پر جو نبی ہیں اور آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیمؑ کی اولاد پر رحمت بھیجی، بیشک تو تعریف و بزرگی والا ہے" ابوداؤد (عن ابی ہریرہؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ رَطْ طَسْ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ
الدُّعَاءِ مَا اَعْجَبَهٗ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ خَ وَلْيَسْتَعِذْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ مُرْعَهْ حِبْ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ
الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ خَ مُ
دَسْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ
وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ
الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مُرْدَتِ سْ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ خَ مُرْتِ سْ قَ

ترجمہ: جو شخص رسول انور صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور کہے اے اللہ ان کو قیامت کے روز اپنے پاس خاص مقام میں اُتار، تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی، بزار، طبرانی فی الاوسط والکبیر (عن رویفع بن ثابتؓ)

پھر جو دُعا اسے پسند ہو وہ مانگے، بخاری (عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

تشہد اور درود کے بعد کی دعائیں

اور (اس طرح) پناہ مانگے، اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، دوزخ کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائش (فتنہ) سے اور کانے دجال کے فتنہ کی برائی سے، مسلم، سنن اربعہ، ابن حبان (عن ابی ہریرہؓ)

الٰہی! میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں، خداوند میں گناہ اور قرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن عائشہؓ)

اے اللہ! مجھے بخش دے، جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا، اور جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ علانیہ کیا، اور جو کچھ میں نے فضول خرچی کی اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، (عن علیؓ)

الٰہی! میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو اپنی (خاص) بخشش سے مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، بیشک تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی بکر الصدیقؓ)

شرح: فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں، زندگی کا فتنہ، راہ حق سے پھر جانا، صبر کا نہ ہونا، راضی برضا نہ رہنا، اور دنیا کی بلاؤں، اور آفتوں میں گرفتار ہو جانا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ خاتمہ بخیر نہ ہو موت کا فتنہ جانکنی کے وقت شیطان کا وسوسہ ڈالنا، اس کی سختی، قبر کا عذاب، منکر نکیر کا سوال ہے۔

مسیح کے معنی مٹے ہوئے کے ہیں، یعنی اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔

دجال، مکار، دجل کا مبالغہ ہے۔ جس کے معنی خلط کرنا اور فریب دینا ہے۔

(ایک مرتبہ) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا سکھلایئے کہ میں اسے اپنی نماز میں پڑھا کروں، تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی، مشکوٰۃ

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم کی بعض روایتوں میں لفظ "کَبِیْرًا" بار موحدہ کے ساتھ بھی آیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دعا کرنے والا دونوں لفظوں کو جمع کرلے، اور کہے:۔

"اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَبِیْرًا کَثِیْرًا" یعنی میں نے اپنی جان پر بہت ہی بڑے مظالم کئے ہیں۔

اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کبھی "کَبِیْرًا" بار موحدہ کے ساتھ اور کبھی "کَثِیْرًا" ثاء مثلثہ کے ساتھ کہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ یَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ
یُوْلَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ دَس مُس اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِیْ حِسَابًا یَّسِیْرًا
مُس اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ وَ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ مُ وَلْیَقُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْاَلُكَ مِنَ الْخَیْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْاَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا سَاَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً
وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَآ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا
عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ مُو
مُص سَیِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ یَّقُوْلَ الرَّجُلُ اِذَا جَلَسَ فِیْ
صَلٰوتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا
عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِیْ
فَاغْفِرْ لِیْ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ رَ

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ! تنہا، بے نیاز، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ماں باپ اور نہ کوئی ہمسر ہے، کہ تو میرے گناہ بخش دے، بیشک تو بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، (ابوداؤد، نسائی، حاکم (عن محجن بن الادرع الاسلمیؓ)

خداوندا! تو مجھ سے آسانی سے حساب لینا، حاکم (عائشہؓ)

الٰہی! میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور کانے دجّال کے فتنہ سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم (عن ابن عباس)

اور یہ کہنا چاہیے الٰہی! میں تجھ سے ہر قسم کی بہتری چاہتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ میں نہیں جانتا، الٰہی! میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے، اور اس بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے، اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے پروردگار! ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمیں عذابِ دوزخ سے بچا، اے ہمارے پروردگار! جیسے (جیسے نعمتوں کے) وعدے اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے فرمائے ہیں ہم کو نصیب کر، اور قیامت کے دن ہم کو رُسوا نہ کیجیو، تو (کبھی) وعدہ خلافی تو کیا ہی نہیں کرتا۔

سیدالاستغفار یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں بیٹھے تو یہ پڑھے، اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور بقدر استطاعت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی بُرائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہ کا معترف ہوں پس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ بزار (عن بریدہؓ)

وَاِذَا سَلَّمَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ خ مُدَّ سَ رَطَ ی اَوْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ خ سَ اَوْ مَرَّةً وَبَعْدَهٗ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَآءُ الْحَسَنُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

مُدَّ سَ مُصْ

ترجمہ: اور جب سلام پھیرے تو کہے، خدا کے سوا کوئی قابلِ پرستش نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اور اسی کے لئے تعریف ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اسی کے قبضہ میں بھلائی اور خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خداوندا! جو چیز تو عطا کرے اس کا منع کرنے والا کوئی نہیں، اور جو چیز تو نہ دے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے قہر سے دولتمند کو اس کی دولت کبھی نفع نہیں دیتی۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، بزار، طبرانی، ابن سنی (عن المغیرۃ بن شعبہ رضؓ)

یا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے سلطنت اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تین بار کہے۔ بخاری، نسائی، (عن المغیرۃؓ)

یا ایک مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ پڑھے، طاقت اور قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لئے نعمت ہے، اسی کے لئے فضل ہے، اور اسی کے لئے اچھی تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تو خالص اسی کے قانون کو ماننے والے ہیں، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن عبداللہ بن الزبیرؓ)

نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی دعائیں

اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ مُرَّعَهٗ طَ ی سُبْحَانَ اللّٰہِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ لِيَكُوْنَ مِنْھُنَّ كُلِّھِنَّ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ مَرَّةً خ مُرَّسَ اِحْدٰی عَشْرَةَ وَاِحْدٰی عَشْرَةَ وَاِحْدٰی عَشْرَةَ فَذٰلِكَ كُلُّهٗ ثَلٰثٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ مُ اَوْ عَشْرًا عَشْرًا خ مَنْ سَبَّحَ اللّٰہَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰہَ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰہَ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

مُ دَ سَ

ترجمہ: تین بار "اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ" میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، (پڑھے اور کہے) الٰہی! تو ہی سلامتی والا ہے، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تو بڑا بابرکت ہے، اے بزرگی و بخشش والے، مسلم، (عن ثوبانؓ و عائشہؓ) سنن اربعہ (عن ثوبانؓ) طبرانی (عن ابن عمرؓ) ابن سنی (عن ثوبان و عائشہؓ)

اور "سُبْحَانَ اللّٰہِ" پاک ہے اللہ "وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ" اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، "وَاللّٰہُ اَكْبَرُ" اور اللہ بہت بڑا ہے، (پڑھے کہ) ان میں سے ہر ایک تینتیس مرتبہ ہو جائے، بخاری مسلم، نسائی (عن ابی ہریرہؓ)

(یا) گیارہ بار - "سُبْحَانَ اللّٰہِ" گیارہ بار "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" گیارہ بار - "اَللّٰہُ اَكْبَرُ" (پڑھے) تو یہ سب تینتیس بار ہوئے۔ مسلم (عن ابی ہریرہؓ)

یا دس بار "سُبْحَانَ اللّٰہِ" دس بار "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" دس بار "اَللّٰہُ اَكْبَرُ" (پڑھے) بخاری (عن ابی ہریرہؓ)

جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تینتیس ۳۳ بار "سُبْحَانَ اللّٰہِ" اور تینتیس ۳۳ بار "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ" اور تینتیس ۳۳ بار "اَللّٰہُ اَکْبَرُ" کہے پھر سو ۱۰۰ پورا ہونے کے لیے "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ" (خدا کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اور وہی مستحق تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے) پڑھے، تو اس کی خطائیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں بخش دی جائیں گی مسلم، ابوداؤد نسائی (عن ابی ہریرۃؓ)

شرح: علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صِلْكَ السَّلَامُ کے بعد اِلَیْكَ یَرْجِعُ السَّلَامُ حَیِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ اور بَارَکْتَ کے بعد رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ کی کچھ اصل نہیں

toobaa-elibrary.blogspot.com

مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوبَةٍ
ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُونَ تَسْبِيحَةً وَّثَلٰثٌ وَّثَلٰثُونَ تَحْمِيدَةً وَّأَرْبَعٌ وَّثَلٰثُونَ
تَكْبِيرَةً مُرْتِ س مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَّكْتُوبَةٍ
مِّائَةً وَّكَبَّرَ مِائَةً وَّهَلَّلَ مِائَةً وَّحَمِدَ مِائَةً غُفِرَ لَهُ
ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ س أَوْ مِنْ كُلِّ
خَمْسًا وَّعِشْرِينَ س حِبْ مُسْ أَوْ مِنْ كُلٍّ مِّنَ التَّسْبِيحِ
وَالتَّحْمِيدِ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِينَ وَالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًا وَّثَلٰثِينَ وَلَا إِلٰهَ
إِلَّا اللّٰهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ تِ س أَوْ كَذٰلِكَ وَالتَّكْبِيرُ ثَلٰثًا
وَّثَلٰثِينَ س أَوْ مِنْ كُلٍّ مِّنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ
إِحْدٰى عَشْرَةَ مِائَةٌ مَعَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَوْ كَانَتْ خَطَايَاهُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
لَمَحَتْهَا آ

ترجمہ: نماز کے بعد چند کلمات پڑھے جاتے ہیں، جن کا ہر فرض نماز کے بعد کہنے یا کرنے والا ثواب سے محروم نہیں رہتا اور وہ یہ ہیں "تینتیس بار "سُبْحَانَ اللّٰهِ" تینتیس بار "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" چونتیس بار "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" (مسلم، ترمذی، نسائی، (عن کعب بن عجرۃ)

جو شخص ہر نماز فرض کے بعد سو مرتبہ "سُبْحَانَ اللّٰهِ" سو مرتبہ "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" سو مرتبہ "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" سو مرتبہ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" کہے (تو) اس کے گناہ اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں بخش دیئے جائیں گے۔ نسائی (عن زید بن ثابتؓ)

یا ہر ایک کو پچیس مرتبہ (پڑھے) نسائی، ابن حبان، حاکم، (عن زید بن ثابتؓ)

یا "سُبْحَانَ اللّٰهِ" اور "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" میں سے ہر ایک کو تینتیس بار اور "اَللّٰهُ اَكْبَرُ"

چونتیس بار اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ دس بار کہے، ترمذی، نسائی (عن ابن عباسؓ)
یا اسی طرح پڑھے اور تکبیر بھی تینتیس بار کہے، نسائی (عن ابن عباسؓ)
یا سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ ہر ایک کو تو تو مرتبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ پڑھے۔ اللہ ہی کے لئے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور طاقت و قوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔
(تو) اگر اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گی تو یہ کلمات ان کو مٹا دیں گے۔ احمد (عن ابی ذرؓ)

شرح: اس حدیث کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ ان کلمات کو تین سو مرتبہ پڑھ کر ایک مرتبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الخ پڑھ لے، دوسرے یہ کہ ہر کلمہ کے سو مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الخ پڑھے، پہلی صورت میں لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الخ ایک مرتبہ اور دوسری صورت میں تین مرتبہ ہوگا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاٰيَةُ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ سَ حِبْ ىَ كَانَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ اِلَى الصَّلٰوةِ الْاُخْرٰى ط وَلْيَقْرَءُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ تِ دَ سَ حِبْ مُسْ مَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ خَ تِ سَ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ عَوْمُ عَهٗ

ترجمہ: اور ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی :۔

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ) اُس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ (کارخانہ عالم کا) سنبھالنے والا نہ اُس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں (کسی کی) سفارش کرے جو کچھ لوگوں کو پیش (آرہا) ہے (وہ) اور جو کچھ اُن کے بعد (ہونے والا) ہے (وہ) اُس کو (سب) معلوم ہے اور لوگ اُس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے، اُس کی کرسی سلطنت آسمان وزمین (سب) پر پھیلی ہوئی ہے، اور آسمان وزمین کی حفاظت اس پر (مطلق) گراں نہیں اور وہ (بڑا) عالیشان (اور) عظمت والا ہے۔

پڑھے (کہ اس کے پڑھنے والے کو) جنت میں داخل ہونے سے (صرف) یہی بات مانع ہے کہ وہ مرجائے۔ نسائی، ابن حبان، ابن سنی (عن ابی امامۃ الباہلیؓ)

(اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ) ہر نماز فرض کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والا ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہے۔ طبرانی (عن الحسن بن علیؓ)

اور ہر فرض نماز کے بعد قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن سنی (عن عقبۃ بن عامرؓ)

خداوندا! میں بزدلی سے اور نکمی عمر کی طرف لوٹ جانے سے اور دنیاوی فتنے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری، ترمذی، نسائی (عن سعدؓ)

اے میرے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے بچا جس روز کہ تو (اپنے بندوں کو قبر سے) اٹھائے۔ مسلم۔ سنن اربعہ۔ (عن البراء بن عازبؓ)

یا اپنے بندوں کو جمع کرے۔ ابوعوانہ، مسلم، سنن اربعہ (عن البراء بن عازبؓ)

شرح: یعنی ہر فرض کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ جس وقت وہ مرے گا فوراً جنت (یعنی قبر) میں داخل ہو جائے گا، جو جنت کا ایک باغ ہے، جیسا ارشاد نبوی ہے اَلْقَبْرُ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ اَوْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اور اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ میں لفظ "اَوْ" اختیار کے لئے ہے، کہ کبھی اَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اور کبھی اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ پڑھے، یا راوی کا شک ہے کہ اسے یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے لفظ تَبْعَثُ عِبَادَكَ فرمایا، یا تَجْمَعُ عِبَادَكَ فرمایا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ عَوْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ
جِبْرَئِیْلَ وَمِیْكَائِیْلَ وَاِسْرَافِیْلَ اَعِذْنِیْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ
الْقَبْرِطَسْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ
وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ
وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ دَمُتِ حِبْ اَللّٰهُمَّ
اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ دَسَرِحِبْ
مُسْ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اَنَا شَهِیْدٌ اَنَّكَ الرَّبُّ
وَحْدَكَ لَاشَرِیْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اَنَا شَهِیْدٌ
اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اَنَا شَهِیْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ اِجْعَلْنِیْ مُخْلِصًا لَّكَ وَاَهْلِیْ فِیْ كُلِّ
سَاعَةٍ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ
وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حَسْبِیَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سَ دَیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ
الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ سَ مُسْ مُصْ یٰ

ترجمہ: اے اللہ! مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ہدایت دے، اور رزق عطا کر۔ ابوعوانہ (عن سعد)

اے جبرئیل اور میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار مجھے دوزخ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے پناہ دے، طبرانی فی الاوسط۔ (عن عائشہؓ)

الٰہی! میرے اگلے پچھلے، کھلے چھپے اور میری فضول خرچی اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما، تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ابوداؤد، مسلم، ترمذی، ابن حبان (عن علیؓ)

خداوندا! اپنے ذکر و شکر اور اپنی بہترین عبادت پر میری مدد کر۔ ابوداؤد، نسائی، ابن حبان (عن معاذ بن جبلؓ)

اے اللہ! ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے پالنے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک تو اکیلا پالنے والا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ! ہمارے پالنے والے اور ہر چیز کے پالنے والے، میں گواہ ہوں کہ بیشک محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے پیغمبر ہیں اے اللہ! ہمارے پالنے والے اور ہر چیز کے پالنے والے میں گواہ ہوں کہ بیشک سارے بندے بھائی بھائی ہیں، اے اللہ! ہمارے پالنے والے اور ہر چیز کے پالنے والے، مجھے اور میرے متعلقین کو دنیا اور آخرت میں ہر وقت مخلص رکھ، اے عظمت اور بزرگی والے سن اور قبول کر، اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا، اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا۔ نسائی، ابوداؤد، ابن سنی (عن مبن تمیم)

خدایا! میں کفر و محتاجی اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

شرح: "مَا أَسْرَفْتُ" کے معنے میری اپنے نفس پر زیادتی الٰہی ہو سکتے ہیں، یعنی جو کچھ میں نے گناہ کر کے اپنے حقوق وغیرہ دبا کر زیادتی کی ہے۔

حسن عبادت سے یہ مراد ہے کہ عبادت اپنے پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا ہو اور اس میں عاجزی، انکساری اور فروتنی حاصل ہو، اور وہ مقام حاصل ہو جس کے متعلق ارشاد ہے:۔

"اُعْبُدِ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"

یعنی عبادت میں اللہ کا اس طرح حضور ہونا چاہئے گویا وہ تمہارے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ! میں تم کو دوست رکھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی آپ سے بے انتہا محبت ہے اور میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دعا "اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ" ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا مت۔

"مُتَمِّمْ لَنَا" سے یہ مراد ہے کہ تمام امور متعلقین کی زندگی کا ہر لمحہ تیری عبادت اور طاعت میں بسر ہو اور کوئی کام دین کا یا دنیا کا تیری مرضی کے خلاف نہ ہو۔

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِیْ دِیْنِیَ الَّذِیْ جَعَلْتَهٗ عِصْمَةَ اَمْرِیْ وَاَصْلِحْ لِیْ
دُنْیَایَ الَّتِیْ جَعَلْتَ فِیْهَا مَعَاشِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ
مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِّقْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ
لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَآدَّ لِمَا قَضَیْتَ
وَلَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ
خَطَئِیْ وَعَمَدِیْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ
لَا یَهْدِیْ لِصَالِحِهَا وَلَا یَصْرِفُ سَیِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ رَ اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ عَوْمُسْ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ خَطَایَ وَذُنُوْبِیْ كُلَّهَا اَللّٰهُمَّ انْعَشْنِیْ وَ
اَحْیِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَاهْدِنِیْ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ
اِنَّهٗ لَا یَهْدِیْ لِصَالِحِهَا وَلَا یَصْرِفُ سَیِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ مُسْ
طَیَ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِیْ دِیْنِیْ وَوَسِّعْ لِیْ فِیْ دَارِیْ وَبَارِكْ
لِیْ فِیْ رِزْقِیْ اَطَصِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
صِیَ وَكَانَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰی وَفَرَغَ
مِنْ صَلَاتِهٖ مَسَحَ بِیَمِیْنِهٖ عَلٰی رَاْسِهٖ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ

toobaa-elibrary.blogspot.com

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ رَطَسٰی

ترجمہ: اے اللہ! میرا دین سنوار دے جس کو تو نے میرے ہر کام کی پشت پناہ بنایا ہے، اور میری دنیا سُدھار دے جس میں تو نے میری معاش مقرر کی ہے۔ اے اللہ! میں تیری رضا کی تیرے غصہ سے اور تیری عافیت کی تیری سزا سے اور تیری تجھ سے پناہ لیتا ہوں، جو چیز تو عطا کرے اس کا منع کرنے والا کوئی نہیں اور جس چیز کو تو نہ دے اس کا دینے والا کوئی نہیں، اور تیرا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، اور تیرے قہر سے دولتمند کو اس کی دولتمندی کبھی نفع نہیں دیتی۔ نسائی، ابن حبان (عن مسلم بن الحارث)

خدایا! میری دانستہ اور نادانستہ (سب) خطائیں بخش دے، اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت کر، تیرے سوا نہ کوئی نیک کاموں اور اچھی عادتوں کی ہدایت کرتا ہے اور نہ بُری باتوں سے روکتا ہے۔ بزار (عن ابن عمرؓ)

اے اللہ! میں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور کانے دجال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوعوانہ، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

خدایا! میری تمام خطائیں اور گناہ بخش دے اور میرا مرتبہ بلند کر، اور مجھے تندرستی دے، اور رزق عطا فرما، اور نیک کاموں اور اچھی عادتوں کی ہدایت کر، کیونکہ تو ہی نیک باتوں کی ہدایت کرتا ہے، اور بُری باتوں کو دور کرتا ہے (تیرے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں!) حاکم، (عن ابی ایوبؓ) طبرانی، ابن سنی (عن ابی امامۃ الباہلیؓ)

خدایا! میرا دین سنوار دے، اور میرے گھر میں وسعت دے، اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ احمد، طبرانی، ابویعلی موصلی (عن ابی موسیٰؓ)

(اے پیغمبر) جیسی جیسی باتیں (یہ لوگ خدا کے بارے میں) بناتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار پاک ہے (کہ وہ) عزت والا (ہے) اور پیغمبروں پر (درود اور) سلام اور سب تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ ابویعلی، ابن سنی (عن ابی سعید الخدریؓ)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ سر پر پھیرتے اور فرماتے (میں) اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمٰن و رحیم ہے اے اللہ! میرا رنج و غم دور فرما دے، بزار، طبرانی فی الاوسط، ابن سنی (عن انسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَدُبُرَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَهُوَ ثَانٍ رِّجْلَيْهِ تِ س طَسٓ ے
قَبْلَ اَنْ تَتَكَلَّمَ تِ س لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ س اَلْخَيْرُ طَسٓ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ تِ س مِائَةَ مَرَّةٍ
طَسٓ ی اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَّعِلْمًا نَّافِعًا وَّ
عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا صَطٰی

ترجمہ: صبح کی نماز کے بعد قعدہ کی طرح دونوں پیٹھے ہوئے، ترمذی، نسائی، طبرانی فی الاوسط ابن سنی، بات چیت کرنے سے پہلے۔ ترمذی، نسائی۔ (عن ابی امامہؓ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے تعریف ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی خیر و بھلائی کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دس بار۔ ترمذی نسائی (عن ابی ذرؓ) دیا، سو بار پڑھے۔ طبرانی فی الاوسط، ابن سنی (عن ابی امامہؓ)

"بیدہ الخیر" کے الفاظ نسائی اور طبرانی نے اوسط میں روایت کئے ہیں۔

خدایا! میں تجھ سے پاک رزق، نفع دینے والا علم، اور مقبول عمل چاہتا ہوں۔ طبرانی فی الصغیر ابن سنی (عن ام سلمہؓ)

صبح کی نماز کے بعد کی تسبیحات

شرح: "وَهُوَ ثَانٍ رِّجْلَيْهِ" وہ اپنے دونوں پاؤں موڑے ہوئے ہو یعنی جس طرح نماز کے اندر جلسہ اور قعدہ کے لئے بیٹھتے ہیں، جو شخص صبح اور مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح بیٹھے ہوئے کسی قسم کی بات چیت کرنے سے پہلے یہ دعا دس بار پڑھے گا، تو اس کے واسطے ہر کلمہ کے عوض میں بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دس برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور اس کے دس درجے بلند کئے جاتے ہیں، اور اس دن اور رات میں ہر برائی، اور شیطان کے وسوسہ سے محفوظ رہے گا، اور کوئی ایسا گناہ سر زد نہ ہوگا، جو اسے ہلاک کر دے بجز شرک کے، اور یہ شخص عمل میں سب سے بہتر ہوگا، بجز اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ اس دعا کو پڑھا ہو انسائی کی روایت میں ہے کہ ہر کلمہ کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَدُبُرَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ جَمِيْعًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ تٍ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ اَطْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ سَ حِبْ اَطْ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ وَيَثْنِيْ رِجْلَيْهِ مِنْهُمَا اَوْ بَعْدَ صَلَاتِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ اَيْضًا قَبْلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ دَسَ حِبْ

ترجمہ: اور مغرب اور صبح دونوں کی نماز کے بعد

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ غدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۔ ترمذی اسی کی بادشاہت ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے،
يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ، احمد، طبرانی خیر و بھلائی اسی کے قبضہ میں ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

دس مرتبہ پڑھے، نسائی، ابن حبان، احمد، طبرانی (عن ابی ایوب الانصاریؓ)

احمد اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ دونوں نمازوں سے پیشتر اور اپنے دونوں پاؤں پھیرنے سے پہلے پڑھے (عن عبد الرحمٰن بن غنمؓ)

یا صبح اور مغرب کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے پہلے سات بار (یہ) پڑھے، تو ایسا مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا۔ ابوداؤد، نسائی، ابن حبان (عن مسلم بن الحارثؓ)

صبح اور مغرب کی نماز کے بعد کی دعائیں

شرح: یعنی جب نماز صبح یا نماز مغرب سے فارغ ہو تو اٹھنے سے پہلے اسی طرح بیٹھے ہوئے یہ دعا پڑھ لے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَبَعْدَ صَلٰوةِ الضُّحٰى اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ وَاِذَا دُعِيَ اِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ مُدَّتِ سَ وَلَا سِيَّمَا وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ دَقَ عَوْ

نماز چاشت کے بعد کی دعا

دعوت کا قبول کرنا

ترجمہ: اور نماز چاشت کے بعد کہے، الٰہی میں تیری ہی مدد سے ارادہ کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے دشمن پر حملہ کرتا ہوں، اور تیری ہی مدد سے جہاد میں لڑتا ہوں، ابن سنی (عن صہیبؓ)

جب کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیئے } مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرہؓ)

خاصکر شادی کے ولیمہ کی۔ } ابوداؤد، ابن ماجہ، ابوعوانہ (عن ابن عمرؓ)

ولیمہ

دعوت ولیمہ

شرح: دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، اور کھانا کھانے میں اختیار ہے، اگر دعوت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو شرکت کرنا سنت ہے، اور اگر دعوت میں لہو ولعب ہو تو اس میں نہ جانا مستحب ہے۔

ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں کہ دولہا یا دلہن عقد نکاح یا زفاف پر دعوت کریں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے، مگر صحیح یہی ہے، کہ ولیمہ کا کھانا خاوند کی حیثیت کے موافق ہو۔

ولیمہ کے قبول کرنے کو بعض نے واجب اور بعض نے فرض کفایہ کہا ہے، لیکن اس کی چند شرطیں ہیں، شبہ کا کھانا نہ ہو، خاص تونگروں ہی کی دعوت نہ ہو، بڑائی جتانا مقصود نہ ہو، دعوت میں خلاف شرع کوئی بات نہ ہو ورنہ اس کا قبول نہ کرنا مستحب ہے۔

ولیمہ کے وقت میں اختلاف ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ دو دن سے زیادہ گزر جانے کے بعد ولیمہ کرنا مکروہ ہے، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر خاوند تونگر ہو تو ایک ہفتہ تک کر سکتا ہے، یعنی سات دن تک تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلاتا رہے۔

چونکہ نماز کی تمام دعائیں مذکور ہو چکی ہیں اس لئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ نماز کے اوقات اس کے شرائط اور اس کا طریقہ بھی لکھ دیں تاکہ پوری پوری سہولت حاصل ہو جائے۔

نماز کے اوقات

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

(ہود۔ رکوع ۱۰)

اور (اے پیغمبر) دن کے دونوں سرے (یعنی صبح اور شام) اور اول شب نماز پڑھا کرو کیونکہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں جو لوگ ذکر الٰہی کرنے والے ہیں ان کے حق میں یہ ارشاد فرمانا ایک طرح کی یاد دہانی ہے۔

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

(بنی اسرائیل رکوع ۹)

(اے پیغمبر) آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی) نمازیں پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی (کیونکہ) نماز صبح کا وقت نور ظہور کا وقت ہے اور رات کے ایک حصے میں (نماز) تہجد بھی پڑھا کرو (اور نمازیں تو فرض ہیں اور یہ) تمہاری (نماز) نفل رہے، عجب نہیں کہ (اس کی برکت سے) تمہارا پروردگار قیامت کے دن) تم کو مقام محمود میں پہنچائے۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

(الروم رکوع ۲)

پس جس وقت تم لوگوں کو شام ہو اور جس وقت تم کو صبح ہو اللہ کی تسبیح (و تقدیس) کرو اور آسمان و زمین میں وہی اللہ تعریف کے لائق ہے اور (نیز) تیسرے پہر اور جب تم لوگوں کو دوپہر ہو (اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو)

سورج کے ڈھلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، مگر جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کو چھوڑ کر اُس کے برابر ہو جائے تو یہ (امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک) ظہر کا اخیر اور عصر کا اول وقت ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کو چھوڑ کر دوگنا ہو جائے تو یہ ظہر کا اخیر اور عصر کا اول وقت ہے، اور جب تک سورج غروب نہ ہو عصر کا اخیر وقت ہے، مگر بعض ائمہ کے نزدیک جب تک سورج زرد نہ پڑے اور خوب صاف چمکتا رہے عصر کا اخیر وقت ہے، سورج کے ڈوب جانے پر مغرب کا اول وقت اور شفق کی سُرخی چھپنے تک اس کا اخیر وقت ہے۔

شفق کے معنے میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک شفق وہ سُرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف رہتی ہے، اور امام اعظم کے نزدیک شفق وہ سفیدی ہے جو

سُرخی کے بعد افق میں پھیلی ہے

عشاء کا اول وقت، شفق غائب ہونے سے صبح کی پو پھٹنے تک ہے، فجر کا وقت صبح کی پو پھٹنے سے شروع ہوتا اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔

ایک دن جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور نماز کے اوقات دریافت کئے، آپ نے فرمایا کہ تو دو روز ہمارے ساتھ نماز پڑھ لے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فجر کی پو پھٹتے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، اور نماز ادا کی، اس وقت لوگ باہم ایک دوسرے کو جھٹ پٹے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتے تھے، پھر سورج ڈھلا تو ظہر کی نماز پڑھی، اس وقت بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی دوپہر ہی ہے، حالانکہ جناب رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات سب سے بہتر جانتے تھے اس کے بعد جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا، اور ہنوز سورج بہت بلند تھا، آپ نے عصر کی نماز ادا کی اور آفتاب خوب ہوا تو نماز مغرب پر کھڑے ہوئے، ازاں بعد شفق غائب ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھی، دوسرا دن ہوا تو آپ نے صبح کی نماز اُس وقت پڑھی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی نے کہا سورج نکل آیا اور کسی نے کہا نہیں بلکہ نکلنے کے قریب ہے، اور ظہر کی نماز میں یہاں تک تاخیر کی کہ ہر چیز کا سایہ اس کے قریب قریب پہنچ گیا تھا، عصر کی نماز میں اس قدر دیر کی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کوئی کہتا تھا کہ سورج زرد پڑ گیا، اور کوئی کہتا تھا کہ زرد پڑنے کے قریب ہے اور جب شفق غالب ہونے والی تھی تو مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز میں یہاں تک دیر کی کہ رات کے نصف اوّل کا تہائی حصہ گذر چکا تھا، تیسری صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلا کر فرمایا کہ اوقاتِ نماز ان وقتوں میں دائر ہیں۔

نماز کے شرائط و ارکان

جس کپڑے پر نماز پڑھی جائے نجاست سے پاک اور ستھرا ہو، سارا جسم پاک ہو، نماز کی جگہ ستھری صاف ہو، استقبال کعبہ اوقات نماز میں نماز پڑھنا، جس وقت کی نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کرنا اور نیت سے مراد ہے ارادہ، نماز شروع کرتے وقت اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہنا، کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیونکہ معذور کو قیام معاف ہے، نماز کی ہر رکعت میں قرأۃ پڑھنا، اگر قرآن مجید میں سے کچھ یاد نہ ہو تو سبحان اللہ الحمد للہ، پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یکے بعد دیگرے دو سجدے کرنا، دونوں سجدوں کے بیچ میں قاعدے بیٹھنا، آخر رکعت میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے لئے بیٹھنا، دائیں بائیں سلام پھیرنا، بعض حدیثوں سے جو خشوع و خضوع کا شرط نماز ہونا مفہوم ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر خشوع و خضوع نماز کامل نہیں ہوتی، یعنی خشوع و خضوع اصل نماز کے رکن نہیں ہیں بلکہ کامل اور

پوری نماز کے لئے ضروری ہے، ستر عورت بھی شرطِ نماز ہے، اور عورت سے مراد ہے جسم کا وہ حصہ جس کا کھولنا شرعاً ناجائز ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات میں لکھتے ہیں:۔

سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلٰوةِ وَاِنْ كَانَ فِيْ مَكَانٍ خَالٍ وَفِيْ غَيْرِ حَالَةِ الصَّلٰوةِ يَجِبُ سَتْرُهَا عَنْ اَعْيُنِ النَّاسِ وَمِنْ يُحْرُمُ نَظَرُهٗ ۔	ستر چھپانا صحت نماز کے لئے شرط ہے، گو آدمی خالی مکان میں کیوں نہ ہو، اور نماز کے علاوہ ستر کا ڈھانکنا واجب ہے۔

نماز میں مرد کے لئے زانو سے ناف تک عورت ہے، یعنی اُسے زانو سے ناف تک ڈھانکنا فرض ہے، اسی طرح لونڈی کو زانو سے ناف تک اور پیٹ، پیٹھ ڈھانکنا فرض ہے، مگر آزاد عورت کو چہرے اور ہاتھ کے پونچوں کے علاوہ سارا بدن ڈھانکنا فرض ہے، اگر نماز میں اس جسم کا کوئی حصہ کھلا رہے گا تو نماز درست نہ ہوگی، نماز کے علاوہ نامحرموں یعنی ان اجنبیوں سے ستر عورت کرنا واجب ہے جن سے شرعاً نکاح کرنا جائز ہو۔

رُکن اس کو کہتے ہیں جو ماہیت میں داخل ہو اور شرط وہ ہے جو ماہیت سے خارج ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں مگر چونکہ رُکن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی جو کبھی ساقط نہیں ہوتا دوسرا زائد جو کبھی ساقط بھی ہو جاتا ہے جیسے قرأت کہ مقتدی سے ساقط ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے ایک حالت میں اس کو رُکن کہا اور دوسری میں شرط سے تعبیر کیا۔

استقبالِ قبلہ و ترکیب نماز

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ط (بقرۃ ع ۱۵)	اور (اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ) ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔
قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ط (بقرۃ ع ۱۷)	(اے پیغمبر حکم تحویل قبلہ کے انتظار میں) تمہارا منہ پھیر پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں تو گھبراؤ نہیں، جو قبلہ تم چاہتے ہو ہم تم کو اسی کی طرف پھیر جانے کا حکم دیں گے (اچھا) تو اب (نماز پڑھتے وقت مسجد محترم (یعنی کعبہ) کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو اور (مسلمانو! تم بھی) جہاں کہیں ہوا کرو اسی کی طرف کو اپنا منہ کر لیا کرو۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ	اور (اے پیغمبر) تم کہیں سے بھی نکلو (تو جہاں ہو نماز میں) اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور یہ (یعنی نیا قبلہ) برحق (اور) تمہارے پروردگار (کے حکم سے) ہے اور

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ (البقرہ ع ۱۰) (مسلمانو!) اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

تکبیر نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو قبلہ کی طرف مُنہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں یا مونڈھوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ یعنی اَللّٰہُ اَکْبَرُ اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پوہنچے پر رکھ کر ہاتھ باندھیں، پھر آہستہ سے یہ

ثنا پڑھیں:-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ۔ اے اللہ ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت برتر ہے۔ اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔

تعوذ اس کے بعد آہستہ تعوذ پڑھیں، یعنی

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔

تسمیہ اس کے بعد تسمیہ پڑھیں۔ یعنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

پڑھکر **الحمد شریف** پڑھیں، پھر امام اور اکیلا نمازی فجر اور مغرب اور عشاء کی دونوں رکعتوں کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کی چند اور آیتیں یا کوئی سورۃ آواز سے پڑھے، اکیلا آدمی ان نمازوں میں آہستہ قرأت کرے تو بھی کچھ مضائقہ نہیں، ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں میں قرأت خموشی سے پڑھیں، جب قرأت پڑھ چکیں تو اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہہ کر رکوع میں جائیں، رکوع میں سر کو اونچا نیچا نہ کریں، بلکہ ہموار رکھیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑیں اور

تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ۔ پاک ہے میرا پروردگار سب سے بڑا۔

تین یا زیادہ دفعہ کہیں، تین دفعہ کہنا تعدیل کا ادنیٰ درجہ ہے اور **تعدیل** سکون و اطمینان سے ہر رکن کے ادا کرنے کو کہتے ہیں اور یوں تو ایک دفعہ کے کہنے سے بھی رکوع ادا ہو جائے گا، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، امام ہے تو

تسمیع یعنی سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ۔ خدا نے اس کی بات سنی جس نے اس کی تعریف کی۔

پڑھے، مقتدی ہو تو

تحمید یعنی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۔ اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تعریف ہے۔

کہے۔ اس کے بعد اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہہ کر سجدے میں جائیں اور تین دفعہ یا زیادہ

تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ۔ پاک ہے میرا پروردگار عالی شان

کہیں، سجدے میں کپڑوں کو سمیٹیں نہیں، اور پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور قدموں کے دونوں پنجوں پر سجدہ کریں اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں، پاؤں کی

انگلیوں کے سرے قبلہ رُخ رہیں اور دونوں ہاتھ کانوں کے پہلوؤں میں کہنیاں زمین سے اس قدر اونچی رہیں کہ اگر بکری میں سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو بآسانی گزر جائے، اور دونوں بغلوں کی سفیدی صاف نمایاں ہو، سجدے میں زمین پر ہاتھ بچھانے سے پہلے سجدے سے فارغ ہوں تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں سے بیٹھیں اور یہاں تک بیٹھیں کہ ہر ہڈی اپنے اپنے ٹھکانے پر آجائے، پھر دوسرا سجدہ کریں اور جو پہلے سجدے میں پڑھا تھا اس میں بھی پڑھیں، دوسرے سجدے کے بعد اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہہ کر اٹھیں، اور زمین پر دونوں ہاتھ ٹیکے بغیر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوجائیں، یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کریں، مگر اس میں ثنا نہ پڑھیں، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہوکر بایاں پاؤں بچھائیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھیں، بایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ کر تشہد پڑھیں۔

تشہد یہ ہے:۔

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ۞ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞

تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اِلَّا اللّٰہُ کہتے وقت گرادیں۔

تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے اٹھیں، تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلی اور دوسری رکعت کی طرح پڑھیں، لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو خاموش رہیں اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو صرف سورۂ فاتحہ پڑھیں اور سنن کی پچھلی دو رکعتیں اول اور دوسری رکعتوں کی طرح پڑھنی چاہئیں، یعنی فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ بھی ملانی ضروری ہے آخر رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اسی طرح بیٹھیں جس طرح دوسری رکعت کے بعد بیٹھے تھے الغرض آخری رکعت سے فارغ ہوکر بیٹھیں تو التحیات اور التحیات کے بعد یہ درود پڑھیں:۔

درود شریف:۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور اُن کی آل پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور اُن کی آل پر بیشک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔

اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور اُن کی آل پر بیشک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔

درود کے بعد یہ دعا پڑھیں :-

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَۃً مِّنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝

اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے بیشک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے

اس کے بعد دائیں جانب گردن پھیر کر کہیں :-

سلام اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت

اور اسی طرح بائیں طرف گردن موڑ کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ یہ مسلمانوں کا باہمی سلام ہے اور اس میں وہ فرشتے بھی داخل ہیں جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔

سُترہ

جب کوئی جنگل میں یا لوگوں کی گزرگاہ پر نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اپنے مُنہ کے سامنے کوئی چیز کھڑی کرلے، اور نہیں تو صرف ایک لکڑی ہی رکھ لے اور یہ بھی نہ ہو تو صرف ایک لکیر ہی کھینچ لے اس کے بعد اگر کوئی آگے سے گزریگا تو نماز میں کچھ خلل نہ آئے گا۔ سُترہ اونٹ کے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہئے جو ایک ہاتھ کے قریب لمبی ہوتی ہے، صرف امام کے سامنے سترہ ہونا مقتدیوں کے لئے بھی کافی رہتا ہے، نمازی کے سامنے دیوار یا درخت یا اونٹ ہو تو وہی سترہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اس کی بُرائی معلوم ہو جائے تو سو برس تک رُکا رہے اور آگے سے نہ گزرے، لیکن سامنے کے فاصلے میں علماء کا اختلاف ہے اور آج کل ہر شخص اس پر چراغ پا ہو جاتا ہے اور جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے اس لئے جاننا چاہئے کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ نمازی کے سجدہ کی جگہ سے نہ گزرے، اور نمازی کو چاہئے کہ اگر کوئی شخص اس کی سجدہ گاہ سے گزرے تو اسے ہاتھ سے روک دے۔

نماز جماعت کی فضیلت اور اس کی تاکید

پابندی جماعت

صحابہ کرامؓ نماز باجماعت کو نہ صرف ذریعۂ ازدیاد ثواب خیال کرتے تھے بلکہ اس کو اسلام ونفاق اور ایمان وکفر کے درمیان حدِ فاصل سمجھتے تھے۔ حضرت معاذؓ اپنی قوم کے امام تھے، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ پہلے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر لیتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جاکر نماز پڑھاتے تھے، لیکن ایک روز دیر میں واپس آئے، اور نماز میں سورۂ بقرہ کی تلاوت شروع کی، ایک کاروباری آدمی تھک کر جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور، نگ

toobaa-elibrary.blogspot.com

نماز پڑھ لی، تو ایک صحابی نے فوراً کہا کہ تم منافق ہو گئے۔
ایک صحابی کہتے ہیں کہ نماز با جماعت سے صرف مشہور منافق ہی الگ رہتا تھا، ورنہ بعض لوگوں کی عادت یہ تھی کہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں آکر شریک جماعت ہوتے تھے۔
اگرچہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا تھا کہ بارش اور اندھیری میں لوگ اپنے اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیا کریں، لیکن صحابہ کرام ؓ کو آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک دن پانی برس رہا تھا اور سخت اندھیری چھائی ہوئی تھی کہ اسی حالت میں چند صحابہ اس غرض سے نکلے کہ چل کر آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔
ایک صحابی کا گھر مدینہ کے انتہائی کنارے پر تھا، لیکن ہر وقت کی نماز رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، ایک صحابی کو ان کی حالت پر رحم آگیا اور کہنے لگا کہ کاش تم ایک گدھا خرید لیتے جو زمین کی نمازت، ٹھوکر اور سانپ بچھو سے تم کو محفوظ رکھتا، وہ بولے میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب رہنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھ کو ہر نقش قدم کے ثواب کی توقع ہے۔
مدینہ میں قبیلہ بنو سلمہ کا محلہ مسجد سے بہت دور تھا، لیکن وہ لوگ نماز با جماعت کو اس قدر ضروری سمجھتے تھے کہ اپنا محلہ چھوڑ کر مسجد نبوی کے آس پاس آباد ہونا چاہا لیکن چونکہ اس سے ایک محلہ ویران ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ "تم کو ہر اس قدم کا ثواب ملے گا جو مسجد کی جانب اٹھے گا"۔
جماعت کے انتظار میں صحابہ کرام سخت تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لیکن اس کی پابندی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پیش آگیا، اس لئے عشاء کی نماز میں بہت تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ صحابہ کرام سو گئے، لیکن نماز کا روحانی خواب کیونکر بھلایا جا سکتا تھا، پھر جاگے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر نیند آگئی آپ کا شانۂ نبوت سے برآمد ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ "آج دنیا میں تمہارے سوا کوئی دوسرا نماز کا انتظار نہیں کرتا"۔
حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عشاء کا انتظار اتنی دیر تک کرتے تھے کہ نیند کے مارے ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک شب نماز عشاء کے لئے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، ایک تہائی رات گذر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ "اگر امت پر شاق نہ گذرتا تو میں اسی وقت نماز عشاء ادا کرتا"۔
ایک دن نماز عشاء کے وقت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اتنی دیر ہوئی کہ بعض صحابہ نے خیال کیا کہ آپ نماز ادا کر چکے اور آپ گھر سے نہ نکلیں گے، آپ تشریف لائے اور لوگوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو فرمایا کہ اس نماز کو، اسی وقت پڑھو، تم کو تمام امتوں پر اسی کی وجہ سے فضیلت ہے، تم سے پہلے کسی امت نے اس نماز کو ادا نہیں کیا۔
حضرت ابو سعید ؓ خدری سے روایت ہے کہ ہم نے عشاء کے لئے آدھی رات تک آپ کا انتظار

کیا، آپ گھر سے نکلے تو فرمایا کہ "اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ" ہم لوگ بیٹھ گئے تو ارشاد ہوا کہ "لوگ پڑھ کر سو گئے، لیکن تمہارے انتظار کی گھڑیاں بھی نماز میں داخل تھیں"۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور اُن کے رفقائے سفر جب مدینہ آئے تو بقیع بطحان میں قیام کیا، وہاں سے اگرچہ تمام لوگ نماز عشاء میں شریک نہیں ہو سکتے تھے تاہم باری باندھ لی تھی، اور اپنی اپنی باری پر لوگ آکر آپ کے ساتھ نماز عشاء پڑھتے تھے۔

نماز میں خشوع وخضوع

صحابہ کرامؓ کی نمازوں میں نہایت محویت، استغراق، خشوع، خضوع اور تضرع وزاری پائی جاتی تھی، حضرت ابوبکرؓ اس خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اور قرآن پڑھتے کہ اُن پر رشدت سے گریہ طاری ہو جاتا، اور کفار کی عورتوں اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا، حضرت عمرؓ نماز میں اس شدت سے روتے کہ پچھلی صف کے لوگ رونے کی آواز سنتے، حضرت عبداللہ بن شدادؓ کا بیان ہے کہ "میں باوجودیکہ پچھلی صف میں رہتا تھا، لیکن حضرت عمرؓ کے رونے کی آواز سنتا تھا۔

حضرت تمیم داریؓ ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت یعنی ——— "اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ" (سورۃ جاثیہ) ——— کی قرأت میں صبح کر دی، اسی کو بار بار پڑھتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اور روتے تھے۔

سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں بھی صحابہ کرامؓ کی یہ محویت قائم رہتی تھی، ابو بہار صحابی ایک پہاڑ کے درّے میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی حراست پر مامور تھے، ان میں ایک بزرگ مصروفِ نماز ہوئے تو اسی حالت میں ایک انتقام کیش مشرک آیا، اور ان کے جسم میں تین تیر پیوست کئے، لیکن انھوں نے نماز کو برابر قائم رکھا، ان کے دو ساتھی رفیق سو گئے تھے، بیدار ہوئے اور اُن کے خون آلود زخم دیکھے تو کہا "مجھے پہلے ہی کیوں نہیں جگایا؟"، بولے کہ نماز میں ایک سورۃ پڑھ رہا تھا، جس کو ناتمام چھوڑنا مجھ کو پسند نہ آیا۔

محبوب سے محبوب چیز بھی اگر صحابہ کی حضوریٔ نماز میں خلل انداز ہوتی تو وہ ان کی نگاہ میں منغوض ہو جاتی، ایک دن حضرت ابوطلحہ انصاریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک چڑیا اُڑتی ہوئی آئی، اور چونکہ باغ بہت گھنا تھا، اور کھجوروں کی شاخیں باہم ملی ہوئی تھیں، پھنس گئی اور نکلنے کی راہ ڈھونڈھنے لگی، ان کو باغ کی شادابی اور پھل کود کا یہ منظر بہت پسند آیا، اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے پھر نماز کی طرف توجہ کی تو یاد نہ آیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں دل میں کہا کہ اس باغ نے یہ فتنہ پیدا کیا فوراً رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا "یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں"۔

ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، فصل کا زمانہ تھا، دیکھا تو کھجوریں پھل سے لدی ہوئی ہیں، اس قدر فریفتہ ہوئے کہ نماز کی رکعتیں یاد نہ رہیں، نماز سے فارغ ہو کر حضرت عثمانؓ کی

خدمت میں آئے اور کہا کہ" اس باغ کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہو گیا، اس کو اموالِ صدقہ میں داخل کر لیجئے" چنانچہ انہوں نے اس کو ۵۰ ہزار پر فروخت کیا، اور اس مناسبت سے اس کا نام خمیس پڑ گیا۔

اسی خشوع وخضوع کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرامؓ نہایت سکون واطمینان کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے، حضرت انسؓ رکوع کے بعد قیام میں دونوں سجدوں کے درمیان اس قدر دیر لگاتے کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ستون کھڑا ہے، ایک دن رکوع میں اس قدر جھکے رہے کہ ایک شخص نے بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ جیسی طویل سورتوں کی تلاوت کر ڈالی لیکن انھوں نے اس درمیان میں سر نہ اٹھایا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَإِنْ كَانَ صَائِمًا صَلّٰى مُدَّتِ سَ وَدَعَا وَبَرَّكَ
دَقَ عَوْ وَإِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ
وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُدَّ سَ مُسْ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي مَوْ
مُسْ قَ يَ فَإِنْ أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ
الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ
الْمَلَائِكَةُ قَ حِبْ دَ

ترجمہ:- اور اگر مہمان روزہ دار ہو تو (دعوت کرنے والے کے حق میں) دعا کرے (یا نماز پڑھے)، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابن عمرؓ)

اور دعا کرے اور برکت مانگے یعنی

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ خدا تمہیں برکت دے۔

کہے۔ ابوداؤد، ابن ماجہ، ابوعوانہ (عن ابن عمرؓ)

جب روزہ افطار کرے تو کہے، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہوگئیں، اور ثواب ضرور ملے گا۔ اگر اللہ نے چاہا، مسلم، ابوداؤد، نسائی، حاکم (عن ابن عمرؓ)

اے اللہ میں تیری رحمت سے جو ہر چیز سے وسیع ہے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے، موقوفاً حاکم، ابن ماجہ، ابن سنی (عن ابن عمرؓ)

اور اگر (کسی دعوت میں) لوگوں کے پاس افطار کرے تو کہے روزہ دار تمہارے پاس افطار کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے لئے دعا کریں۔ ابن ماجہ، ابن حبان (عن عبداللہ بن بسرؓ) ابوداؤد (عن انسؓ)

روزہ کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

ترجمہ:- اے ایمان والو جس طرح تم سے پہلے لوگوں (یعنی اہل کتاب) پر روزہ رکھنا فرض تھا تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم (برے کاموں سے) بچتے رہو

روزہ افطار کرنے کی دعائیں

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا
مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۭ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۭ وَاَنْ تَصُوْمُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۭ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ
لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ
عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۭ اُجِيْبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ
وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ
الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۗىِٕكُمْ ۭ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۭ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا
كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا
حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۡ ثُمَّ
اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا

بچو (وہ بھی) گنتی کے چند روز (ہیں) اس پر بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں (ہو) تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کردے) اور جن (مریضوں اور بیماروں) کو کھانا دینے کا مقدور ہے اُن پر (ایک روزے کا) بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو یہ اُسکے حق میں زیادہ بہتر ہے اور سمجھو تو روزہ رکھنا (بہرحال) تمہارے حق میں بہتر ہے (روزوں کا) مہینہ رمضان کا ہے، جس کے (روزوں کے) بارے میں خدا کی طرف سے قرآن (یہ حکم) نازل ہوا ہے (اور قرآن) لوگوں کا رہنما ہے اور (اُس میں) ہدایت اور (حق و باطل کی) تمیز کے کھلے کھلے حکم (موجود ہیں) — تو (مسلمانو!) تم میں سے جو شخص اس مہینے میں (زندہ) موجود ہو تو چاہیئے کہ اس مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں (ہو) تو دوسرے دنوں سے گنتی (پوری کرے) اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہتا اور (یہ حکم اُس نے اس غرض سے دیئے ہیں) تاکہ تم (روزوں کی) گنتی پوری کرو اور تاکہ اللہ نے جو تم کو راہ راست دکھا دی ہے اس (نعمت) پر اُس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم (اُس کا) احسان مانو اور (اے پیغمبر!) جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں دریافت کریں تو (اُن کو بتا دو کہ) ہم (اُن کے) پاس ہیں جب کبھی کوئی ہم سے دعا کرے تو ہم (ہر ایک) دعا کرنے والے کی دعا کو (جسکی) اور مناسب ہوتا ہے تو) قبول (بھی) کر لیتے ہیں تو اُن کو چاہیئے کہ ہمارا حکم (بھی) مانیں اور ہم پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے رستے لگ لیں (مسلمانو!) روزوں کی راتوں میں اپنی بیبیوں کے پاس جانا تمہارے لئے جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہارے دامن (کی طرح) ہیں اور تم اُن کی چولی (کی طرح) ہو اللہ نے دیکھا کہ تم (چوری چوری) اُن کے پاس جانے سے اپنا (دینی) نقصان کرتے تھے تو اُس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تمہاری خطا سے درگزر کیا پس اب (روزوں میں رات کے وقت) اُن سے ہمبستر ہو اور (ہمبستری کا) جو نتیجہ خدا نے تمہارے

toobaa-elibrary.blogspot.com

تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ ۭ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۳)

لے لکھ رکھا ہے (یعنی اولاد) اس (کے حاصل کرنے) کی خواہش کرو (نہ کہ محض شہوت رانی کی) اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ (رات کی) کالی دھاری سے صبح کی سفید دھاری تم کو صاف دکھائی دینے لگے پھر رات تک روزہ پورا کرو اور (ہاں) تم مسجدوں میں معتکف بیٹھے ہو تو (رات کو بھی) اُن سے ہمبستر نہ ہونا یہ اللہ کی (باندھی ہوئی) حدیں ہیں تو اُن کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ وہ (خلاف حکم کرنے سے) بچیں۔

دنیا میں جتنے مذاہب مروج ہیں سب میں فاقہ عبادت سمجھا گیا ہے۔ روزے سے مزاج میں عجز وانکسار کی صفت پیدا ہوتی ہے اور روزہ دار کو روزی کی قدر آتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ جسمانی تندرستی کے لئے بھی مفید ہے کہ اس سے ردّی رطوبتیں جو اکثر مولد امراض ہوتی ہیں خشک ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ روزہ دار اُن مصیبت کے ماروں کی مصیبت کا اندازہ کر سکتا ہے جن کو پیٹ بھر کر روزی میسر نہیں آتی، اور جب دوسروں کی مصیبت کا اندازہ کرے گا تو اس کی طبیعت میں اُن کی امداد کا بھی تقاضہ ضرور پیدا ہوگا۔

مسلمانوں پر خدا تعالےٰ نے رمضان کے روزے فرض کئے ہیں بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے کا ویسا ہی گناہ ہے جیسا نماز نہ پڑھنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا، غرض اہمیت اور واجب التعمیل ہونے میں تمام فرائض برابر کے درجے میں ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کی جس قدر آؤ بھگت کرتے ہیں اتنی نماز کی نہیں کرتے اور زکوٰۃ کی تو شاید کچھ بھی نہیں۔ "اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰہ" رمضان چونکہ ہر برس میں ایک بار آتا ہے، کچھ تو "زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا" کی رُو سے اور زیادہ تر افطاری اور سحری کے مزوں کی وجہ سے روزے کا اہتمام زائد از واجب کیا جاتا ہے اور وہاں تراویح کے میلے سے مساجد کی روشنی کا منظر بھی سیر کی چیز ہے۔

جناب نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ بغیر عذر کے نہ رکھا اگر تمام سال یا تمام عمر نفل روزے رکھے یا دنیا کی ساری نعمتیں خیرات کر دے تب بھی اُس ایک روزے کے درجے کو نہ پہنچے گا۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو یا عورتیں حیض ونفاس میں ہوں یا حامل سے ہوں یا بچے کو دُودھ پلاتی ہوں اور خوف ہو کہ روزے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچے گا تو یہ سب لوگ روزہ موقوف رکھیں جب عذر جاتا رہے، میں، روزوں کی قضاء رکھیں، سال بھر میں پورے کر لیں چاہے ایک دم رکھیں چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے کئی دفعہ میں پورے کر لیں، جو شخص اس قدر بُوڑھا ضعیف ہو کہ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو اُسے روزہ معاف ہے، ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کا پیٹ بھر دیا کرے، روزہ رکھنے والا صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عورتوں کی ہمبستری سے رُکا رہے،

کسی کی برائی، غیبت نہ کرے۔ عذر بیماری کی وجہ سے تے ہو جائے تو روزے کی قضا لازم آئے گی ورنہ خود بخود ہضم ہو جانے سے روزے میں نقصان نہ آئے گا، روزے میں خوشبو لگانا، سر میں تیل ڈالنا، سرمہ لگانا، فصد کھلوانا، بھری سینگی کھچوانا، پچھنے لگانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، غسل کرنا، ناک میں پانی دینا یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن زیادہ مبالغہ کرنا نہ چاہیئے، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، جسم سے جسم لگانا درست ہے مگر جوان بے صبر آدمی کو مناسب نہیں، اگر کسی کو رات کو نہانے کی ضرورت ہوئی تو رات ہی کو نہا لینا بہتر ہے ورنہ صبح کو بھی نہانے سے روزے میں کچھ نقصان واقع نہیں ہوتا، جو شخص روزے میں عمداً صحبت کرے گا اُسے ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور چونکہ ہندوستان میں غلام کے آزاد کرنے کا رواج نہیں ہے اس لئے اب ایک روزے کے بدلے دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ محتاجوں کا پیٹ بھر دے پھر روزے کے بدلے روزہ رکھے اور خدا سے معافی چاہے، روزے میں جان کر کھا پی لے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک کفارہ ہے اور بعض کے نزدیک صرف قضا، مگر حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کفارہ کا ذکر فرمایا ہو، اس لئے محدثین کے نزدیک محقق مسئلہ یہی ہے کہ عورت سے جان کر صحبت کرنے والے پر کفارہ اور جان کر کھانے پینے والے پر قضا لازم آتی ہے، اگر ابر کی وجہ سے وقت معلوم نہیں ہوا، اور روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزے کی قضا رکھنی ہوگی۔ بھوک پیاس کی شدت سے جان کے تلف ہونے کا خوف ہو تو روزہ توڑ دینا اور بعد کو قضا کرنا چاہیئے، روزے دار بھول کر سیر ہو کر بھی کھا پی لے تو روزہ سلامت رہتا ہے، روزے دار بیمار پڑ جائے یا سفر کو چلا جائے اور روزہ توڑ دے تو کچھ گناہ نہیں، رسول اللہ نے ایک مرتبہ حالتِ سفر میں عصر کے وقت خود بھی روزہ توڑ دیا اور صحابہؓ کا بھی تڑوا دیا، اور فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کچھ نیکی میں داخل نہیں، اگر تکلیف ہو، ایک حدیث میں فرمایا حالت سفر میں تکلیف کے ساتھ روزہ رکھنے والے گنہگار ہیں، مسافر کو اگر حالت سفر میں سہولت و آسانی ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر دقت و تکلیف ہو تو اس کا قضا کر دینا بہتر ہے، سفر و بیماری کے زمانے میں جو روزے نہ رکھے جائیں، اُن کی قضا لازم ہے، شک کے روز روزہ رکھنے والا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، شک کے روز کے یہ معنی ہیں کہ چاند کے ہونے کا یقین نہ ہو اور اگلے دن احتیاطاً روزہ رکھ لیا جائے، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیئے اور ابر ہو تو شعبان کے تین دن پورے کر کے اکتیسویں روز سے روزہ رکھا جائے، اگر ایک مسلمان بھی رویت ہلال کی گواہی دے گا تو شہر کے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا مگر عید کے چاند دیکھنے کی جب تک دو مسلمان گواہی نہ دیں افطار کرنا نہ چاہیئے، اگر آسمان پر ابر چھایا ہوا ہو اور دوسرے شہروں سے رویت کی شہادت پہنچے تو اس شہادت کو تسلیم کر لیا جائے مگر بہت دور دراز شہروں اور ملکوں کی رویت کا اعتبار نہ کیا جائے۔

سحری کھانا مسنون ہے، حضرتؐ نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود و نصاریٰ کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، ہم سحری کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، اور فرمایا لوگو! سحری کھاؤ اس میں برکت ہے، سحری کا بہتر اور عمدہ وقت صبح کاذب سے طلوع صبح صادق تک ہے۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ سحری یہ ہے کہ آخر وقت میں کھائی جائے، سحری کے وقت کوئی مخصوص دعا روزے کی نیت کے واسطے پڑھنا آنحضرتؐ سے ثابت نہیں، صرف روزہ کی نیت کا ارادہ کافی ہے۔

جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی طرف سے سیاہی نمودار ہو تو روزہ افطار کیا جائے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے دین کا غلبہ رہے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے افطار میں جلدی کرنے والے بندے بہت پیارے ہیں، اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ افطار میں تعجیل کرنا گویا احتیاج رزق کو خدا کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اور خدا جو بندوں کا رازق ہے اُسے اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، روزہ افطار کرتے وقت یہ دُعا پڑھنی مسنون ہے:۔

اَللّٰھُمَّ لَکَ صُمْتُ وَعَلٰی رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ	خداوندا! میں نے خاص تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کیا۔

اور چاہیں تو یہ دعا پڑھیں:۔

ذَھَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی۔	پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہوا انشاء اللہ تعالیٰ۔

بعض حدیثوں میں یہ دعا بھی آئی ہے:۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِیْ۔	خداوندا میں تیری رحمت کا واسطہ دے کر جس نے ہر چیز کو سمالیا ہے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرمادے

روزہ کے متعلق صحابہؓ کا ذوق وشوق

صوم رمضان

رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتداء میں عشاء کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا، اس پابندی کی وجہ سے اگرچہ بعض اوقات صحابہؓ کو سخت زحمتیں برداشت کرنی پڑیں، لیکن بایں ہمہ انھوں نے روزہ رکھنے میں سہل انگاری سے کام نہیں لیا۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں حضرت صرمہ بن قیس انصاریؓ نے بی بی سے کھانا مانگا، سوء اتفاق سے گھر میں کچھ نہ تھا، وہ باہر گئیں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز تلاش کر کے لائیں، لیکن اس اثناء میں اُن کی آنکھ لگ گئی اور کھانا نہ کھا سکے، صبح کو پھر روزہ رکھے ہوئے کام دھندے کے لئے نکل گئے، دو دن کا متصل فاقہ، اس پر کام کی محنت، دوپہر ہوئی تو بھوک کی شدت سے بیہوش ہو گئے۔

اگر کسی غلطی سے صحابہ کرامؓ کا روزہ ٹوٹ جاتا تو اُن پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا، ایک صحابی

toobaa-elibrary.blogspot.com

نے رمضان میں دن کو اپنی بی بی سے صحبت کر لی، بعد کو اس قدر بدحواس ہوئے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بال نوچتے ہوئے، سینہ کوبی کرتے ہوئے آئے، اور کہا کہ "یا رسول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا"

سفر میں روزہ رکھنا حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، تاہم صحابہ کرامؓ اس حالت میں سخت سے سخت تکلیف برداشت کرتے، لیکن افطار کرنا پسند نہ کرتے، ایک صحابی نے سفر میں روزہ رکھا تو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لئے لوگوں نے اُن کے سر پر چادر تان دی، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھا تو فرمایا "سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں"

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، دھوپ اس قدر تیز تھی کہ لوگ اس کی شدت سے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ روزے سے تھے۔

ایک بار صحابہ کرامؓ ایک نہایت گرم دن میں سفر کر رہے تھے، ان میں جو لوگ روزے سے تھے منزل پر پہنچکر ضعف سے گر پڑے اور بے روزہ داروں نے تنبو وغیرہ کھڑے کئے۔

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا سفر کیا تو تمام صحابہ روزہ سے تھے، منزل پر پہنچکر فرمایا کہ تم لوگ دشمن کے قریب پہنچ گئے، اور افطار تمہارے لئے زیادتی قوت کا سبب ہوگا" اس پر بھی بہت سے صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا دوسری منزل آئی تو آپ نے اور بھی تاکید کے ساتھ افطار کی ترغیب دی اب تمام صحابہ نے روزہ توڑ دیا۔

صوم عاشورا رمضان کے روزوں کے علاوہ صحابہ کرامؓ اور بھی مختلف قسم کے روزے رکھتے تھے اوّل اوّل عاشورا کا روزہ فرض تھا، اس لئے عاشورا کی صبح کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم منادی کرا دیتے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے پورے کریں، اور جو لوگ کھا پی چکے ہیں، وہ بقیہ دن کا روزہ رکھیں، اس اعلان کے بعد صحابہ کرام نے اس شدت کے ساتھ اس کی پابندی کی کہ نہ صرف خود روزے رکھتے بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے اور جب وہ کھانے کے لئے روتے تو بہلانے کے لئے ان کو رنگین اُون کی گڑیاں دیدیتے۔ فرضیتِ صوم رمضان کے بعد اگرچہ روزہ فرض نہیں رہا، تاہم بعض صحابہ نے اس کو قائم رکھا، ایک بار حضرت معاویہؓ نے مدینہ میں خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ "اس دن کا روزہ اگرچہ فرض نہیں ہے تاہم میں روزے سے ہوں، جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے افطار کرے"

صوم داؤدی حضرت عبداللہ بن عمروؓ دائم الدہر روزے رکھتے تھے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ "ہر مہینہ میں صرف تین دن رکھا کرو" لیکن ان کے شوق کو اس سے کیا تسکین ہو سکتی تھی؟ بولے "مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے" ارشاد ہوا تو "صوم داؤدی کا التزام کر لو۔ یعنی ایک دن کا ناغہ دے کر دوسرے دن کا روزہ رکھو"

toobaa-elibrary.blogspot.com

صوم وصال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم متصل کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرامؓ نے بھی متصل روزے رکھنے شروع کئے، لیکن آپؐ نے صحابہ کو روک دیا اور فرمایا "میری حالت تم سے مختلف ہے، مجھ کو خدا کھلاتا پلاتا ہے" تاہم صحابہ صوم وصال کے پابند تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ متصل ایک ایک ہفتہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔

دوشنبہ اور پنجشنبہ کے روزے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ "ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں" بعض صحابہ نے بھی اس کا التزام کرلیا تھا، چنانچہ ایک دن حضرت اسامہؓ وادیٔ قریٰ کو گئے، اور ان دنوں کے روزے رکھے، غلام نے کہا "آپ تو بوڑھے ہیں، ان دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں"؟ بولے "رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے"۔

ایام بیض کے روزے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ "یہ روزے صوم دہر کے مثل ہیں" صحابہ کرامؓ کو بھی یہی حکم تھا۔

صائم الدہر رہنا ایک صحابی ایک سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر واپس چلے گئے دوسرے سال پھر حاضر خدمت ہوئے تو صورت اس قدر بدل گئی تھی کہ آپ نے ان کو نہیں پہچانا، اس پر انھوں نے خود اپنا تعارف کرایا، اور کہا کہ "میں وہی شخص ہوں جو پہلے سال آیا تھا" فرمایا "تمہارا کیا حال ہوگیا؟ تمہاری صورت تو اچھی خاصی تھی" بولے "جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں رات کے سوا دن کو بھی کھانا نہیں کھایا" لیکن آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا، بایں ہمہ بہت سے صحابہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، حضرت ابو امامہؓ نے متعدد غزوات میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے بار بار دعائے شہادت کی درخواست کی لیکن آپ نے سلامتی کی دعا فرمائی، اخیر میں عرض کی کہ "اچھا یہ نہ سہی تو کسی ایسے عمل کی ہدایت فرمایئے کہ خدا مجھے اُس سے نفع دے" آپ نے روزے کا حکم دیا اور انھوں نے متصل روزے رکھنے کا التزام کرلیا، خادم ابو امامہؓ نے بھی اس عمل صالح میں شرکت کی، اور روزہ اُن کے گھر کی امتیازی علامت ہوگئی، اگر کسی دن ان کے گھر میں دُھواں اُٹھتا یا آگ جلائی جاتی تو لوگ سمجھتے کہ آج ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے ورنہ اس گھر میں دن کا کھانا کیونکر پک سکتا تھا۔

حضرت زید بن سہلؓ عہد رسالت میں غزوات کی شرکت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تھے، اس لئے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کی تلافی کرنی شروع کی اور ۴۰ برس تک متصل روزے رکھے، اور عید کے سوا کہ اُس دن روزہ رکھنا حرام ہے کبھی بے روزہ نہ رہے۔

حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی بھی ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے۔

نفلی روزے رکھنا حضرت ابوالدرداءؓ کو نفلی روزہ کا اس قدر شوق تھا کہ اگر یہ معلوم ہوجاتا کہ آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو کہتے کہ "میں آج روزے سے ہوں"۔ حضرت ابوطلحہؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بھی یہی حال تھا۔

مُردوں کی جانب سے روزہ رکھنا صحابہ کرامؓ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے مُردوں کی جانب سے بھی روزے رکھتے تھے، ایک صحابی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ "میری ماں کا انتقال ہوگیا اور اس پر پورے مہینے کے روزے فرض تھے، کیا میں ان کو پورا کردوں"؟ آپ نے فرمایا "ہاں"

بچّوں سے روزہ رکھوانا صحابہ کرامؓ نہ صرف خود روزہ رکھتے تھے بلکہ اپنے بچّوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، پہلے گذر چکا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورا کا اعلان کروایا تو صحابہ کرامؓ نے خود روزہ رکھا اور بچّوں سے بھی روزے رکھوائے، ایک بار حضرت عمرؓ نے رمضان میں ایک بدمست کو یہ کہہ کر سزا دی کہ "ہمارے بچّے روزے رکھتے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے، افسوس"

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ فَلْيُسَمِّ اللّٰهَ وَلْيَاْكُلْ مِمَّا يَلِيْهِ بِيَمِيْنِهٖ خَمْتِ
سَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِيْ لَا يُذْكَرُ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ
مُدْسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ
تَاْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ دَقَسَ وَاَمَرَ الصَّحَابَةَ
فِي الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِيْ اَهْدَتْهَا اِلَيْهِ الْيَهُوْدِيَّةُ اَنِ اذْكُرُوا اسْمَ
اللّٰهِ وَكُلُوْا فَاَكَلُوْا فَلَمْ يُصِبْ اَحَدًا مِنْهُمْ شَيْءٌ مُسْ

ترجمہ: جب کھانا سامنے آئے تو بسم اللہ کہکر سیدھے ہاتھ سے اپنے پاس کی چیز کھائے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی (عن عمر بن ابی سلمہؓ)

کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، مسلم، ابوداؤد، نسائی، (عن حذیفہ بن الیمانؓ)

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا "یا رسول اللہ! ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے" آپ نے فرمایا "تو شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟" صحابہؓ نے عرض کیا "جی ہاں" آپ نے فرمایا "بسم اللہ پڑھ کر اور سب مل کر کھایا کرو، اس میں تمہارے لئے برکت ہوگی" ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی (عن وحشی بن حربؓ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہریلی بکری کے بارے میں جس کو ایک یہودیہ نے آپ کو ہدیہ دی تھی، صحابہؓ سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ! پھر سب نے کھایا اور کسی کو بھی کچھ نقصان نہ پہنچا، حاکم (عن ابی سعید الخدریؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَفِیْ حَدِیْثِ مَسِیْرِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاَبِیْ بَکْرٍ وَّعُمَرَ اِلٰی بَیْتِ اَبِی الْھَیْثَمِ وَاَکْلِھِمُ الرُّطَبَ وَاللَّحْمَ وَشُرْبِھِمُ الْمَآءَ قَوْلُہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ ھٰذَا لَھُوَ النَّعِیْمُ الَّذِیْ تُسْاَلُوْنَ عَنْہُ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ فَلَمَّا کَبُرَ عَلٰی اَصْحَابِہٖ قَالَ اِذَآ اَصَبْتُمْ مِثْلَ ھٰذَا وَضَرَبَتْکُمْ بِاَیْدِیْکُمْ فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللّٰہِ وَعَلٰی بَرَکَۃِ اللّٰہِ فَاِذَا شَبِعْتُمْ فَقُوْلُوا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ ھُوَ اَشْبَعَنَا وَاَرْوَانَا وَاَنْعَمَ عَلَیْنَا وَاَفْضَلَ فَاِنَّ ھٰذَا کَفَافُ ھٰذَا مُسْ وَاِنْ نَسِیَ التَّسْمِیَۃَ اَوَّلَ الطَّعَامِ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللّٰہِ اَوَّلَہٗ وَاٰخِرَہٗ دَتْ سَ حِبْ مُسْ وَاِنْ اَکَلَ مَعَ مَجْذُوْمٍ اَوْ ذِیْ عَاھَۃٍ قَالَ بِسْمِ اللّٰہِ ثِقَۃً بِاللّٰہِ وَتَوَکُّلًا عَلَیْہِ تِ دَقْ حِبْ مُسْ ی

ترجمہ : اور اس حدیث میں جس میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کے ابوالہیثم کے گھر جانے اور تروتازہ چھوارے اور گوشت کھانے اور ٹھنڈا پانی پینے کا ذکر ہے آپ کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ یقیناً یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق تم سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا، یہ بات صحابہ کرامؓ کو دشوار معلوم ہوئی (تو) آپ نے فرمایا جب تمہیں ایسی چیز ملے اور تم کھانا شروع کرو تو کہو، اللہ کے نام اور اس کی برکت سے (ہم کھاتے ہیں) اور جب تم سیر ہو جاؤ تو کہو، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سیر اور سیراب کیا اور ہم پر انعام اور فضل کیا، بیشک یہ کہنا اس (نعمت) کا شکریہ اور بدلہ ہے۔ حاکم، (عن ابی ہریرۃؓ)

اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو (بعد میں) یہ پڑھ لے "بِسْمِ اللّٰہِ اَوَّلَہٗ وَاٰخِرَہٗ" اللہ کے نام سے اس کے پہلے اور اس کے پیچھے، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن عائشہؓ)

اور اگر کسی جذامی یا آفت زدہ (مریض) کے ساتھ کھائے تو کہے " بِسْمِ اللّٰہِ ثِقَۃً بِاللّٰہِ وَتَوَکُّلًا

toobaa-elibrary.blogspot.com

کلیکیو" (میں) اللہ کے نام سے اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے (کھاتا ہوں) ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابن سنی (عن جابرؓ)

شرح: ذِیْ عَاهَةٍ، آفت زدہ، یعنی وہ بیمار جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے دوسرا شخص گھن کرے یا متعدی ہو، دوسری حدیث میں آتا ہے، جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت یہ ہے کہ طبیعت اگر کمزور ہو اور جلد اثر قبول کرنے والی ہو تو جذامی یا اس قسم کے اور مریضوں کے ساتھ کھانے سے بچنا اور ان کے ساتھ نہ کھانا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں خود اس مرض میں مبتلا نہ ہو جائے، اسی حکمت کی بنا پر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس سے دُور رہنے کا حکم دیا، اور اگر طبیعت مضبوط اور کسی چیز سے جلد متاثر ہونے والی نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ کھالے، لیکن ہر صورت میں اعتماد اور بھروسہ پروردگار عالم ہی پر رکھے، کیونکہ مؤثر حقیقی وہی ذات ہے، کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے نہ نقصان کی طاقت رکھتی ہے اور نہ نفع کی، اس لئے آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی تاکہ نظر مؤثر حقیقی ہی پر رہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا ﴿خ﴾ عَهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ قَ لَا مَكْفُورٍ ﴿خ﴾ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا دَسَ حِبْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ دَتِ قَ مُسْ ے

کھانے کے بعد کی دعا

ترجمہ: اور جب کھانے اور پینے سے فارغ ہو جائے تو کہے، سب تعریف اور بابرکت حمد خدا کے لئے ہے کہ نہ اس پر کفایت ہوا اور نہ اُس کو چھوڑا جائے، اور نہ اس سے بے پروائی ہو، اے ہمارے پروردگار ہماری حمد قبول کر، بخاری، سنن اربعہ (عن ابی امامہؓ)

خدا کا شکر ہے جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا، (حالانکہ) اس کی پوری تعریف نہیں ہوسکتی اور اس کی ناشکری نہیں ہوسکتی ہے۔ بخاری (عن ابی امامہؓ)

خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا، سنن اربعہ، ابن سنی (عن ابی سعید الخدریؓ)

خدا کا شکر ہے جس نے کھلایا، اور پلایا اور اس کا حلق سے اترنا آسان کیا اور اس سے نکلنے کا راستہ بنایا، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان (عن ابی ایوب الانصاریؓ)

خدا کا شکر ہے، جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری طاقت وقوت کے بغیر مجھے عطا کیا۔ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن سنی (عن معاذ بن انسؓ)

شرح: غَيْرَ مَكْفِيٍّ: یعنی وہ تعریف پوری نہیں، کیونکہ انسان کا حافظہ اس کی تعریف نہیں کرسکتا۔ وَلَا مُوَدَّعٍ یعنی خدا کی تعریف ترک نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں باوجود نقصان کیفیت کے ہمیشہ مشغول رہتی ہے۔ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ: یعنی تعریف کسی وقت بھی موقوف نہیں ہوتی، کیونکہ ہر لحظہ خدا کی نعمتیں ہوتی رہتی ہیں۔

وَاِذَا اَكَلَ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ دَتِ قَ فَاِنْ كَانَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ دَتِ قَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْكُلَ الْاُكْلَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهٗ عَلَيْهَا مُتِ سَ مَے

ترجمہ: اور جب کھانا کھا چکے تو کہے، اے اللہ! ہمارے اس کھانے میں برکت عطا کر، اور اس سے بہتر کھانا ہمیں عنایت فرما۔ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ (عن ابن عباسؓ)

اور اگر دودھ ہو تو کہے، اے اللہ! ہمارے لئے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت کر۔ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ (عن ابن عباسؓ)

بیشک اللہ تعالےٰ اس بندہ سے خوش ہوتا ہے جو کھائے تو اس کا شکر ادا کرے اور پیئے تو اس کا شکر ادا کرے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن سنی (عن انسؓ)

وَاِذَا غَسَلَ يَدَهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ مِنَّا عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَاَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ اَبْلَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَّلَا مُكَافَأٍ وَّلَا مَكْفُوْرٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَسَقٰى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسٰى مِنَ الْعُرْيِ وَهَدٰى مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعُمٰى وَفَضَّلَ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ س حب مس اَللّٰهُمَّ اَشْبَعْتَ وَاَرْوَيْتَ فَهَنِّئْنَا وَرَزَقْتَنَا فَاَكْثَرْتَ وَاَطْيَبْتَ فَزِدْنَا مَوْمُص وَيَدْعُوْ لِاَهْلِ الطَّعَامِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ مُرْتِ س مُص اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ مُ

ترجمہ: اور جب (کھانے کے بعد) اپنے ہاتھ دھوئے، تو کہے، خدا کا شکر ہے جو کھلاتا ہے اور کھایا نہیں، اُس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ہدایت کی، اور ہمیں کھلایا اور سیراب کیا، اور ہر اچھی نعمت سے ہمیں نوازا۔ خدا کا ایسا شکر ہے جو نہ چھوڑا گیا ہے اور نہ بدلہ دیا گیا ہے اور نہ ناشکری کی گئی ہے، اور نہ اس سے بے پروائی کی گئی ہے، خدا کا شکر ہے جس نے کھانے سے پیٹ بھرا اور پینے سے سیراب کیا اور برہنگی میں کپڑا پہنایا، اور گمراہی سے ہدایت کی، اور اندھے سے بینا (دیکھنے والا) کیا، اور اپنی بہت سی مخلوق پر بڑی فضیلت دی، ہر تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

خداوندا! تو نے ہی سیر اور سیراب کیا، تو ہی نے اس کو ہمارے لئے خوشگوار بنایا، اور تو نے ہی ہمیں رزق دیا تو نے بہت اور اچھا دیا پس تو اس میں اور ترقی فرما۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن سعید بن جبیرؓ)

اور میزبان اور کھانا کھلانے والے کے لئے (یہ) دُعا کرے الٰہی! ان کے رزق میں جو

تُو نے انھیں دیا ہے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم فرما۔
مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن عبداللہ بن بسر)

الٰہی! اس شخص کو کھلا جس نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔
مسلم (عن مقدادؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَإِذَا لَبِسَ شَيْئًا قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا هُوَ
لَهٗ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهٗ ی وَإِنْ كَانَ جَدِيْدًا
سَمَّاهُ بِاسْمِهٖ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ غَيْرَهٗ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَأَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ دت س حب مس اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ
ت ق مص مس وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ دت ق مس وَمَا تَأَخَّرَ د وَإِذَا رَأٰى
عَلٰى صَاحِبِهٖ ثَوْبًا جَدِيْدًا قَالَ لَهٗ تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ د مص
أَبْلِ وَأَخْلِقْ ثُمَّ أَبْلِ وَأَخْلِقْ ثُمَّ أَبْلِ وَأَخْلِقْ خ د فَإِذَا
خَلَعَ ثِيَابَهٗ فَسَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَتِهٖ أَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ
مص ی

ترجمہ: اور جب کوئی چیز پہنے تو کہے الٰہی! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے، اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، ابن سنی (عن عمر)

اور اگر وہ نیا کپڑا ہو تو اس کا نام مثلاً صافہ یا قمیص وغیرہ لیکر کہے، اے اللہ! تیرا شکر ہے، تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابوداؤد

کپڑے پہننے کی دعائیں

ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی سعید الخدریؓ)

خدا کا شکر ہے، جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانکتا ہوں اور زندگی میں آراستگی حاصل کرتا ہوں، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، حاکم (عن عمرؓ)

اور جو شخص کپڑا پہن کر یہ کہے، اللہ کا شکر ہے، جس نے مجھے یہ پہنایا اور (بغیر) میری طاقت و قوت مجھے یہ عطا کیا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم (عن معاذ بن انسؓ)

اور پچھلے گناہ بھی۔ ابوداؤد (عن معاذ بن انسؓ)

اور جب اپنے کسی دوست کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو اس سے کہے خدا تجھے پہننا پھاڑنا نصیب کرے، اور اور دے۔ ابوداؤد، ابن ابی شیبہ (عن ابی الدرداءؓ)

پہننا پھاڑنا نصیب ہو، پہننا پھاڑنا نصیب ہو، پہننا پھاڑنا نصیب ہو۔ بخاری، ابوداؤد (عن ام خالد بنت خالد بن سعید ابن العاصؓ)

اور جب کپڑے[1] اتارے تو جنوں کی آنکھوں اور اس کی برہنگی کے درمیان پردہ یہ ہے کہ "بسم اللہ" کہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن سنی (عن انسؓ)

کپڑے اتارنے کی دعا

شرح: عربی عبارت میں یہاں لفظ ثَوبَیْ[2] ہے جس کے لغوی معنی ہیں تو بسیدہ کرے، اور بوسیدہ کے معنی پھٹے پرانے کے ہیں جس طرح ایسے موقع پر عربی میں "تَبلی یا اَبلی وَاَخلِق" کہتے ہیں اسی طرح اردو میں بھی دوست احباب، ماں باپ وغیرہ جب اپنے کسی عزیز کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا تجھے اس کا پہننا پھاڑنا نصیب کرے، اور اور دے، اسی وجہ سے یہ ترجمہ اختیار کیا گیا۔

[1] یعنی جو کوئی کپڑے اُتارتے وقت بسم اللہ کہے گا تو جنات اس کی برہنگی نہ دیکھ سکیں گے۔

وَإِذَا هَمَّ بِأَمْرٍ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ
خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَ
آجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
أَوْ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ مُرْعَهُ

ترجمہ: اور جب کسی کام کا ارادہ کرے تو چاہئے کہ دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا مانگے۔

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے بہتری چاہتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعہ طاقت چاہتا ہوں اور تیری بڑی مہربانی کے ذریعہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لئے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور مجھے قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام (یہاں کام کا نام لیا جائے) میرے حق میں میرے دین دنیا اور میرے انجام کار میں یا دیر سویر کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کی مجھے توفیق دے اور اسے میرے لئے آسان کر دے، پھر مبارک فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دین دنیا اور انجام یا دیر سویر کے لحاظ سے اچھا نہیں تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے باز رکھ اور میری بہتری جہاں ہو وہاں مقدر کر، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔

مسلم، سنن اربعہ (عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ)

منزل کی تکمیل کی دعا کے استخارہ

شرح: استخارہ کے لغوی معنی طلب خیر یعنی بہتری چاہنے کے ہیں۔

اور اس نماز نفل کا موقع و محل یہ ہے کہ آدمی کو کوئی خیر معمولی اور مہتم بالشان ضرورت پیش آجاتی ہے۔ اور وہ حصول مدعا کے لئے تدبیر کرنی چاہتا ہے، مگر چونکہ انجام کار معلوم نہیں اس لئے وہ خود اطمینان کے ساتھ

کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، ناچار خدا کے پاس حاجت لے جاتا ہے کہ وہ صحیح تدبیر پر اس کے ارادے کو استحکام بخشے۔

استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مکروہ اور حرام اوقات کے علاوہ جس وقت چاہے استخارہ کی نیت کرکے دو رکعت نماز پڑھے اور سورۂ فاتحہ کے بعد جو چاہے سورۃ یا آیت پڑھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد قُل یا اَیُّہَا الْکَافِرُوْن اور دوسری رکعت میں قُل ہُوَ اللّٰہُ اَحَد پڑھے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ یہ دُعا مانگے اور بجائے اَنْتَ هٰذَا الْاَمْرَ پر پہنچے تو اپنی حاجت کا نام لے جو سے پیش آئی ہے۔ مثلاً سفر، تجارت، تعمیر مکان وغیرہ۔ اور معمولی معمولی باتوں میں استخارہ نہیں علیٰ ہٰذا القیاس جو کام غیر مشروع ہو اس کے لئے بھی استخارہ درست نہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اِنْ كَانَ خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَادِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ
فَقَدِّرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ شَرًّا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ
وَمَعَادِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ
وَقَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ وَرَضِّنِيْ بِهٖ حِبْ مُصْ خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ
خَيْرًا لِّيْ فِيْ مَعِيْشَتِيْ وَخَيْرًا لِّيْ فِيْ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدُرْ لِيْ وَ
بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ خَيْرًا لِّيْ فَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا
كَانَ وَرَضِّنِيْ بِقَدَرِكَ حِبْ خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ وَاِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا الْاَمْرَ الَّذِيْ
يُرِيْدُ شَرًّا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ
ثُمَّ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ اَيْنَمَا كَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حِبْ
وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يَمْلِكُهُمَا
اَحَدٌ سِوَاكَ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَاَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا الْاَمْرَ الَّذِيْ يُرِيْدُهُ
خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَفِيْ دُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَوَفِّقْهُ وَسَهِّلْهُ
وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ خَيْرًا لِّيْ فَوَفِّقْنِيْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ لَ

ترجمہ: اور اگر وہ میرے دین اور آخرت اور دُنیا اور انجام کار میں بہتر ہو تو اس کو میرے لئے مقدر اور آسان کر اور مجھے اس میں برکت دے، اور اگر وہ میرے دین اور آخرت اور زندگی اور انجام کار میں بہتر نہ ہو تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے باز رکھ اور میرے لئے بہتری

مقدر کر اور مجھے اس پر راضی رکھ۔ ابن حبان، ابن ابی شیبہ (عن جابرؓ)

(اگر) وہ میرے لئے دین میں بہتر ہو اور میری زندگی میں بہتر ہو اور میرے انجام کار میں بہتر ہو تو اس کو میرے لئے مقدر فرمادے اور اسے مبارک کر اور اگر اس کے علاوہ اور کچھ میرے لئے بہتر ہو تو میری بہتری مقدر کر جہاں ہو، اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی رکھ۔ ابن حبان (عن ابی ہریرۃؓ)

(اور اگر وہ) میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہو تو اس کو میرے لئے مقدر فرمادے اور میرے لئے آسان کر دے، اور کذا کذا (کی جگہ اس کام کا نام لے جس کا ارادہ ہے) (اور اگر وہ) میرے دین، میری معیشت اور انجام کار کے لحاظ سے اچھا نہیں تو اس کو مجھ سے پھیر دے، پھر جہاں کہیں خیر ہو میرے لئے مقدر فرمادے۔ نیکی اور بدی کی طاقت و جرأت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ابن حبان (عن ابی سعیدؓ)

اور میں تجھ سے تیری مہربانی اور رحمت سے سوال کرتا ہوں، اس لئے کہ دونوں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیرے سوا ان کا کوئی مالک نہیں، کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو سب طرح کی قدرت رکھتا ہے اور میں کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اے اللہ! اگر یہ کام جس کا ارادہ ہے میرے لئے میرے دین و دنیا اور انجام میں بہتر ہے تو اس کی توفیق دے اور اسے آسان کر دے، اور اگر اس کے علاوہ میرے لئے بہتری ہو تو تو مجھے بہتری کی توفیق دے جہاں بھی وہ ہو۔ بزار (عن ابن مسعودؓ)

فَإِنْ كَانَ زَوَاجًا فَلْيَكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ فَيُحْسِنْ وُضُوْءَهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَيُمَجِّدْهُ ثُمَّ لْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ فِيْ فُلَانَةَ وَيُسَمِّيْهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِيْ فَاقْدُرْهَا لِيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا مِّنْهَا لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَآخِرَتِيْ فَاقْدُرْهَا لِيْ حِبَّ مُسْ

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللّٰهَ وَمِنْ شِقْوَتِهِ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللّٰهِ مُسْ ت

ترجمہ: اور اگر نکاح (کا قصد) ہو تو پیغام اور منگنی چاہے اور اچھی طرح وضو کرے جس قدر ہو سکے نماز پڑھے، پھر اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے، پھر کہے اے اللہ میں تو قدرت رکھتا ہے، اور مجھے کچھ قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور مجھے کچھ علم نہیں اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے اگر فلاں عورت (اس کا نام لے) میرے لئے میرے دین و دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دے، اور اگر دوسری عورت میرے لئے میرے دین اور آخرت کے لحاظ سے (۱) سے بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر فرما۔ ابن حبان، حاکم (عن ابی انیسہ)

ابن آدم کی نیک بختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرے، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ حاکم، ترمذی، (عن سعد بن ابی وقاص)

نکاح کے مسائل

وَاِنْ تَوَلّٰی عَقَدَ اَخْطَبَتُہٗ اَنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ
وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّاٰتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ یَّھْدِہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضْلِلْہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ
وَاَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَاَشْھَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ یٰٓاَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیْ
خَلَقَکُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَۃٍ وَّخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا
رِجَالًا کَثِیْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِہٖ وَالْاَرْحَامَ
اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا ○ یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ
تُقٰتِہٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا
اتَّقُوا اللّٰہَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا یُّصْلِحْ لَکُمْ اَعْمَالَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ
ذُنُوْبَکُمْ اَلْاٰیَۃَ عَہٗ مُسْ عَوْ وَرَسُوْلُہٗ اَرْسَلَہٗ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا
وَّنَذِیْرًا بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَۃِ مَنْ یُّطِعِ اللّٰہَ وَرَسُوْلَہٗ فَقَدْ رَشَدَ
وَمَنْ یَّعْصِھِمَا فَاِنَّہٗ لَا یَضُرُّ اِلَّا نَفْسَہٗ وَلَا یَضُرُّ اللّٰہَ شَیْئًا
دَ وَنَسْاَلُ اللّٰہَ اَنْ یَّجْعَلَنَا مِمَّنْ یُّطِیْعُہٗ وَیُطِیْعُ رَسُوْلَہٗ
وَیَتَّبِعُ رِضْوَانَہٗ وَیَجْتَنِبُ سَخَطَہٗ فَاِنَّمَا نَحْنُ بِہٖ وَلَہٗ مَوَدَ
وَیَقُوْلُ لِمَنْ تَزَوَّجَ بَارَکَ اللّٰہُ لَکَ خَ مُ وَبَارَکَ اللّٰہُ
عَلَیْکَ وَجَمَعَ بَیْنَکُمَا فِیْ خَیْرٍ عَہٗ حِبْ مُسْ اَوْ فَبَارَکَ اللّٰہُ

toobaa-elibrary.blogspot.com

عَلَیْکَ خُطْبَۃُ النِّکَاحِ

نکاح کا خطبہ

ترجمہ: اور اگر نکاح پڑھائے تو اس کا خطبہ یہ ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں، جس شخص کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی ذات وصفات میں یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو دین واحد (یعنی آدمؑ) سے پیدا کیا، اور (یہ اس طرح پر کہ پہلے) اس سے اس کی بیوی (حوّا) کو پیدا کیا اور ان دو (میاں بیوی) سے بہت سے مرد و عورت (دُنیا میں) پھیلا دیئے، اور خدا سے جس کا واسطہ دے دیگر تم اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو ڈرو۔ اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو کیونکہ اللہ تمہارا نگران حال ہے۔ نساء۔ رکوع ۱

مُسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مرنا۔ آل عمران۔ رکوع ۱۵

مُسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور بات (بھی) کہو (تو راہ کی اور) سیدھی (سچی) ایسا کرو گے) تو (خدا) تم کو اعمال صالحہ کی توفیق دے گا، اور تمہارے گناہ (بھی) بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسولؐ کا کہا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ احزاب۔ رکوع ۹

سنن اربعہ، حاکم، ابوعوانہ (عن ابن مسعودؓ)

(ایک روایت میں اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ کے بعد یہ بھی ہے) اللہ نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہ قیامت سے پہلے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور ہدایت پائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کریگا تو وہ اپنی ہی جان کو ضرر پہنچائیگا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا ابوداؤد (عن ابن مسعودؓ)

اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اس کی اور اسکے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی مرضی پر چلتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ اس لئے کہ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے فرماں بردار ہیں۔ ابوداؤد، موقوفاً (عن فاطمہؓ)

اور جس شخص کا نکاح ہو اس سے کہے، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ بخاری، مسلم (عن انسؓ)

خدا تمہیں مبارک کرے اور تم دونوں میں بھلائی پر اتفاق رکھے۔ سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

(یا) خدا تمہیں مبارک کرے[۱]۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ)

نکاح کی مبارکباد

شرح: چونکہ روایتوں کے مختلف الفاظ تھے اس لئے مصنفؒ نے سب کو بیان کر دیا، لیکن معنی ایک ہی سے ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَلَمَّا زَفَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَاطِمَةَ دَخَلَ الْبَيْتَ
فَقَالَ لِفَاطِمَةَ ائْتِنِي بِمَاءٍ فَقَامَتْ إِلَى قَعْبٍ فِي الْبَيْتِ فَاتَتْ
فِيهِ بِمَاءٍ فَاَخَذَهُ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا تَقَدَّمِي فَتَقَدَّمَتْ
فَنَضَحَ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا وَعَلَى رَأْسِهَا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَدْبِرِي فَأَدْبَرَتْ
فَصَبَّ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمَاءٍ قَالَ عَلِيٌّ فَعَلِمْتُ
الَّذِي يُرِيدُ فَقُمْتُ فَمَلَأْتُ الْقَعْبَ مَاءً وَأَتَيْتُهُ بِهِ فَاَخَذَهُ
وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمْتُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِي وَبَيْنَ
يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُعِيذُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرْتُ فَصَبَّ بَيْنَ كَتِفَيَّ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ
إِنِّي أُعِيذُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَالَ
اُدْخُلْ بِأَهْلِكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْبَرَكَةِ حب

ترجمہ: جب آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کیا تو گھر میں تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہؓ سے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ، پھر وہ ایک لکڑی کے پیالہ کے پاس جو گھر میں رکھا تھا گئیں اور اس میں پانی لائیں، آپؐ نے اس پیالہ کو لیا اور اس میں کلی کر دی پھر ان سے فرمایا آگے آؤ، وہ آگے آئیں پھر آپ نے وہ پانی ان کے سینے اور سر پر چھڑکا، اور دعا مانگی اے اللہ! میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں، پھر فرمایا پیٹھ پھیرو، انہوں نے پیٹھ پھیری تو آپ نے ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان پانی ڈالا، اور فرمایا اے اللہ! میں اس

حضرت فاطمہؓ کے نکاح کا ذکر

toobaa-elibrary.blogspot.com

کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اے علیؓ مجھے پانی دو، حضرت علیؓ کہتے ہیں میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، میں کھڑا ہوا، اور ایک پیالہ پانی کا بھر کر آپ کے پاس لے گیا جب آپ نے اسے لے کر اس میں کلی کی اور فرمایا آگے بڑھو، میں آگے بڑھا، پھر آپ نے میرے سر اور سینے پر پانی ڈالا اور دعا کی اے اللہ! میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر فرمایا پیٹھ پھیرو میں نے پیٹھ پھیری تو آپ نے میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان پانی ڈالا اور فرمایا اے اللہ! میں اس کو اور اسکی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اپنی اہلیہ کے پاس اللہ کے نام اور اس کی برکت سے داخل ہو۔ ابن حبان (عن انسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا دَخَلَ بِاَهْلِهٖ اَوِ اشْتَرٰى رَقِيْقًا فَلْيَاْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا دَسَ
صِ ثُمَّ لْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا
عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ دَسَ قَ
صِ مُسْ وَكَذٰلِكَ فِى الدَّآبَّةِ وَيَاْخُذُ بِذُرْوَةِ سَنَامِ الْبَعِيْرِ
دَسَ صِ وَكَانَ اِذَا اشْتَرٰى مَمْلُوْكًا قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ
فِيْهِ وَاجْعَلْهُ طَوِيْلَ الْعُمْرِ كَثِيْرَ الرِّزْقِ مَوْمُصْ وَاِذَا
اَرَادَ الْجِمَاعَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ
مَا رَزَقْتَنَا عَ فَاِذَا اَنْزَلَ قَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا
رَزَقْتَنِىْ نَصِيْبًا مَوْمُصْ

ترجمہ (جب کوئی اپنی بیوی کے پاس (پہلی مرتبہ) جائے یا غلام خریدے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ کہنا چاہئے (ابوداؤد، نسائی، ابویعلیٰ (عن عمرو بن العاصؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس عادت پر تو نے اسکو پیدا کیا ہے۔ اسکی بھلائی چاہتا ہوں، اور اسکی برائی اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ ابویعلی، حاکم (عن عمرو بن العاصؓ)

اور اسی طرح چوپائے میں دعا کرے، اور اونٹ ہو تو اس کے کوہان کی بلندی پکڑ کر دعا کرے۔ ابوداؤد، نسائی۔ ابویعلیٰ (عن ابن مسعودؓ)

(اور عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) جب غلام خریدتے تھے تو فرماتے تھے، خداوندا! اس میں برکت عطا فرما اور اس کو بڑی عمر اور بہت رزق والا کر۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابن مسعودؓ)

جب صحبت کا ارادہ کرے تو کہے (یہ) اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) اے اللہ! تو ہمیں شیطان سے بچا، اور شیطان کو اس چیز (یعنی اولاد) سے الگ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ صحاح ستہ (عن ابن عباسؓ)

پھر جب انزال ہو تو کہے اے اللہ! جو چیز تو نے مجھے عطا کی ہے اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ رکھ۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً عن ابن عباسؓ

شرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صحبت کے وقت یہ دعا پڑھے گا اور اسکے لڑکا پیدا ہوگا تو شیطان اس کو کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

مسئلہ بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت اور غلام خریدنے کی دعائیں

وَاِنْ اُتِیَ بِمَوْلُوْدٍ اَذَّنَ فِیْ اُذُنِهٖ حِیْنَ وِلَادَتِهٖ دَتِ
وَوَضَعَهٗ فِیْ حَجْرِهٖ وَحَنَّكَهٗ بِتَمْرَةٍ وَّدَعَالَهٗ وَبَرَّكَ عَلَیْهِ خَ
مُ وَاَمَرَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْمِیَةِ الْمَوْلُوْدِ یَوْمَ سَابِعِهٖ
وَوَضْعِ الْاَذٰی عَنْهُ وَالْعَقِّ تِ وَتَعْوِیْذُ الطِّفْلِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ
اللّٰهِ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَیْطَانٍ وَّهَآمَّةٍ وَّمِنْ شَرِّ كُلِّ عَیْنٍ
لَآمَّةٍ خَ عَهٗ رَ وَاِذَا اَفْصَحَ الْوَلَدُ فَلْیُعَلِّمْهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ ی وَكَانَ اِذَا اَفْصَحَ الْوَلَدُ مِنْ بَنِیْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهٗ
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا اَلْاٰیَةَ ی اِضْرِبُوْهُ
عَلَی الصَّلٰوةِ لِسَبْعٍ وَّاعْزِلُوْا فِرَاشَهٗ لِتِسْعٍ وَّزَوِّجُوْهُ لِسَبْعَ
عَشْرَةَ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَلْیُجْلِسْهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ لْیَقُلْ
لَاجَعَلَكَ اللّٰهُ عَلَیَّ فِتْنَةً ی

ترجمہ: اور اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان کہے۔ ابوداؤد، ترمذی، (عن ابی رافع)

اور اسے گود میں لے اور اس کو چھوارا چبا کر دے اور اس کے لئے دعا کرے اور برکت مانگے، بخاری، مسلم (عن اسماء بنت ابی بکرؓ)

اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بچہ کی پیدائش کے ساتویں دن اس کا نام رکھنے اور اس کے (میل کچیل) کی تکلیف دور کرنے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی (عن عمرو بن العاصؓ)

اور بچہ کا تعویذ یہ ہے، میں اللہ کے کلمات تامہ کی ہر شیطان اور ہر زہریلے کاٹنے والے اور ہر لگ جانے والی نظر کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخاری۔ مسند احمد۔ بزار (عن ابن مسعودؓ)

بچہ بولنے لگے تو اس کو لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سکھائے۔ ابن سنی (عن عمرو بن العاصؓ)

بچہ کی پیدائش کی دعا

(۱۸)

جب عبدالمطلب کے قبیلہ کا کوئی بچہ بولنے لگتا تو آپ اسے یہ (آیت) سکھاتے اور کہہ کہ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ (دونوں جہاں کی) سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس سبب سے کہ کمزور ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائیاں کرتے رہا کرو۔" ابن سنی (عن انسؓ)

سات برس کی عمر میں بچہ کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، اور نو برس کی عمر میں اس کا بستر علیحدہ کر دو اور سترہ سال کی عمر میں اس کی شادی کر دو، پھر جب ایسا کر لے (یعنی شادی کرے) تو اس کو اپنے سامنے بٹھا کر کہنا چاہیے۔ اللہ تعالےٰ تجھے میرے لئے آزمائش نہ بنائے۔ ابن سنی (عن انسؓ)

شرح: تحنیک، کھجور یا کسی مٹھائی کو چبا کر بچے کے تالو میں لگانے کو کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت کھجور سے تحنیک کرنی سنت ہے اور مستحب یہ ہے کہ تحنیک کرنے والا نیک و صالح ہو۔

یعنی اسے نہلائے تاکہ سر منڈوانے اور پیدائش کے بعد سے جو میل کچیل لگ رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کے نزدیک عقیقہ کرنا سنت ہے، اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مستحب یا مباح ہے اور عقیقہ کے جانور کے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں، اور لڑکے کے لئے وہ اور لڑکی کے لئے ایک جانور کرنا مستحب ہے۔

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ پر انھیں کلمات کو دم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمٰعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ انہی الفاظ سے تعویذ کرتے تھے۔

ان کلمات کو پڑھ کر بچے پر دم کر دے یا لکھ کر گلے میں ڈال دے۔

یعنی اسے تنبیہ کرو، معمولی سزا دو، تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔

واعزلوا: یعنی ماں باپ اسے شب میں اپنے کمرہ وغیرہ میں یا اپنے بستر پر نہ سلائیں بلکہ علیحدہ سلائیں مبادا وہ رات کو جاگ جائے اور بے پروگی ہو۔

تاکہ ہر قسم کی برائی، زنا وغیرہ سے بچے اور اخلاق رذیلہ سے محفوظ رہے۔

اللہ تعالےٰ آزمائش نہ کرے بلکہ نیکبخت اور صالح کرے کہ اسی کی وجہ سے ظالم یا گنہگار نہ ہوں اور وہ گمراہی کا سبب نہ ہو۔

وَاِنْ كَانَ سَفَرًا صَافِحْ وَقَالَ حِبَّ اَیِ الْمُقِیْمُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ
دِیْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِیْمَ عَمَلِكَ سَ دَتِ مُسْ حِبَّ
وَاَقْرَأُ عَلَیْكَ السَّلَامَ سَ وَیَقُوْلُ لِمَنْ یُّوَدِّعُهٗ اَسْتَوْدِعُكَ
اَوْ اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا یُخِیْبُ اَوْ لَا تُضِیْعُ طَبْ وَدَائِعَهٗ
یَ طَبْ وَمَنْ قَالَ لَهٗ اُرِیْدُ السَّفَرَ فَاَوْصِنِیْ قَالَ لَهٗ عَلَیْكَ
بِتَقْوَی اللّٰهِ وَالتَّكْبِیْرِ عَلٰی كُلِّ شَرَفٍ فَاِذَا وَلّٰی قَالَ اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ
الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَیْهِ السَّفَرَ تِ سَ قَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰی
وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَیَسَّرَ لَكَ الْخَیْرَ حَیْثُ مَا كُنْتَ تِ مُسْ جَعَلَ
اللّٰهُ التَّقْوٰی زَادَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَ لَكَ الْخَیْرَ حَیْثُمَا تَوَجَّهْتَ
رَطَ

مسافر کو رخصت کرنا

ترجمہ: اور اگر کوئی سفر کرے تو اس سے مصافحہ کرے اور (رخصت کرنے والا اس سے) کہے میں تمہارا دین، تمہاری امانت (یعنی مال و اولاد) اور تمہارے انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نسائی، ابوداؤد، ترمذی، حاکم، ابن حبان (عن ابن عمرؓ) اور میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ نسائی (عن ابن عمرؓ)

سفر کی دعائیں

اور مسافر رخصت کرنے والے سے کہے، میں تجھے (اگر ایک ہو) یا (اگر بہت سے ہوں تو) تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس امانتیں بیکار یا ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ ابن سنی، طبرانی، (عن ابی ہریرۃؓ)

اور جو شخص مقیم سے کہے کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ نصیحتیں کیجئے، تو اس سے کہے اللہ کا ڈر اور ہر بلندی پر تکبیر لازم رکھو پھر جب وہ چلا جائے تو کہے اے اللہ! اس کا فاصلہ طے کردے اور اس پر سفر آسان کردے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرۃؓ)

خدا تجھے تقویٰ نصیب کرے اور تیرے گناہ بخش دے اور تیرے لئے خیر آسان کردے جہاں تو رہے۔ ترمذی، حاکم (عن انسؓ)

اللہ تعالیٰ پرہیزگاری تمہارا توشہ بنائے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور تمہارے لئے بہتری پیش لائے جہاں کا تم رُخ کرو۔ بزار، طبرانی (عن قتادہ بن عباسؓ)

شرح : راستہ کی دُوری کو لپیٹ دے یعنی دوری کو نزدیکی سے بدل دے اور راستہ قریب کردے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَإِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللّٰهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا مُرْعَهُ إِنْطَلِقُوا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَإِذَا مَشَى مَعَهُمْ قَالَ انْطَلِقُوا عَلَى اسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ أَعِنْهُمْ مُسْ وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ اللّٰهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَسِيرُ رَ وَإِنْ خَافَ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَقِرَاءَةُ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ آمَانٌ مِّنْ كُلِّ سُوْءٍ مُوْ مُجَرَّبٌ

ترجمہ: اور (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) جب کسی کو بڑے یا چھوٹے لشکر پر سردار بناتے، تو خاص طور پر اس کے حق میں خدا سے ڈرنے کی اور مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی نصیحت فرماتے، پھر ارشاد کرتے، اللہ کے راستہ میں اللہ کے نام سے جہاد کرو، اور جو شخص اللہ کا انکار کرے اسے قتل کرو، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، اور عہد شکنی نہ کرو، اور کسی کے ناک کان وغیرہ نہ کاٹو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔ (مسلم، سنن اربعہ (عن بریدہ ابن الحصیب الاسلمی رض)

اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد کے ساتھ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلو اور کسی بوڑھے کھوسٹ اور دودھ پیتے بچے، اور چھوٹے بچے اور عورت کو قتل مت کرو، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، اور غنیمتیں جمع کرو، اور آپس کے معاملات درست رکھو، اور احسان کرو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ (ابوداؤد، (عن انس رض)

سردار لشکر کو نصیحتیں

اور جب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے تو فرماتے اللہ کے نام پر چلو، اے اللہ! ان کی مدد فرما۔ حاکم۔ (عن ابن عباسؓ)

اور جب کوئی سفر کا ارادہ کرتے تو کہتے اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے حیلہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے چلتا ہوں۔ بزار، احمد، (عن علیؓ)

اور اگر دشمن یا دشمن کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف ہو تو کہا جائے قریش کا پڑھنا ہر برائی اور تکلیف سے حفاظت کا سبب ہے موقوفاً یہ ابوالحسن قزوینی کا قول ہے، جو بہت بڑے ولی اللہ اور صاحب کرامت تھے، اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔

شرح: جو میدان جنگ میں نہ لڑ سکے اور جنگ کے بارے میں صلاح مشورہ نہ دے سکے، اور اگر تدبیر (انتظام کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے قتل کر دینا چاہیے۔

اور اگر فتنہ انگیز عورت ہو یا لڑائی میں شرکت کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَإِذَا اسْتَوٰى عَلٰى
ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مَرَّةً سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ دَ تِ سَ
حِبْ أَ مُسْ وَإِذَا اسْتَوٰى كَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَرَأَ سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا الْآيَةَ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا
هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا
سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ
وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ
وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ
وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا
حَامِدُوْنَ مُ دَ سَ تِ وَإِذَا رَكِبَ مَدَّ إِصْبَعَهُ وَقَالَ
اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ
اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ اَللّٰهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَ
هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ
وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ تِ سَ مَا مِنْ بَعِيْرٍ إِلَّا فِي ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِذَا رَكِبْتُمُوهُ كَمَا أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَطْ

سوار ہونے کی دعائیں

ترجمہ: جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھے تو کہے بسم اللہ پھر جب (اچھی طرح) اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو کہے اللہ کا شکر ہے، (اور) پاک ہے وہ (ذات) جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا ہے اور ہم (ایسے طاقت ور) نہ تھے کہ ان کو (اپنے) قابو میں کر لیتے، اور بیشک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الحمد للہ تین بار، اللہ اکبر تین بار، لا الٰہ الا اللہ ایک بار، تو پاک ہے بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، احمد، حاکم (عن علیؓ)

سفر سے واپسی کی دعائیں

اور جب اطمینان سے (سواری پر) بیٹھ جائے، تو تین بار اللہ اکبر اور سبحان الذی سخر لنا هذا الخ پاک ہے وہ (ذات) جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا ہے، اور ہم (ایسے طاقت ور) نہ تھے کہ ان کو (اپنے) قابو میں کر لیتے، اور بیشک ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پڑھے اور کہے اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے سفر میں نیکی اور پرہیزگاری اور تیری خوشنودی کے کام چاہتے ہیں، اے اللہ! ہم پر ہمارا یہ سفر آسان کر دے، اور اس کا فاصلہ طے کر دے، الٰہی تو ہی سفر میں رفیق اور گھر والوں میں نائب ہے، اے اللہ! میں تجھ سے سفر کی مشقت اور ناگوار منظر اور مال اور اہل و اولاد میں واپسی پر خرابی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جب سفر سے لوٹنے لگے تب بھی یہی کہے، اور اتنا اور زیادہ کرے، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کا شکر کرنے والے ہیں، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن ابن عمرؓ)

اور جب سوار ہو تو (اپنی انگلی) اٹھائے اور کہے اے اللہ! تو ہی سفر میں رفیق اور گھر والوں میں نائب ہے اور ہمیں اپنی حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی نگرانی میں (وطن) واپس لے اے اللہ! ہمارے لئے زمین طے کر اور ہم پر سفر آسان فرما، اے اللہ! میں سفر کی مشقت اور ناگوار منظر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ (ترمذی، النسائی (عن ابی ہریرہؓ)

کوئی اونٹ ایسا نہیں ہے جس کے کوہان کی بلندی میں شیطان نہ ہو تو جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ عزوجل نے جس طرح تمہیں حکم دیا ہے، اس کا نام لو، پھر اسے اپنی خدمت کے لئے استعمال میں لاؤ (اور سوار ہو جاؤ) کیونکہ اللہ عزوجل ہی سوار کرتا ہے۔ احمد، طبرانی (عن ابن العاصؓ)

وَيَتَعَوَّذُ فِي السَّفَرِ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ مُتِ سَ قَ اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغًا يُبَلِّغُ خَيْرًا وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاَطْوِلَنَا الْاَرْضَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ صِ ىَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِيْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِيْ اَهْلِنَا تِ سَ وَاِذَا عَلَا ثَنِيَّةً كَبَّرَ وَاِذَا هَبَطَ سَبَّحَ خَ سَ دَ وَاِذَا اَشْرَفَ عَلٰى وَادٍ هَلَّلَ وَكَبَّرَ عَ وَاِنْ عَثَرَتْ بِهٖ دَآبَّتُهٗ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ سَ مُسْ اَ طَ

ترجمہ: اور سفر میں سفر کی مشقت اور واپسی کی بُرائی اور زیادتی کے بعد نقصان اور مظلوم کی بددعا اور اہل اور مال میں بُرائی دیکھنے سے پناہ مانگے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، (عن عبداللہ بن سرجسؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے ایسا وسیلہ مانگتا ہوں جو خیر پہنچائے اور تیری بخشش اور رضا چاہتا ہوں بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیشک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ! تو ہی سفر میں رفیق اور گھر والوں میں نائب ہے۔ اے اللہ! ہم پر ہمارا سفر آسان کر دے اور ہمارے لئے زمین طے کر دے۔ اے اللہ! میں سفر کی مشقت اور بری واپسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابویعلیٰ، ابن سنی (عن براء بن عازبؓ)

اے اللہ! تو ہی سفر میں ساتھی اور گھر والوں میں نائب ہے، اے اللہ! تو سفر میں ہمارا رفیق اور گھر والوں میں ہمارا نائب ہو جا۔ ترمذی، نسائی (عن عبداللہ بن سرجسؓ)

سفر کی مشقت سے پناہ

بلندی پر چڑھنے اور اترنے کی دعا

جب کسی بلندی (ٹیلے یا پہاڑ وغیرہ) پر چڑھے تو "اللہ اکبر" کہے اور نیچے اترے تو "سبحان اللہ" کہے۔ (بخاری، نسائی، ابو داؤد، (عن جابرؓ)

اور جب کسی وادی پر چڑھے تو "لا الہ الا اللہ" اور "اللہ اکبر" کہے۔ صحاح ستہ (عن ابی موسی الاشعریؓ)

اور اگر اس کا جانور اس کو لے کر پھیلے یا اوندھا ہو تو بسم اللہ کہے۔ نسائی، حاکم، طبرانی، (عن ابی المیلع)۔ احمد (عن ابی تمیمہؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا رَكِبَ الْبَحْرَ اَمَانٌ مِّنَ الْغَرَقِ اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖيهَا اَلْاٰيَةَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اَلْاٰيَةَ فِي الزُّمَرِ ط صِرٰى وَاِذَا انْفَلَتَتْ دَآبَّتُهٗ فَلْيُنَادِ اَعِيْنُوْا يَا عِبَادَ اللّٰهِ مَرَ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ مُوْمُصْ وَاِنْ اَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ ط وَقَدْ جُرِّبَ ذٰلِكَ ط وَاِذَا اَشْرَفَ عَلٰى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَّلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِصِرٰى

ترجمہ: اور جب دریا کا سفر کرے تو ڈوبنے سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہے اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اور ان لوگوں نے تو خدا کی جیسی قدر کرنی چاہئے تھی اس کی قدر نہ کی حالانکہ (وہ ایسی عظمت اور قدرت رکھتا ہے کہ) قیامت کے دن (یہ) ساری زمین اس کی ایک مٹھی (میں) ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے اُس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، لوگ جیسے جیسے شرک کرتے ہیں خدا (کی ذات) اس سے پاک اور (اس کی شان اس سے بہت) بلند ہے، طبرانی، ابو یعلے، ابن سنی (عن حسین بن علیؓ)

اور جب اس کا جانور بھاگ جائے، تو پکار کر کہے، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ ہزار (عن ابن عباسؓ) اللہ تم پر رحم کرے، ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابن عباسؓ)

اور اگر مدد چاہے تو تین بار کہے اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ طبرانی (عن زید بن علیؓ)

اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔ طبرانی (عن عقبۃ الغزوانیؓ)

اور جب کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو کہے اے اللہ تو ہی ہر بلندی سے اونچا ہے، اور ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ احمد، ابو یعلے، ابن سنی، (عن انسؓ)

دریا کے سفر کی دعا

سفر میں جانور کے بھاگ جانے اور مدد مانگنے کا ذکر

اونچی جگہ پر چڑھنے کی دعا

وَاِذَا رَاٰی بَلَدًا یُّرِیْدُ دُخُوْلَهَا قَالَ حِیْنَ یَرَاهَا اَللّٰهُمَّ رَبَّ
السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرَضِیْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ
وَرَبَّ الشَّیَاطِیْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّیَاحِ وَمَا ذَرَیْنَ فَاِنَّا
نَسْاَلُكَ خَیْرَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ وَخَیْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا سَحِبْ مُسْ اَسْاَلُكَ خَیْرَهَا
وَخَیْرَ مَا فِیْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا ط وَعِنْدَ
مَا یُرِیْدُ اَنْ یَّدْخُلَهَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰی اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِیْ اَهْلِهَا
اِلَیْنَا طس وَاِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَاِنَّهٗ لَمْ یَضُرَّهٗ شَیْءٌ حَتّٰی یَرْتَحِلَ مُتِ
سَ قَ اَ طَ مُصْ

ترجمہ: اور جب وہ شہر دیکھے جس میں جانا ہے تو کہے اے اللہ! ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے پروردگار جن پر آسمان سایہ افگن ہیں اور ساتوں زمینوں اور ان چیزوں کے رب جن کو یہ زمینیں اٹھائی ہوئی ہیں اور شیاطین اور ان لوگوں کے رب جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہو اور ہواؤں اور ان چیزوں کے رب جن کو ان ہواؤں نے پراگندہ کر دیا ہے ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس بستی کے لوگوں کی بھلائی مانگتے ہیں اور اس کی برائی اور اس کے لوگوں کی برائی اور اسکے اندر کی برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ نسائی، ابن حبان، حاکم عن صہیب رضی اللہ عنہ

میں تجھ سے اس (شہر) کی بھلائی اور اس (شہر) کے اندر کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے اس (شہر) کی اور اس (شہر) کے اندر کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، طبرانی، زعن لبابہ بن ابی رفاعۃ بن عبد المنذر الانصاری رضی اللہ عنہ

اور جس وقت اس کے اندر جانا چاہے تو تین بار کہے اے اللہ! ہمیں اس میں برکت دے،

شہر میں داخل ہونے کی دعا

شہر سے نکلنے کی دعا

(اور یہ دعا کرے) اے اللہ! ہمیں اس کے میوے نصیب فرما (یعنی نفع دے) اور ہمیں اس کے رہنے والوں کا محبوب کر دے، اور اس کے نیک لوگوں کو ہمارا دوست بنا دے۔ طبرانی فی الاوسط (عن عائشہؓ)

اور جب کسی منزل (قیام گاہ) میں اترے تو کہے میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں، اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، تو یقیناً جب تک وہ کوچ کرے گا اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، طبرانی، ابن ابی شیبہ (عن خولہ بنت الحکیمؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا اَمْسٰى وَاَقْبَلَ اللَّيْلُ يَا اَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ اَسَدٍ وَّاَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ
وَمِنْ وَّالِدٍ وَّمَا وَلَدَ دَسْ مُسْ وَوَقْتَ السَّحَرِ يَقُوْلُ سَمِعَ
سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهٖ وَحُسْنِ بَلَآئِهٖ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا
وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَآئِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ مُدَّسْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ
ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَّيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهٗ عَوْمُسْ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَتُحِبُّ يَا جُبَيْرُ اِذَا خَرَجْتَ فِيْ سَفَرٍ اَنْ تَكُوْنَ اَمْثَلَ
اَصْحَابِكَ هَيْأَةً وَّاَكْثَرَهُمْ زَادًا فَقُلْتُ نَعَمْ بِاَبِيْ اَنْتَ
وَاُمِّيْ قَالَ فَاقْرَاْ هٰذِهِ السُّوَرَ الْخَمْسَ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ
وَاِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَافْتَتِحْ كُلَّ سُوْرَةٍ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ وَاخْتِمْ قِرَاءَتَكَ بِهَا قَالَ جُبَيْرٌ وَّكُنْتُ غَنِيًّا كَثِيْرَ الْمَالِ
فَكُنْتُ اَخْرُجُ فِيْ سَفَرٍ فَاَكُوْنُ اَبَدَّهُمْ هَيْأَةً وَّاَقَلَّهُمْ
زَادًا فَمَا نَزَلْتُ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَرَاْتُ بِهِنَّ اَكُوْنُ مِنْ اَحْسَنِهِمْ هَيْأَةً وَّاَكْثَرِهِمْ
زَادًا حَتّٰى اَرْجِعَ مِنْ سَفَرِيْ ص

toobaa-elibrary.blogspot.com

اور جب شام ہو، اور رات آئے تو کہے اے زمین میرا اور تیرا رب "اللہ" ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تیری بُرائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ پر چلتی ہے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیر اور کالے اژدہے سے اور سانپ اور بچھو سے اور شہر کے رہنے والوں کی برائی سے اور جننے والے (باپ) اور جنے ہوئے (بیٹے) کی برائی سے۔ ابوداؤد، نسائی، حاکم (عن عمرؓ)

اور مسافر پچھلی رات کے وقت کہے سن لی سننے والے نے اللہ کی تعریف اور اس کی نعمت کا اقرار اور ہم پر اس کی خوبی نعمت، اے ہمارے پروردگار ہمارا رفیق ہو جا، اور ہم پر فضل فرما حالانکہ (میں یہ بات) دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے (کہہ رہا ہوں) مسلم، ابوداؤد، نسائی، (عن ابی ہریرہؓ)

اور اس کو تین بار بآواز بلند کہے۔ ابوعوانہ، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبیرؓ ابن مطعم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو اپنے دوستوں سے صورت اور حالت میں بہتر اور توشہ (دولت میں) بڑھ کر ہو (حضرت جبیرؓ نے) عرض کیا جی ہاں! میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا تو یہ پانچ سورتیں پڑھ لیا کرو، قل یاایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ہر سورت کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع کرو۔ اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو، حضرت جبیر کہتے ہیں میں دولتمند اور مالدار تھا، مگر سفر کرتا تھا تو (اپنے ساتھیوں میں سب سے) زیادہ تباہ حال اور مفلس ہو جاتا تھا، جب سے میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے یہ سورتیں سیکھیں اور ان کو ہمیشہ پڑھنے لگا تو سفر سے واپسی تک (اپنے سب دوستوں سے زیادہ) اچھے حال اور دولتمند رہتا۔ ابو یعلیٰ (عن جبیرؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَا رَاكِبٌ يَخْلُوْ فِيْ مَسِيْرِهٖ بِاللّٰهِ وَذِكْرِهٖ اِلَّا رَدِفَهُ اللّٰهُ بِمَلَكٍ وَّ لَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَّنَحْوِهٖ اِلَّا رَدِفَهُ بِشَيْطَانٍ ط وَاِنْ كَانَ فِيْ حَجٍّ فَاِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ عَلَى الْبَيْدَآءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ خ فَاِذَا اَحْرَمَ لَبَّى لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ع لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَآءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ لَبَّيْكَ مَوْمُ عَهٗ لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ سَ قَ حِبْ مُسْ وَاِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهٖ سَاَلَ اللّٰهَ مَغْفِرَتَهٗ وَرِضْوَانَهٗ وَاسْتَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ ط

ترجمہ:- جو کوئی سوار (مسافر) چلتے وقت (اثنائے راہ میں دنیاوی خیالات اور فکروں سے) خالی ہوکر اللہ اور اسکے ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالےٰ اسکے پیچھے ایک فرشتہ سوار کردیتا ہے، اور اگر (برے) شعروغیرہ میں مشغول ہوتا ہے تو اسکے پیچھے ایک شیطان سوار کردیتا ہے طبرانی (عن عقبہ بن عامرؓ)

اور اگر مسافر سفرِ حج میں ہو تو جب اس کی سواری (مقام) بیدا پر ٹھیرے تو الحمد للہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے۔ بخاری (عن انسؓ)

اور جب احرام باندھے تو اس طرح تلبیہ کہے، میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور نعمتیں تیری ہی ہیں، اور سلطنت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ صحاح ستہ (عن ابن عمرؓ)

میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اور فرماں برداری کے لئے تیار ہوں، اور ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، اور تو ہی مقصود ہے اور تیرے ہی پاس اعمال جاتے ہیں، میں حاضر ہوں، سنن اربعہ موقوفاً (عن ابن عمرؓ)

میں حاضر ہوں، اے معبود برحق! میں حاضر ہوں۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

اور جب تلبیہ سے فارغ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت اور اس کی خوشنودی مانگے، اور دوزخ سے چھٹکارا چاہے۔ طبرانی (عن خزیمۃ بن ثابت الانصاریؓ)

شرح : یعنی جو کوئی سواری کے وقت خدا کی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس کی نگرانی اور مدد کرتا ہے، اور اس کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور بدی سے باز رکھتا ہے اور اگر بیہودہ باتوں اور نامعلوم شغل گوئی میں مصروف ہوتا ہے تو ایک شیطان معین کر دیتا ہے جو اسے بُری راہ بتاتا ہے۔

جب کہ سے مدینہ جاتے ہیں تو مسجد ذوالحلیفہ کے سامنے جو اونچی جگہ آتی ہے اس کو بیداء کہتے ہیں۔

جب کوئی شخص فریضہ حج ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتا ہے تو بغیر سلے ہوئے کپڑے یعنی ایک تہمند اور ایک چادر پہنتا ہے اسے احرام کہتے ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَاِذَا طَافَ كُلَّمَا اَتَى الرُّكْنَ كَبَّرَ خ وَيَقُوْلُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ دَسَ حِبْ مُسْ مُصْ وَكَذٰلِكَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحِجْرِ مَوْمُصْ وَفِى الطَّوَافِ مُسْ اَوْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مَوْمُصْ اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ مُسْ مَوْمُصْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ مَوْمُصْ

طواف کا ذکر

ترجمہ : اور جب (خانہ کعبہ کا) طواف کرے اور رکن[1] (یعنی حجر اسود) پر پہنچے تو "اللہ اکبر" کہے۔ بخاری (عن ابن عباسؓ)

اور دونوں رکن (رکن حجر اسود اور رکن یمانی) کے درمیان کہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا، ابوداؤد، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن عبداللہ بن السائبؓ)

اور اسی طرح یہ آیت "رَبَّنَا اٰتِنَا" رکن اسود اور حطیم کے درمیان پڑھے۔ موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن عبداللہ بن السائبؓ)

اور طواف میں (بھی یہ آیت پڑھے) حاکم (عن عبداللہ بن السائبؓ)

یا رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کہے۔ موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن بن عمرؓ)

اے اللہ! جو کچھ تو نے مجھے نصیب کیا ہے اس پر مجھے قناعت دے، اور اس میں میرے لئے برکت فرما، اور ہر اس چیز میں جو میری نظر سے غائب ہے خیریت کے ساتھ میرا نگراں رہ۔ حاکم موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن ابن عمرؓ)

شرح : [1] رکن جہاں مطلق رکن بولا جائے تو اس سے وہ رکن مراد ہوتا ہے جس میں حجر اسود ہے۔

طواف کا طریقہ یہ ہے کہ جب رکن کے سامنے آئے تو بسم اللہ، الحمد للہ، لا الٰہ الا اللہ اللہ اکبر اور درود پڑھ کر خانہ کعبہ کے دروازہ کی طرف سے طواف شروع کرے جب ایک پھیرا کر چکے جس کو شوط کہتے ہیں تو سات بار شوط اسی طرح ادا کرے، اور جب اللہ اکبر کہے تو دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھا کر ہتھیلیاں حجر اسود کے سامنے کرے پھر اس کو بوسہ دے اور حجر اسود کے بوسہ دینے کا یہ طریقہ ہے کہ ہتھیلیاں حجر اسود پر رکھ کر ان کے درمیان منہ سے اس کو چومے مگر اس طرح کہ آواز نہ ہو، اور اگر منہ سے بوسہ نہ دے سکے تو اس کے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو لکڑی وغیرہ لگا کر اس کو چومے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کرے اور انگلیوں کو بوسہ دے اور مستحب یہ ہے کہ حجر اسود پر سجدہ کی طرح ماتھا اور ناک بھی رکھے اور بوسہ دے اس طرح تین بار کرے۔

حجر (حطیم) کعبہ کی وہ گول دیوار ہے جو شمال کی طرف ہے پہلے یہ دیوار کعبہ کے اندر تھی اب اس کو علیحدہ چھوڑ کر کعبہ کی دیوار ادھر بنائی ہے اس دیوار کی شکل نصف دائرہ کی سی ہے اور انہیں شرعی گز سے

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ
ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَإِذَا دَنَا مِنْهُ قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَرْقَى
الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُوَحِّدُ اللَّهَ وَ
يُكَبِّرُهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ ثُمَّ يَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ وَيَقُولُ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
ثُمَّ يَنْزِلُ الْمَرْوَةَ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي
سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَرْوَةَ فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ
كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا مُدَسَّقَ عَوْ وَإِذَا رَقِيَ الصَّفَا
كَبَّرَ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ
سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَصِيرُ مِنَ التَّكْبِيرِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ وَمِنَ

التَّهْلِيلِ سَبْعٌ وَيَدْعُو فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَيَسْأَلُ اللّٰهَ ثُمَّ يَهْبِطُ فَإِذَا رَقِيَ عَلَى الْمَرْوَةِ صَنَعَ كَمَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ مَوْطَامُصْ

صفا و مروہ کی سعی

ترجمہ: اور جب طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیمؑ کے پاس آکر یہ آیت پڑھے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ اور مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان کر کے دو رکعت نماز پڑھے (جس میں سورۂ فاتحہ کے بعد) پہلی رکعت میں "قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ" اور دوسری میں "قل ھو اللہ احد" پڑھے، پھر رکن کی طرف لوٹے اور اسے چومے پھر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف جائے اور جب اس کے قریب پہنچے تو پڑھے، بیشک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، میں اس چیز سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ عزوجل نے ابتدا کی ہے، پھر صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ کو دیکھے اور قبلہ رُو ہو کر خدا کی توحید بیان کرے اور تکبیر کہے اور کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور وہی قابلِ حمد ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا و یگانہ ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے (محمد) کی مدد کی، اور تنہا لشکر (کفار) کو شکست دی، پھر اس کے درمیان دعا کرے اور اسی طرح تین بار کہے، پھر مروہ کی طرف اترے یہاں تک کہ جب اس کے قدم نالہ کے نشیب میں اتریں تو دوڑے یہاں تک کہ جب چڑھنے لگے تو آہستہ چلے یہاں تک کہ جب مروہ پر آئے تو وہاں بھی اسی طرح کرے جس طرح صفا پر کیا تھا۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابوعوانہ (عن جابرؓ)

اور جب صفا پر چڑھے تو تین بار "اللہ اکبر" کہے اور کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ایسا سات مرتبہ کرے، تو اکیس بار تکبیر اور سات بار "لا الٰہ الا اللہ" ہو جائے گا اور اس کے درمیان دعا مانگے اور اللہ سے سوال کرے پھر نیچے اُتر آئے اور جب مروہ پر چڑھے تو اسی طرح کرے جس طرح صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ اپنی سعی سے فارغ ہو جائے۔ موقوفاً موطا، ابن ابی شیبہ (عن ابن عمرؓ)

شرح: مقام ابراہیم: ایک پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام لوگوں کو حج کے لئے آواز دی تھی، چنانچہ ارشاد باری ہے وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

(ترجمہ:۔ اور (سارے جہان کے) لوگوں میں حج کا اعلان کر دو)

اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اب وہ پتھر کعبہ کے سامنے ایک حجرہ میں ہے، تو حاجی کو چاہیے کہ اس حجرہ کے پیچھے کھڑے ہو کر طواف دوگانہ پڑھے، تاکہ وہ پتھر اس کے اور کعبہ کے بیچ میں ہو جائے، یہ دو رکعتیں ہر طواف کے بعد واجب ہیں خواہ طواف فرض ہو یا واجب یا نفل، اور اس دوگانہ کے لئے مقام ابراہیم افضل ہے، لیکن اگر دوسری جگہ بھی پڑھے گا تو جائز ہو جائے گی

سنت یہ ہے کہ سعی کے لئے فوراً نکل جائے، بلا عذر تاخیر نہ کرے۔

تین بار کلمہ توحید پڑھے اور تین بار دعا کرے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَيَدْعُوْ عَلَى الصَّفَا اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ
وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّيْ اَسْاَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ
اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّيْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِيْ وَاَنَا مُسْلِمٌ مُوطَا وَبَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ
الْاَكْرَمُ مُوَمُصْ وَاِذَا سَارَ اِلٰى عَرَفَاتٍ لَبّٰى وَكَبَّرَ
مُدَ وَخَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ
اَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ قَبْلِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تِ
اَكْثَرُ دُعَآئِيْ وَدُعَاءُ الْاَنْبِيَآءِ مِنْ قَبْلِيْ بِعَرَفَةَ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ
نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ
اَمْرِيْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَ
فِتْنَةِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَ
شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ مُصْ وَالتَّلْبِيَةُ
بِعَرَفَاتٍ سُنَّةٌ سَ مُسْ وَلَمَّا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَّقَالَ لَبَّيْكَ
اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ قَالَ اِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ طَسْ فَاِذَا صَلّٰى

الْعَصْرَ وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى وَنَقِّنِيْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِيْ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَسْلُكُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْاِنْسَانُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ مُؤْمِصُ

ترجمہ: اور صفا پر یہ دعا مانگے۔ اے اللہ! تیرا ارشاد ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اور میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے اسلام کی ہدایت کی ہے (اسی طرح) اس کو مجھ سے نہ چھین یہاں تک کہ تو مجھے دنیا سے مسلمان اٹھالے۔ موقوفاً موطا (عن ابن عمرؓ)

اور صفا اور مروہ کے درمیان کہے اے میرے پروردگار! مغفرت اور رحم فرما بیشک تو ہی عزت واکرام والا ہے موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن ابن مسعودؓ)

اور جب میدان عرفات کی طرف جائے تو تلبیہ اور تکبیر کہے، مسلم، ابوداؤد (عن ابن عمرؓ)

اور بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام نے کی وہ کلمہ توحید ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ (اپنی ذات و صفات میں) اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور وہی قابل تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ترمذی (عن عمرو بن شعیبؒ)

اکثر میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا عرفہ میں یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ! میرے دل میں نور کردے اور میرے کان میں نور کردے اور میری آنکھ میں نور کردے، اے اللہ! میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کردے اور میں سینے کے وسوسوں اور کام کی پراگندگی اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ

صفا و مروہ کے درمیان کی دعا
عرفہ کے دن کی دعا
عرفات کا ذکر
صفا و مروہ کا ذکر و دعا

میں اس چیز کی برائی سے جو رات میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو دن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو ہوائیں چلاتی ہیں تیری پناہ لیتا ہوں، ابن ابی شیبہ (عن علی رضی اللہ عنہ)

اور تلبیہ عرفات میں سنت ہے۔ نسائی، حاکم (عن ابن عباس رضی اللہ عنہ)

اور جب عرفات میں ٹھیرے تو کہے میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اس کے بعد کہے، بہتری اصل میں آخرت ہی کی ہے۔ طبرانی فی الاوسط (عن ابن عباس رضی اللہ عنہ)

اور جب عصر کی نماز پڑھے اور عرفات میں ٹھیرے تو دونوں ہاتھ اُٹھا کر کہے اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی کے لئے حمد ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی کے لئے تعریف ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی قابلِ تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اے اللہ! میری ہدایت سے رہبری فرما اور مجھے تقوی کے ساتھ پاک کر، اور دنیا اور آخرت میں میری مغفرت فرما، پھر اپنے ہاتھ نیچے کرے اور جتنی دیر ایک آدمی سورۂ فاتحہ پڑھتا ہے خاموش رہے، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور اسی طرح کہے۔ موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن ابن عمر رضی اللہ عنہ)۔

عرفات کی دعائیں

شرح: یعنی راہ میں کبھی تلبیہ کہے اور کبھی تکبیر کہے، لیکن علما نے کہا ہے کہ تلبیہ کہنا سنت ہے، اور کبھی کبھی تکبیر کہنا بھی جائز ہے۔

وقوف (یعنی عرفات میں ٹھیرنے) سے پہلے اور ٹھیرنے کے بعد کنکریاں مارنے تک لبیک کہنا سنت مؤکدہ ہے، ورنہ ہر حالت میں احرام کے بعد مستحب ہے مگر شروع احرام میں واجب ہے۔

میدان عرفات میں عصر و ظہر ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس کے بعد عرفات میں ٹھیرتے ہیں یہ قیام فرائض حج میں سے ہے اس کا وقت ذی الحجہ کی نویں تاریخ کی دوپہر ڈھلنے سے دسویں کی تمام شب تک ہے اس عرصہ میں اگر ایک ساعت بھی عرفات میں ٹھیر جائے گا تو فریضہ حج ادا ہو جائے گا، اور سنت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے واپس ہو۔

وَاِذَا رَجَعَ وَاَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَ كَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا اَمْ دَسَ قَ عُ وَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّيْ حَتّٰى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ اَيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَ وَاِذَا اَرَادَ رَمْيَ الْجِمَارِ فَاِذَا اَتَى الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ خ س اَوْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ م دَ س قَ مُص

ترجمہ: اور جب (میدان عرفات سے) لوٹے اور مشعر حرام پر پہنچے تو قبلہ رُو ہوکر اللہ سے دُعا مانگے اور "اللہ اکبر" اور "لا الہ الا اللہ وحدہ" کہے اور مشعر حرام ہی میں ٹھیرا رہے، یہاں تک کہ خوب روشنی ہوجائے۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابوعوانہ (عن جابرؓ)

اور برابر تلبیہ کہتا رہے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارے، صحاح ستہ (عن ابن عباسؓ)

اور جب جمروں پر کنکریاں مارنے کا ارادہ کرے اور جمرۂ دُنیا (اُولیٰ) پر آئے تو اس پر سات کنکریاں پھینکے اور ہر کنکری کے بعد تکبیر کہتا جائے۔ بخاری، نسائی (عن ابن عمرؓ)

یا ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ (عن جابرؓ)

مشعر حرام کی دعا

رمی جمار کا بیان

شرح: مشعر حرام، مزدلفہ کے پہاڑ کا نام ہے، جب حجاج عرفات سے واپس ہوتے ہیں تو یہاں ٹھیرتے ہیں، اس جگہ حاجیوں کا صرف ٹھیرنا واجب ہے، خواہ ایک ساعت ہی ہو، اور تمام وقت ٹھیرنا سنت ہے، اور مشعر حرام میں قیام کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے آفتاب نکلنے تک ہے، اگر اس سے پہلے یا پیچھے ٹھیرے گا تو معتبر نہیں۔

جمرہ، اصل میں کنکری کو کہتے ہیں مگر اب ان مناروں (ٹیلوں) کا نام ہوگیا ہے جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں اور وہ تین ہیں، جمرۂ اولیٰ، جمرۂ وسطیٰ، جمرۂ عقبہ۔ جمرہ اولیٰ مسجد خیف کے قریب ہے، سب کے بعد مکہ کی طرف ان تینوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے، دسویں تاریخ کو صرف جمرۂ عقبہ پر کنکریاں مارتے ہیں اور اول کنکری ہی پر لبیک کہنا موقوف کردیتے ہیں۔ اور گیارہویں اور بارہویں کو تینوں جمروں پر کنکریاں مارتے ہیں، اور اگر منا میں رہتا تو تیرھویں کو بھی رمی کرتے ہیں۔

ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلًا
فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى كَذٰلِكَ فَيَأْخُذُ
ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلًا
فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ
بَطْنِ الْوَادِيْ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا خَ س وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ
حَتّٰى إِذَا فَرَغَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا
مَّغْفُوْرًا مُصْ مَوْمُصْ وَيَدْعُوْ عِنْدَ الْجَمَرَاتِ كُلِّهَا وَلَا يُوَقِّتُ شَيْئًا مَوْمُصْ وَإِذَا
ذَبَحَ سَمّٰى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِ أَيْ عَرْضِ خَدِّهِ ع وَيَقُوْلُ
فِي الْأُضْحِيَةِ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُ دَ انِيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
إِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا
شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ
وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَذْبَحُ دَ ق مُسْ

ترجمہ: پھر جمرہ اولیٰ پر کنکریاں پھینکنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ کر نرم زمین میں کھڑا ہو اور دیر تک قبلہ رو کھڑا رہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، پھر جمرہ وسطیٰ پر اسی طرح کرے۔ پھر بائیں جانب چل کر زمین میں دیر تک قبلہ رخ کھڑا رہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، پھر وادی کے نشیب سے جمرۂ عقبہ پر کنکریاں پھینکے اور اس کے پاس نہیں ٹھیرے (بخاری، نسائی عن ابن عمرؓ

اور جمرۂ عقبہ پر کنکریاں پھینکنے کے لئے نالہ کے بیچ میں داخل ہو، یہاں تک کہ جب فارغ ہو جائے تو پڑھے، اے اللہ ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا اور ہمارے گناہوں کو بخشنا ہوا کردے، ابن ابی شیبہ (عن ابن مسعودؓ) موقوفاً ابن ابی شیبہ (عن ابن عمرؓ)

اور تمام جمروں کے پاس دُعا مانگے مگر کوئی دعا متعین نہ کرے، بلکہ جو چاہے مانگے۔ ابن ابی شیبہ (عن الحسن البصریؒ)

اور جب قربانی کرے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے اور اپنا پاؤں اُس کے گلہ کی چوڑائی پر رکھے۔

اور ذبح کرتے وقت کہے (میں) اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) اے اللہ! (یہ قربانی) میری اور امت محمدیہ کی طرف سے قبول فرمالے۔ مسلم، ابوداؤد (عن عائشہؓ)

اور کہے میں نے ہر طرف سے مُنہ موڑ کر، اس کی طرف مُنہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں دین ابراہیمی پر ہوں موحد بن کر اور میں ان میں نہیں جو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ الانعام رکوع ۹

میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے، اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام) کا اقرار کرتا ہوں۔ الانعام رکوع ۲۰

اے اللہ! (یہ قربانی) تیری ہی توفیق سے ہے اور تیرے ہی لئے ہے، اللہ کے نام سے اور اللہ بہت بڑا ہے، پھر ذبح کرے۔ ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم (عن جابر بن عبداللہؓ)

قربانی کی دعائیں

شرح: جمرۂ اولیٰ کے سامنے دیر تک کھڑے رہنا مستحب ہے، چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ اتنی دیر ٹھیرے جتنی دیر میں سورۂ بقرہ پڑھی جاتی ہے، غرضکہ وہاں کھڑے ہوکر اللہ کی تعریف وتوصیف کرے اور تکبیر وتہلیل اور تسبیح ودرود پڑھے اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے اور اپنے والدین اور دوست واحباب کے لئے دعا کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اور جمرۂ عقبہ پر کنکریاں پھینکنے کے بعد وہاں نہ ٹھیرے، نہ پہلے دن اور نہ دوسرے دن اور نہ تیسرے دن اور دعا مانگنے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ چلتے چلتے دعا مانگ لے اور بعض دعا کرنا مطلق ممنوع کہتے ہیں۔

حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں گناہ اور خیانت نہ ہو، یعنی حدود اللہ کی پوری رعایت کی گئی ہو۔ فتح القدیر شرح ہدایہ میں حج مبرور کی یہ پہچان لکھی ہے کہ آدمی پہلے سے اچھا ہو جائے، نیک وصالح بن جائے۔

ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے لیکن اگر کوئی قصداً بسم اللہ چھوڑ دے گا تو اس جانور کا کھانا حرام ہو جائے گا۔

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ قُوْمِيْ اِلٰى اُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيْهَا فَاِنَّهٗ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ مِّنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيْهِ وَقُوْلِيْ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ اٰلَايَةَ قَالَ عِمْرَانُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لَكَ وَلِاَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً مُسْ فَاِنْ كَانَتْ بَدَنَةً فَلْيُقِمْهَا ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ثُمَّ لِيُسَمِّ اللّٰهَ ثُمَّ لِيَنْحَرْ وَاِنْ كَانَتْ عَقِيْقَةً فَعَلَ كَالْاُضْحِيَّةِ مَوْمُسْ وَيُسَمِّيْ عَلَى الْعَقِيْقَةِ كَمَا يُسَمِّيْ عَلَى الْاُضْحِيَّةِ بِسْمِ اللّٰهِ عَقِيْقَةٌ وَّلَانٍ مَوْمُص

ترجمہ: رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور اسی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا ہی قطرہ گرتے وقت تمہارے گناہ جو تم نے کئے ہیں بخش دیئے جائیں گے اور اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ آخر تک پڑھو، عمران بن حصینؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ یہ ثواب آپ کے اور آپکے اہل بیت کے لئے مخصوص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لئے ہے حکم (عن عمران بن حصین)

اور اگر (قربانی کا جانور) اُونٹ ہو تو اسے کھڑا کرے اور "اَللّٰہُ اَکْبَر" "اَللّٰہُ اَکْبَر" "اَللّٰہُ اَکْبَر" "اَللّٰھُمَّ مِنْکَ وَلَکَ" پڑھے، پھر "بِسْمِ اللّٰہِ" کہہ کر اس کو نحر (ذبح) کرے اور اگر عقیقہ ہو تو قربانی ہی کی طرح کرے، حاکم موقوفاً (عن ابن عباسؓ)

اور قربانی کی طرح عقیقہ پر بسم اللہ کہے جیسے بِسْمِ اللّٰہِ عَقِیْقَۃٌ فُلَانٍ (فلاں کی جگہ بچہ کا نام لے) موقوفاً ابن ابی شیبہ

اونٹ کی قربانی کا طریقہ

شرح: نحر لغت میں سینہ کے بالائی حصہ کو کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں اونٹ کے حلقوم اور سینہ کے درمیانی حصہ میں نیزہ مارنے کو نحر کرنا کہتے ہیں۔

اونٹ کا نحر کرنا سنت ہے لیکن اگر ذبح کیا جائے تو بھی جائز ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَإِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ خ د وَفِي رِوَايَةٍ د
وَيَدْعُو فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا فَإِذَا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ
رَكْعَتَيْنِ م س وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ
هُوَ وَأُسَامَةُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ فَأَغْلَقَهَا
عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَ
عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ
يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى خ م وَلَمَّا دَخَلَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ الْبَابَ وَ
الْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ
الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ
وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا أَتَى مَا
اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ
وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ
إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ
وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَالْمَسْأَلَةِ
وَالِاسْتِغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ

toobaa-elibrary.blogspot.com

الْكَعْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ سَ

ترجمہ: اور جب خانۂ کعبہ میں داخل ہو تو اس کے اطراف میں تکبیر کہے۔ بخاری، ابوداؤد (عن ابن عباسؓ)

اور گوشوں میں تکبیر کہے۔ ابوداؤد (عن ابن عباسؓ)

اور اس کے تمام اطراف میں دعا کرے، پھر جب باہر نکلے تو خانہ کعبہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھے۔ مسلم، نسائی (عن اسامۃ بن زیدؓ)

حضرت نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور اسامۃ بن زید اور عثمان بن طلحہ الحجبی اور بلال بن رباح، کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اس کو بند کر لیا اور وہاں دیر تک ٹھیرے رہے۔ (حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں) جس وقت وہ باہر آئے تو میں نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت بلالؓ نے جواب دیا کہ ایک ستون کو بائیں جانب اور دو ستونوں کو دائیں جانب اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے کر کے نماز پڑھی اور اس وقت خانہ کعبہ چھ ستونوں پر بنا ہوا تھا۔ بخاری، مسلم (عن ابن عمرؓ)

اور جب رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر گئے تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور اس زمانہ میں کعبہ چھ ستونوں پر بنا ہوا تھا، پھر آپ چلے یہاں تک کہ جب ان دو ستونوں کے درمیان پہنچے جو کعبہ کے دروازہ کے قریب تھے تو آپ بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس سے دعا مانگی اور مغفرت طلب کی، پھر آپ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب اس جگہ پر آئے جو کعبہ کی پشت کے سامنے ہے تو اپنا چہرہ منورہ اور رخسار مبارک اس پر رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور دعا مانگی اور بخشش طلب کی، پھر کعبہ کے ہر ہر رکن کے پاس گئے اور اس کی طرف رخ کر کے تکبیر، تہلیل، تسبیح اور ثنا کی اور دعا و استغفار کی، پھر باہر نکل کر کعبہ کے دروازہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی اور واپس ہو گئے۔ نسائی (عن اسامہؓ)

خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی دعائیں

خانہ کعبہ میں نماز کا طریقہ

شرح، ابوداؤد کی ایک روایت میں "نواحیہ" کے لفظ ہیں اور دوسری میں "زوایا" کے مگر معنے دونوں کے ایک ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا شَرِبَ مَآءَ زَمْزَمَ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْكَعْبَةَ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلْيَتَنَفَّسْ ثَلٰثًا وَّ لْيَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ اِنَّ اٰيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ زَمْزَمَ قَ مُسْ وَمَآءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهٗ فَاِنْ شَرِبْتَهٗ تَسْتَشْفِيْ بِهٖ شَفَاكَ اللّٰهُ وَاِنْ شَرِبْتَهٗ مُسْتَعِيْذًا اَعَاذَكَ اللّٰهُ وَاِنْ شَرِبْتَهٗ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهٗ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِذَا شَرِبَ مَآءَ زَمْزَمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ مُسْ وَلَمَّآ اَتَى الْاِمَامُ الْحُجَّةُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ زَمْزَمَ وَاسْتَسْقٰى مِنْهُ شَرْبَةً ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ ابْنَ اَبِي الْمَوَالِ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَآءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهٗ وَهٰذَا اَشْرَبُهٗ لِعَطَشِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ شَرِبَ قُلْتُ هٰذَا سَنَدٌ صَحِيْحٌ وَّالرَّاوِيْ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ذٰلِكَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثِقَةٌ رَّوٰى لَهٗ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهٖ وَابْنُ اَبِي الْمَوَالِ ثِقَةٌ رَّوٰى لَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهٖ فَصَحَّ الْحَدِيْثُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

ترجمہ: اور جب چاہ زمزم کا پانی پیے تو کعبہ کی طرف رُخ کر کے "بسم اللہ" پڑھ کر تین سانس

میں پئے، اور اس سے خوب سیر ہو، پھر جب فارغ ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرے کیونکہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ پہچان ہے کہ وہ آبِ زمزم سے سیر نہیں ہوتے ہیں (اور ہم سیر ہو جاتے ہیں) ابن ماجہ، حاکم (عن ابن عباس)

اور آبِ زمزم اسی مقصد کے لئے ہے جس کے واسطے وہ پیا جائے اگر تو اسے شفا کے واسطے پئے گا تو شفا ہو جائے گی اور اگر اسے پناہ چاہنے کی غرض سے پئے گا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے دیگا اور اگر پیاس بجھ جانے کے لئے پئے گا تو پیاس بجھ جائے گی۔ حضرت ابن عباسؓ جب آبِ زمزم پیتے تھے تو فرماتے تھے، خدایا! میں تجھ سے مفید علم، فراخ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں حاکم (عن ابن عباسؓ)

جب امام الحجۃ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چاہ زمزم کے پانی پینے کا ارادہ کیا تو قبلہ رُو ہو کر کہا "اے اللہ! ہم سے ابن ابی الموال نے (اپنے استاد) محمد بن المنکدر سے اور انہوں نے حضرت جابرؓ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آبِ زمزم جس مقصد کے لئے بھی پیا جائے اسی مقصد کے لئے ہے، اور یہ آبِ زمزم میں قیامت کے دن میں پیاس (بجھ جانے) کے لئے پیتا ہوں"۔ پھر پانی پی لیا۔

(مصنف) میں کہتا ہوں یہ سند صحیح ہے، کیونکہ عبداللہ ابن المبارک سے روایت کرنے والے یہ سوید ابن سعید ثقہ ہیں۔ امام مسلم نے ان سے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور ابن ابی الموال بھی ثقہ ہیں، ان کی روایت امام بخاری نے اپنی صحیح میں کی ہے بحمداللہ تعالیٰ یہ حدیث صحیح ہے۔

حج

فرائض اسلام میں اگرچہ حج تمام عمر میں صرف ایک بار فرض ہے لیکن بعض صحابہ تقریباً ہر سال فریضۂ حج ادا فرماتے تھے، ایک بار حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو فرمایا "بہترین جہاد حج مبرور ہے" اس کے بعد سے وہ کبھی حج کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، حضرت عمرؓ نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ "جب تم جہاد سے فارغ ہو تو حج کے لئے کجاوے کسو کیونکہ حج بھی ایک جہاد ہے"

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سخت خطرے کی حالت میں بھی حج کو قضا نہیں فرماتے تھے، حجاج بن یوسف ثقفی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور خود مکہ محاصرہ میں آگیا تو انہوں نے اس حالت میں بھی سفرِ حج کرنا چاہا، صاحبزادے نے روکا تو بولے کہ "ہمارے سامنے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے آپ حج کے لئے چلے تو کفار نے روک دیا، اگر مجھے بھی روکا جائیگا تو میں بھی وہی کروں گا جو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کیا"

صحابہ کرامؓ جس ذوق وشوق سے حج کرتے تھے اس کا مؤثر منظر حجۃ الوداع میں دنیا کو نظر آیا تھا، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو مدینہ میں بکثرت صحابہ جمع ہوئے، حضرت اسماء بنت عمیسؓ اگرچہ حاملہ تھیں، اور اسی سفر میں بمقام ذوالحلیفہ ان کو وضع حمل بھی ہو گیا، تاہم

وہ بھی شریک سفر ہوئیں، آپ مقام بیداء میں پہنچے تو صحابہ کا اس قدر اژدھام ہوا کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے۔

تمام خلفاء اپنے زمانہ خلافت میں بالالتزام حج کرتے تھے اور خود امیر الحاج ہوتے تھے، حضرت عثمانؓ کی مدت خلافت دس برس ہے اور اس مدت میں انھوں نے متصل دس سال حج کئے، اخیر سال جب لوگوں نے ان کا محاصرہ کرلیا تو خود نہ جاسکے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو امیر الحاج بنا کر بھیجا۔

بعض صحابہ فریضہ حج کے ادا کرنے میں طرح طرح کا التزام مالا یلزم کرتے تھے، ایک صحابی نے خانہ کعبہ تک پا پیادہ جانے کی نذر مانی اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروایا تو آپ نے کہا "پا پیادہ بھی چلیں اور سوار بھی ہولیں" آپ نے ایک بوڑھے صحابی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے پا پیادہ چل رہے ہیں فرمایا کیا معاملہ ہے؟ معلوم ہوا کہ پا پیادہ حج کرنے کی منت مانی ہے آپ نے سوار ہونے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ "خدا اس کی جان کو عذاب میں ڈالنے سے بے نیاز ہے"۔

اگر کسی معذوری سے حج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوجاتا تھا تو صحابہ کرام کو سخت صدمہ ہوتا تھا، حجۃ الوداع میں حضرت عائشہؓ کو ضرورت نسوانی سے معذوری ہوگئی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا گذر ہوا تو دیکھا کہ رو رہی ہیں، فرمایا کیا ماجرا ہے؟ بولیں کہ کاش میں اس سال حج نہ کرتی، فرمایا "سبحان اللہ یہ تو فطری چیز ہے تمام مناسک حج ادا کرو صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو"۔

ماں، باپ کی طرف سے حج کرنا

صحابہ کرام نہ صرف خود بلکہ اپنے ماں باپ کی جانب سے بھی حج ادا کرتے تھے، حجۃ الوداع کے زمانہ میں ایک صحابیہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ "میرے باپ پر حج فرض ہوگیا ہے، لیکن وہ بڑھاپے کی وجہ سے سواری پر بیٹھ نہیں سکتے کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کردوں؟ آپ نے ان کو اس کی اجازت دیدی۔

ایک صحابیہ کی ماں کا انتقال ہوچکا تھا وہ آپ کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا کیا میں ان کی جانب سے اس فرض کو ادا کردوں؟" آپ نے ان کو بھی اجازت دیدی

عمرہ

بعض صحابہ عمرہ کو فرض سمجھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا خیال تھا کہ حج کی طرح عمرہ بھی ہر شخص پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس کی فرضیت پر استدلال کرتے تھے کہ قرآن مجید میں حج اور عمرہ دونوں کا حکم ایک ساتھ آیا ہے

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (سورہ بقرہ رکوع ۲۴) اور اللہ کے لئے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔

بہرحال عمرہ فرض ہو یا نہ ہو لیکن صحابہ کرام اس کو نہایت پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے اور جب وہ فوت ہوجاتا تھا تو ان کو سخت قلق ہوتا تھا، حجۃ الوداع کے زمانے میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، وجہ پوچھی تو بولیں کہ "میں ضرورت نسوانی سے معذور ہوں

toobaa-elibrary.blogspot.com

لوگ دو دو فرض (حج اور عمرہ) کا ثواب لے کر جاتے ہیں، اور میں صرف ایک کا" فرمایا "کوئی حرج نہیں، خدا تم کو عمرہ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، چنانچہ آپ نے ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو ساتھ کر دیا اور مقام تنعیم میں جاکر انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، اور آدھی رات کو فارغ ہوکر آئیں۔

قربانی کرنا

صحابۂ کرامؓ نہایت پابندی اور نہایت شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے، ایک بار حضرت ابوکباشہؓ تجارت کی غرض سے کچھ بکریوں کے بچے لائے لیکن کسی نے نہیں پوچھا، کوئی خریداری پر تیار نہ تھا، وہ حضرت ابوہریرہؓ سے ملے اور اس کے جواز و عدم جواز کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

ولعمت الاضحیۃ الجذع (بکری کا بچہ قربانی کے لئے نہایت موزوں ہے)

یہ سننا تھا کہ صحابہ نے ہاتھوں ہاتھ گلے کو خرید لیا۔

ایک بار حضرت اسود بن ہلالؒ مدینہ میں بہت سے اونٹ لے کر آئے، مسجد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت عمرؓ تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو حج کرنے اور ہدی لے جانے کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ مسجد سے نکلے تو ہر شخص نے ایک ایک اونٹ خرید لیا اور وہ مالا مال ہو گئے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِنْ كَانَ سَفَرَ غَزَاةٍ اَوْ لَقِيَ الْعَدُوَّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ
وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ
دَتِ سَ حِبْ مُصْ عَوْ رَبِّ بِكَ اُقَاتِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ
وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِكَ سَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَاَنْتَ
نَاصِرِيْ وَبِكَ اُقَاتِلُ عَوْ وَاِذَا اَرَادُوْا لِقَآءَ الْعَدُوِّ وَانْتَظَرَ
الْاِمَامُ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ
لَا تَتَمَنَّوْا لِقَآءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ
فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ثُمَّ
قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ
اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ خَ مُ دَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ
سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ
خَ مُ وَاِذَا اَشْرَفَ عَلٰى بَلَدٍ هِمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ اَيْ
يُسَمِّ الْبَلْدَةَ الَّتِيْ قَصَدَهَا اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ
صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ خَ مُ تِ سَ قَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مُ وَاِذَا
خَافَ قَوْمًا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شُرُوْرِهِمْ دَ سَ حِبْ مُسْ فَاِنْ حَصَرَهُمْ عَدُوٌّ اَللّٰهُمَّ
اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا رَا فَاِنْ اَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ

قَالَ بِسْمِ اللّٰہِ س

جہاد کا سفر اور اس کی دعائیں

ترجمہ: اور اگر جہاد کا سفر یا دشمن کا مقابلہ ہو تو کہے اے اللہ! تو ہی میرا قوت بازو اور مددگار ہے اور میں تیری ہی مدد سے حیلہ و تدبیر کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے حملہ آور ہوتا ہوں اور تیرے ہی بل پر لڑتا ہوں۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، ابن ابی شیبہ (عن انسؓ) ابوعوانہ (عن ابی مجازؒ)

اے میرے پروردگار! میں تیری ہی توفیق سے لڑتا ہوں اور تیرے ہی بوتہ پر حملہ کرتا ہوں، اور بجز تیرے کوئی بل بوتہ نہیں۔ نسائی (عن صہیب ابن سنان الرومیؓ)

اے اللہ! تو ہی میرا قوت بازو اور مددگار ہے اور تیرے ہی بل پر میں لڑتا ہوں۔ ابوعوانہ (عن انسؓ)

اور جب (مجاہدین) دشمن سے لڑنے کا ارادہ کریں تو امیر لشکر سورج ڈھل جانے کا انتظار کرے پھر کھڑے ہو کر (خطبہ دے اور) کہے لوگو! دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہو، اور جب دشمن سے دست و گریبان ہو جاؤ تو صبر کرو، اور خوب جان لو! کہ بہشت تلواروں کے سایہ تلے ہے، پھر کہے اے اللہ! کتاب کے اتارنے والے، بادل کے چلانے والے اور لشکر کو شکست دینے والے انھیں شکست دے اور ہمیں ان پر فتح نصیب فرما۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد (عن عبداللہ بن ابی اوفیؓ)

دشمن کے شہر پر چڑھتے وقت کی دعا

اے اللہ! کتاب کے اتارنے والے جلد حساب لینے والے۔ اے اللہ! (کفار کی) جماعتوں کو ہزیمت دے (بھگا دے)۔ اے اللہ! ان کو شکست دے اور انہیں درہم برہم کر۔ بخاری، مسلم (عن عبداللہ بن ابی اوفیؓ)

دشمن سے گھر جانے کی دعا

اور جب ان (کفار) کے شہر کے قریب ہو تو کہے خدا کرے یہ بستی اُجڑ جائے اور اس شہر کا نام لے جس کا قصد کیا ہے، بیشک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے تو خوف زدہ لوگوں کی صبح بُری ہوتی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن انسؓ)

یہ کلمات تین مرتبہ کہے۔ مسلم (عن انسؓ)

کمزور ہونے کی دعا

اور جب کسی گروہ سے ڈرے تو کہے اے اللہ! ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ ابوداؤد، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

اور اگر مسلمانوں کو کوئی دشمن گھیر لے تو کہیں اے اللہ! ہماری پردہ پوشی فرما، اور خوف زدہ ہونے سے محفوظ رکھ۔ بزار، احمد (عن ابی سعید الخدریؓ)

اور اگر زخم لگے تو "بسم اللہ" کہے۔ نسائی، (عن جابر ابن عتیکؓ)

شرح: غُزُوٌ: کھڑکی جمع ہے، غزو کے لغوی معنی ہیں سیدھا کا بارادہ مقصد جہاں پر رہنا ہے۔ والمجاہد فی عرفھم

فَاِذَا انْهَزَمَ الْعَدُوُّ وَسَوَّى الْاِمَامُ الْجَيْشَ صُفُوْفًا خَلْفَهٗ ثُمَّ
قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ
لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ
وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا
بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ
وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ النَّعِيْمَ
الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْاَمْنَ
يَوْمَ الْخَوْفِ اَللّٰهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا
مَنَعْتَنَا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ
اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ
اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ
اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اِلٰهَ الْحَقِّ
اٰمِيْنَ سَ حِبْ مُسْ

ترجمہ: اور جب دشمن شکست کھا جائے تو امیر اپنے پیچھے لشکر کی صفیں باندھ کر یہ دعا پڑھے۔
اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لئے ہے جس کو تو وسعت دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں
اور جس کو تو تنگی دے اس کا کوئی وسعت دینے والا نہیں اور جسے تو گمراہ کردے اس کا کوئی رہنما
نہیں اور جسے تو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جو چیز تو نہ دے اس کا کوئی

دینے والا نہیں، اور جو چیز تو عطا کرے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو دور کردے اس کا کوئی قریب کرنے والا نہیں اور جس کو تو قریب کرے اس کا کوئی دُور کرنے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنا فضل اور اپنا رزق کشادہ فرما، اے اللہ میں تجھ سے وہ دائمی نعمت مانگتا ہوں جو نہ کبھی بدلے اور نہ زائل ہو، اے اللہ! میں تجھ سے خوف کے دن امن چاہتا ہوں، اے اللہ! تو نے ہمیں عطا کیا ہے اور جو عطا نہیں فرمایا اس کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ! ہمیں ایمان محبوب بنادے، اور اس کو ہمارے دلوں میں رچادے، اور ہمیں کفر، گناہ اور نافرمانی سے نفرت پیدا کردے اور ہم کو نیک چلن بنادے، اے اللہ! ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما جو مدرسوا ہونے والے ہوں اور نہ فتنے میں پڑنے والے ہوں، اے اللہ! کافروں کو قتل کردے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے (لوگوں کو) روکتے ہیں اور ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما، اے معبود برحق یہ دعا قبول فرما، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن رفاعۃ ابن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَيُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي
عَوْ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهٖ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْأَرْضِ
ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ
لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ آئِبُوْنَ
تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ سَائِحُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ
صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ
خ مُدَّتِ س وَإِذَا أَشْرَفَ عَلٰى بَلْدَةٍ آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ
عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ وَلَا يَزَالُ يَقُوْلُهَا حَتّٰى يَدْخُلَ
بَلْدَهٗ خ مَرَسَ وَإِذَا دَخَلَ عَلٰى أَهْلِهٖ قَالَ تَوْبًا تَوْبًا
لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا أَطَ ـِ أَوْبًا أَوْبًا لِرَبِّنَا
تَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا رَصِ

ترجمہ: اور جو شخص اسلام لائے اُس کو یہ دعا سکھلائے، اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت کر، اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ ابوعوانہ (عن طارق بن الاشیم)

اور جب اپنے سفر جہاد سے واپس ہو تو ہر بلند زمین پر تین بار تکبیر کہے پھر پڑھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے۔ اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گذار ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، سفر کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کا شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالےٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ (محمد صلے اللہ علیہ وسلم) کی مدد کی اور تنہا لشکر (کفار) کو شکست دی۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی،

سفر جہاد سے واپسی کی دعا

اسلام لانے والے شخص کو تعلیم

(عن ابن عمرؓ)

اور جب اپنے شہر کے قریب پہنچے تو کہے، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے شکر گذار ہیں، اور برابر کہتا رہے یہاں تک کہ اپنے شہر میں داخل ہو جائے۔ بخاری، مسلم، نسائی (عن ابن عباسؓ)

اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو کہے میں اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرتا ہوں (اور) سفر سے ایسی واپسی ہو جو ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ احمد، طبرانی، ابن سنی (عن ابن عباسؓ)

میں اس طرح سفر سے لوٹ رہا ہوں اور میں اپنے رب کے سامنے ایسی توبہ کرنے والا ہوں جو ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ بزار، ابویعلی (عن ابن عباسؓ)

شوق جہاد

اسلام کے فرائض و اعمال میں جہاد سب سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن صحابہ کرامؓ کو جہاد کا اسقدر شوق تھا کہ حضرت زبیرؓ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے حضرت عثمانؓ کے عہد تک برابر جہاد ہی میں مشغول رہے۔

ایک بار رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے شرکت جہاد کے لئے عام اعلان کرایا، ایک صحابی نہایت بوڑھے تھے اور خدمت کے لئے ان کے پاس کوئی خادم نہ تھا، تاہم اس قدر شوق جہاد رکھتے تھے کہ شریک جہاد ہوئے اور خدمت کے لئے تین دینار کی اُجرت پر ایک شخص کو ساتھ لیتے گئے۔

بی بی اور جائداد سب کو عزیز ہوتے ہیں، لیکن شوق جہاد میں بعض صحابہ نے ان کو بھی الگ کر دیا تھا، حضرت سعد بن ہشامؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دی اور مدینہ آیا کہ وہاں کی جائداد کو بیچ کر ہتھیار خریدوں اور جہاد کروں لیکن چند صحابہ ملے اور انہوں نے کہا کہ "ہم میں بھی چھ آدمیوں نے یہی ارادہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا"۔

شوق شہادت

عہد نبوت میں شہادت ایک ابدی زندگی خیال کی جاتی تھی، اس لئے ہر شخص اس آب حیات کا پیاسا رہتا تھا، حضرت ام ورقہ بنت نوفلؓ ایک صحابیہ تھیں، جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ "مجھ کو شریک جہاد ہونے کی اجازت عطا فرمایئے میں مریضوں کی تیمارداری کروں گی، شاید مجھے وہ درجۂ شہادت حاصل ہو جائے" لیکن آپ نے فرمایا "گھر ہی میں رہو، خدا تمہیں وہیں شہادت دے گا"۔ یہ معجزانہ پیشینگوئی کیونکر غلط ہو سکتی تھی؟ انھوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام مدبر کئے گئے، جنہوں نے ان کو شہید کر دیا کہ جلد آزاد ہو جائیں۔

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر ایک بدو ایمان لایا اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے پر آمادہ ظاہر کی لیکن آپ نے اس کو بعض صحابہ کے سپرد کر دیا جن کے اونٹ وہ چرایا کرتا تھا، لیکن جب ایک غزوہ میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اور آپ نے اس کا بھی حصہ لگایا تو اس نے کہا "میں اس لئے

وطن میں پہنچنے کی دعا

اللہ عمل کرکے اس پر ہمیشگی کرنے کی دعا

ایمان نہیں لایا، میں اس لئے حلقۂ اسلام میں داخل ہوا ہوں کہ میرے حلق میں تیر لگے اور میں شہید ہو کر جنت میں داخل ہوں"۔ تھوڑی دیر کے بعد معرکۂ کارزار گرم ہوا تو وہ ٹھیک حلق پر تیر کھا کر شہید ہوا، صحابۂ کرام لاشوں کو آپ کے سامنے لائے تو آپ نے فرمایا کہ "اس نے خدا کی تصدیق کی، تو خدا نے بھی اُس کی تصدیق کی" یہ کہہ کر خود اپنا جُبہ کفن کے لئے عنایت فرمایا۔

غزوۂ اُحد میں ایک صحابی نے آپ سے پوچھا "اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا" ارشاد ہوا کہ "جنت میں" کھجوریں ہاتھ میں تھیں ان کو پھینکا اور لڑ کر شہید ہوئے۔

غزوۂ بدر میں جب مشرکین مکہ قریب آگئے تو آپ نے صحابۂ کرام کی طرف مخاطب کر کے فرمایا "اٹھو اور وہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے"۔ حضرت عمیر بن الحمام الانصاریؓ نے کہا "یا رسول اللہ آسمان و زمین کے برابر؟" ارشاد ہوا "ہاں" بولے "واہ! واہ!!" فرمایا "واہ واہ کیوں کہتے ہو؟" اس سوال و جواب کے بعد انہوں نے جھولی سے کھجوریں نکالیں اور کھانے لگے، پھر شوق شہادت نے جوش مارا، اور بولے "اتنا وقفہ بھی جس میں یہ کھجوریں کھا سکوں میرے لئے بہت ہے" یہ کہہ کر کھجوروں کو پھینکا میدان میں گئے، لڑے اور شہید ہوئے۔

حضرت انسؓ کے چچا غزوۂ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس لئے ہمیشہ کانٹا ان کے دل میں کھٹکا کرتا تھا۔ غزوۂ احد پیش آیا تو اس میں اس جانبازی کے ساتھ لڑ کر شہید ہوئے کہ ان کی بہن کا بیان ہے کہ نیزے کے تیرہ اور تلوار کے اسّی سے زیادہ زخم جسم پر تھے، میں نے صرف انگلیوں سے ان کو پہچانا۔

ایک بار ایک صحابی نے معرکۂ جنگ میں یہ روایت کی کہ "جنت کے دروازے تلوار کے سایہ کے نیچے ہیں" ایک صحابی اُٹھے اور کہا "تم نے اس کو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ بولے "ہاں" وہ وہاں سے اُٹھ کر اپنے رفقاء کے پاس آئے اور سلام کر کے ان سے رخصت ہوئے تلوار کا میان توڑ کر پھینک دیا، اور دشمن کی صف میں گھس کر لڑے اور شہید ہوئے۔

حضرت عبداللہ بن ثابتؓ کو طاعون ہوا، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے تو آثار موت طاری ہو چکے تھے، عورتیں رونے پیٹنے لگیں ان کی صاحبزادی روتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ "مجھے توقع یہ تھی کہ آپ شہید ہوں گے، آپ نے جہاد کا سامان مکمل بھی کر لیا تھا" آپ نے فرمایا "ان کو نیت کا ثواب مل چکا"۔

حضرت عمرو بن الجموحؓ ایک بوڑھے اور لنگڑے صحابی تھے، غزوۂ بدر میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے لنگڑے پن کی وجہ سے ان کو مدینہ ہی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن غزوۂ احد میں انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ "مجھے میدانِ جہاد میں جانے دو" سب نے کہا "آپ کو تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے" بولے "تم نے مجھے بدر میں جنت سے محروم رکھا اور اب احد میں بھی محروم رکھنا چاہتے ہو" یہ کہہ کر روانہ ہوئے جب لڑائی کا وقت آیا تو بولے "یا رسول اللہ! اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسی طرح لنگڑاتا ہوا جنت میں بھی جاؤں گا"۔ ارشاد ہوا "ہاں"۔ یہ سن کر آگے بڑھے، لڑے اور شہید ہوئے۔

وَمَنْ تَنَزَّلَ بِهٖ غَمٌّ اَوْ كَرْبٌ اَوْ اَمْرٌ مُّهِمٌّ فَلْيَقُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ
خ مُرْتِ سَ قَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ
وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ خ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ
الْعَظِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدَ ذٰلِكَ
عَوْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مُصْ سَ حِبْ مُسْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سَ حِبْ مُسْ

ترجمہ: جو شخص کسی غم یا مصیبت یا مشکل میں مبتلا ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت بزرگ اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کریم کا رب ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابن عباسؓ)

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار اور بزرگ ہو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہو اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ بخاری عن ابن عباسؓ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار نہایت بزرگ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ ابوعوانہ (عن ابن عباسؓ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار بزرگ ہے، اللہ پاک ہے اور اللہ بڑا بابرکت عرش عظیم کا مالک ہے ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ) نسائی، ابن حبان، حاکم (عن علیؓ)

اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نسائی، ابن حبان، حاکم (عن علیؓ)

رنج و غم اور مصیبت کے وقت کی دعائیں

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ صَحِيْحُ السَّنَدِ لِابْنِ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابِهِ الدُّعَاءِ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ خَ تِ سَ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ خَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَ سَ قَ مُصْ طَسْ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ طَبْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا حِبْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا مُسْ

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار بزرگ ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا مالک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اے اللہ! میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ حدیث صحیح سند سے مروی ہے۔ ابن ابی عاصم نے اسے اپنی کتاب الدعاء میں بیان کیا ہے

اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ بخاری، ترمذی، نسائی (عن ابن عباسؓ)

مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ بخاری (عن ابن عباسؓ)

اللہ ہی میرا رب ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ ابن ابی شیبہ۔ طبرانی فی الاوسط۔

اللہ میرا پروردگار ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تین بار کہے، طبرانی

فی کتاب الدعاء (عن اسماء بنت عمیسؓ)

اللہ ہی میرا رب ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھیراتا، اللہ ہی میرا پروردگار ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھیراتا۔ ابن حبان (عن عائشہؓ)

میں نے اس زندہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو کبھی موت سے دوچار نہیں ہوگا اور ہر طرح کی تعریف کا خدا ہی مستحق ہے جو نہ تو اولاد رکھتا ہے اور نہ (دونوں جہان کی) سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس سبب سے کہ کمزور ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کی بڑائیاں کرتے رہا کرو۔ حاکم، (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ابراہیمؑ آگ میں ڈالے گئے تو آپ نے یہ کلمات پڑھے اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے "اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ" عرض کیا تو آپ نے بھی یہ کلمہ فرمایا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ دَحِبْ ط مُصْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ دَحِبْ مُصْ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ مُسْ يَ وَيْكَوِرُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ سَ مُسْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ يَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهٗ تِ سَ مُسْ اَرَصِ

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری رحمت کا اُمید وار ہوں پس تو مجھے میری طبیعت پر ایک لمحہ کے لئے بھی نہ چھوڑ، اور میری ساری حالت درست کر دے۔ ابوداؤد، ابن حبان، طبرانی، ابن ابی شیبہ۔ (عن ابی بکرۃ الثقفیؓ)

تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابوداؤد، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، ابن سنی (عن ابی بکرۃ الثقفیؓ)

اے زندہ اور اے سنبھالنے والے! میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، حاکم، ابن سنی، (عن ابن مسعودؓ)

اور بار بار سجدہ میں کہے، اے زندہ (اور) اے سنبھالنے والے! نسائی، حاکم (عن علیؓ)

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک (ذات) ہے بیشک میں نے بڑا ظلم کیا۔ ابن سنی، (عن سعد بن ابی وقاصؓ)

جس مسلمان شخص نے اس آیت کریمہ کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی ہے[1]۔ ترمذی، نسائی (عن سعد بن ابی وقاصؓ) حاکم، احمد، بزار، ابویعلی (عن عثمان بن عفانؓ)

شرح: تعویذ مشائخ سے منقول ہے کہ ہر غم واندوہ کے لئے آیت کریمہ کا پڑھنا تریاق مجرب ہے اور اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ایک ساتھ سوا لاکھ بار پڑھ لیں، دوسرے یہ کہ تنہا ایک شخص نماز عشاء کے بعد تاریک مکان میں پاک صاف ہو کر خوشبو وغیرہ لگا کر قبلہ رُو ہو کر تین دن یا سات دن یا چالیس روز تین صد مرتبہ پڑھے اور ایک پیالہ پانی کا بھر کر اپنے پاس رکھ لے اور بار بار اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے منہ اور بدن پر ملتا رہے۔

وَمَا قَالَ عَبْدٌ اَصَابَهٗ هَمٌّ اَوْ حُزْنٌ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِیْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِیَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ
فِیَّ قَضَآؤُكَ اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ
اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِیْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَاْثَرْتَ
بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِیْ
وَنُوْرَ بَصَرِیْ وَجِلَآءَ حُزْنِیْ وَذَهَابَ هَمِّیْ اِلَّآ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّهٗ
وَاَبْدَلَ مَكَانَ حُزْنِهٖ فَرَحًا حب مُسْ اَصِ رَمُصْ ط
مَنْ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ كَانَتْ لَهٗ دَوَآءً مِّنْ تِسْعَةٍ
وَّتِسْعِيْنَ دَآءً اَيْسَرُهَا الْهَمُّ مُسْ ط مَنْ لَّزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ
دَ قَ حِبْ مَنْ اَكْثَرَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ سَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ
مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَّخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهٗ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ دَ سَ قَ حِبْ

ترجمہ: اور جس کسی آدمی نے جو رنج وغم میں مبتلا ہوگیا ہو یہ دعا کی الٰہی! میں تیرا بندہ ہوں اور میرے ماں باپ تیرے بندے تھے، ہمہ تن تیرے قبضہ میں ہوں، میرے معاملہ میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، میرے ہر معاملہ میں تیرا فیصلہ عین عدل ہے، میں تجھ سے تیرے ہر مبارک نام کے وسیلہ سے جسے تو نے اپنی ذات کے لئے نام زد کیا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اسے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھایا ہے یا اپنے پاس اپنے (خزانۂ) غیب ہی میں رہنے دیا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری آنکھ کا نور، میرے غم کی کشائش اور میری تشویش کا دفعیہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا غم دور فرما دے گا اور اس کے رنج کو خوشی سے بدل دے گا۔ ابن حبان، حاکم، احمد، ابویعلی، بزار، ابن ابی شیبہ، طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

منزل دوشنبہ

جس شخص نے "لاحول ولا قوۃ الا باللہ" (ہر کام کی) طاقت وقوت اللہ ہی کی مدد سے ہے، کہا تو (یہ) اس کے لئے ننانوے ۹۹ بیماریوں کی دوا ہوگا جس میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے حاکم، طبرانی (عن ابن عمرؓ)

جس شخص نے استغفار کی پابندی کی۔ ابوداؤد، ابن حبان (عن ابن عباسؓ)

جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہا۔ نسائی، (عن ابن عباسؓ)

تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے رہائی اور ہر غم سے نجات دیدے گا، اور اس جگہ سے روزی دے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان (عن ابن عباسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَتَقَدَّمَ مَا يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ بِهٖ كَرْبٌ اَوْ شِدَّةٌ عِنْدَ سَمَاعِهٖ
الْمُؤَذِّنَ مُسْ وَاِنْ تَوَقَّعَ بَلَاءً اَوْ اَمْرًا مَهُوْلًا اَوْ وَقَعَ فِيْ
اَمْرٍ عَظِيْمٍ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا تِ
مُصْ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِيْ فَاْجُرْنِيْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِيْ مِنْهَا
خَيْرًا تِ سَ قَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ
فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا مُ وَاِذَا خَافَ اَحَدٌ اَللّٰهُمَّ
اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلٰى
مُسْلِمٍ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَدْرَأُ بِكَ
فِيْ نُحُوْرِهِمْ عَوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شُرُوْرِهِمْ عَوْ

ترجمہ: اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو شخص مصیبت یا سختی (اور پریشانی) میں مبتلا ہو تو وہ مؤذن کی آواز سن کر کیا کہے؟ حاکم (عن ابی امامہؓ)

اور اگر کسی بلا کا اندیشہ یا خوفناک بات کا خیال ہو، یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، تو کہے ہمیں اللہ کافی وافی ہے اور وہی خوب کارساز ہے (اور) ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ ترمذی، ابن ابی شیبہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

اور اگر کوئی مصیبت آپڑے تو کہنا چاہئے، ہم تو اللہ ہی کے ہیں (وہ ہم کو جس حال میں چاہے رکھے) اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ! میں تیرے پاس اپنی مصیبت کا ثواب چاہتا ہوں، پس تو اس کا مجھے اجر دے اور اس کے بدلہ میں بہتری عطا فرما۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، (عن ابن عباسؓ)

مصیبت کے وقت کی دعا — سوتے وقت کی دعا

ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ! مجھے اپنی مصیبت میں اجر دے اس کا نعم البدل عنایت فرما۔ مسلم (عن ام سلمہؓ)

اور جب کسی سے خوف زدہ ہو تو کہے اے اللہ! ہمیں اس سے جس طرح تو چاہے کفایت فرما، یہ روایت صحیح ہے، ابونعیم نے اس کو "کتاب المستخرج علی مسلم" میں بیان کیا ہے۔ اے اللہ! ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں اور تجھے ان کے مقابلہ میں سینہ سپر کرتے ہیں۔ ابوعوانہ (عن ابی موسیٰؓ)

اے اللہ! میں تجھے ان کے مقابلہ کے لئے سپر بناتا ہوں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوعوانہ (عن ابی موسیٰؓ)

کسی سے ڈرنے کی دعا

شرح: یعنی جو دعائیں اذان کے وقت پڑھی جاتی ہیں وہ اوپر بیان ہو چکی ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِنْ خَافَ سُلْطَانًا اَوْ ظَالِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَعَزُّ
مِنْ خَلْقِهٖ جَمِيْعًا اَللّٰهُ اَعَزُّ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ السَّمٰٓاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا
بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَّجُنُوْدِهٖ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ مِنَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِّيْ جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَآؤُكَ
وَعَزَّ جَارُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ط مُوْمُصْ ط
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى
مُوْمِيْ اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِلٰهَ
اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَافِنِيْ وَلَا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ
خَلْقِكَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ لَا طَاقَةَ لِيْ بِهٖ مُوْمُصْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا
وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّبِالْقُرْاٰنِ حَكَمًا وَّاِمَامًا
مُوْمُصْ

ترجمہ: اگر کسی بادشاہ یا ظالم کا خوف ہو تو تین بار یہ کہنا چاہیے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق سے قوی تر ہے، اللہ اس سے بہت زیادہ غالب ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں اور خوف زدہ ہو رہا ہوں، میں اس اللہ کی پناہ لیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (اور) جس نے اپنی بغیر اجازت آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے (اور تیری پناہ لیتا ہوں) تیرے فلاں بندے اور اس کے لاؤ لشکر سے اور اس کے خدمت گذار اور مددگار جن و انس کے شر سے، اے اللہ! تو ان کی شرارت سے میرا محافظ بن جا، تیری تعریف بڑی ہے، تیری پناہ لینے والا غالب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ طبرانی (عن ابن عباسؓ) موقوفاً ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ، طبرانی (عن ابن عباسؓ)

بادشاہ یا ظالم کے خوف کے وقت کی دعا

اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ہم پر ان میں سے زیادتی اور ظلم کرے، دارمی موقوفاً (عن ابن عباسؓ)

اے اللہ جبرئیل، میکائیل اور اسرافیل کے معبود، ابراہیم، اسمٰعیل اور اسحاق کے معبود مجھے عافیت دے اور میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کر دے جس کی مجھ میں برداشت نہ ہو۔ ابن ابی شیبہ، موقوفاً (عن علقمہ بن مرثد الشعبیؒ)

میں اللہ کے پروردگار ہونے کو اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اور اسلام کے دین اور قرآن مجید کے حَکَم اور امام ہونے کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابی المجلزؒ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِنْ خَافَ شَيْطَانًا اَوْ غَيْرَهٗ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ
النَّافِعِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ
مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَ
مِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ
اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ اٰطٰسٓ طٰمٓ مُصٓ صٓ
وَاِذَا تَعَوَّلَتِ الْغِيْلَانُ نَادٰى بِالْاَذَانِ مُرَّ مُصٓ وَقِرَاءَةُ
اٰيَةِ الْكُرْسِيِّ تِ مُصٓ وَمَنْ فَرِغَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ
اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ
وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ دٰتِ سٓ وَمَنْ غَلَبَهٗ اَمْرٌ فَلْيَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ دٰسٓ يٰ وَمَنْ وَّقَعَ لَهٗ مَا لَا يَخْتَارُهٗ فَلَا
يَقُلْ لَوْ اَنِّيْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ لِيَقُلْ بِقَدَرِ اللّٰهِ وَمَا
شَآءَ فَعَلَ مُرٓ سٓ قٓ يٰ وَاِنِ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ اَمْرٌ قَالَ
اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَّاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا
اِذَا شِئْتَ حٰمٓ يٰ

ترجمہ اور اگر شیطان وغیرہ سے ڈرے تو یہ پڑھنا چاہیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو بزرگ اور نفع دینے والا ہے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، اور اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، پھیلائی، اور بلا تفاوت بنائی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو آسمان

سے اترتی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا کی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے، اور دن رات کے فتنوں کے شر سے، اور رات کے ہر آنے والے حادثہ کی برائی سے مگر وہ حادثہ جس میں بھلائی ہو، اے رحم کرنے والے (مجھ پر) رحم فرما۔ احمد، طبرانی فی الکبیر (عن ابن عباسؓ)، نسائی، طبرانی، ابن ابی شیبہ، ابو یعلی (عن عبد الرحمن بن حبشؓ)

اور جب چھلاوے ظاہر ہوں، تو پکار کر اذان کہے۔ مسلم، بزار (عن ابن مسعود)، ابن ابی شیبہ، (عن جابرؓ)

اور (زور سے) آیت الکرسی پڑھے، ترمذی، ابن ابی شیبہ (عن ابی ایوبؓ)

اور جو شخص ڈر جائے تو اسے یہ پڑھنا چاہئے، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کے غصہ سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابن عمروؓ)

اور جس شخص پر کسی بات کا دباؤ آپڑے تو اسے کہنا چاہئے، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابوداؤد، نسائی، ابن سنی (عن عوف بن مالک الاشجعیؓ)

اور جس شخص کو کوئی ایسی چیز پیش آجائے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو یہ نہ کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ بات نہ ہوتی، بلکہ یوں کہے کہ تقدیر الٰہی سے ہوا، اور جو اس نے چاہا وہ کیا۔ مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابن سنی (عن ابی ہریرہؓ)

اور اگر اس پر کوئی معاملہ دشوار ہو جائے تو کہے اے اللہ کوئی چیز بھی آسان نہیں مگر جس کو تو آسان بنا دے، تو ہی جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کرتا ہے۔ ابن حبان، ابن سنی، (عن انسؓ)

چھلاوا ظاہر ہونے کے وقت کی دعا

وَمَنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِيْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّاْ وَلْيُحْسِنْ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ مُسْ تِ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ تِ وَمَنْ كَانَتْ لَهٗ ضَرُوْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّاْ فَيُحْسِنْ وُضُوْءَهٗ تِ سَ قَ مُسْ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ سَ ثُمَّ لْيَدْعُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِيْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيْ تِ سَ قَ مُسْ

ترجمہ: جب کسی کو اللہ یا کسی بندے سے کوئی حاجت پیش آئے تو اچھی طرح وضو کرے دو رکعت (بہ نیت حاجت) ادا کرے، پھر (خوب) خدا کی حمد و ثنا کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا کرے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بردبار (اور) بزرگ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ پاک ہے، اور ہر تعریف اللہ کے لئے ہے، جو دونوں جہان کا پروردگار ہے، میں تجھ سے، تیری رحمت کے واجب کرنے والے اسباب اور تیری بخشش کے لازم کرنے والی خصلتیں اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی کی عطا اور ہر مصیبت سے سلامتی چاہتا ہوں۔ حاکم، ترمذی وعن عبداللہ بن ابی اوفیٰ

نماز حاجت کا طریقہ

toobaa-elibrary.blogspot.com

اے ارحم الراحمین تو میرے لئے کوئی گناہ بغیر بخشے اور کوئی رنج و غم بغیر دُور کئے اور کوئی حاجت جسے تو پسند کرتا ہے بغیر پورا کئے نہ چھوڑ، ترمذی (عن عبد اللہ بن ابی اوفیؓ)

اور جس شخص کو (اللہ یا کسی آدمی سے) کوئی ضرورت ہو تو اچھی طرح وضو کرکے۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن عثمان بن حنیفؓ)) — دو رکعت نماز ادا کرے، پھر (اس طرح) دُعا مانگے اے اللہ! میں تیرے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے تجھ سے حاجت روائی چاہتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حاجت میں آپ کے وسیلہ سے اپنے پروردگار سے حاجت روائی چاہتا ہوں، تاکہ وہ پوری ہو جائے، اے اللہ میرے بارہ میں آپ کی سفارش قبول فرمائے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن ابی حنیفؓ)

شرح: حضرت ابی حنیف بیان کرتے ہیں کہ ایک اندھے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے، آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دُعا کروں اور چاہو تو تم اندھے پن پر صبر کرو، کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس نے عرض کیا، آپ دعا ہی فرما دیجئے، آپ نے خود تو دعا نہیں فرمائی، بلکہ اس کو اچھی طرح وضو کرکے یہ دعا پڑھنے کے لئے ارشاد فرمایا، اس نے اسی طرح کیا اور وہ بینا ہو گیا۔ (مشکوٰۃ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَمَنْ اَرَادَ حِفْظَ الْقُرْاٰنِ فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَاِنِ
اسْتَطَاعَ اَنْ يَّقُوْمَ فِيْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُمْ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ
مَّشْهُوْدَةٌ وَّ الدُّعَاءُ فِيْهَا مُسْتَجَابٌ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَفِيْ وَسْطِهَا
وَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَفِيْ اَوَّلِهَا فَيُصَلِّيْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَقْرَأُ فِي
الْاُوْلٰى اَلْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةَ يٰسٓ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ وَحٰمٓ
الدُّخَانَ وَفِي الثَّالِثَةِ الْفَاتِحَةَ وَالٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَفِي
الرَّابِعَةِ الْفَاتِحَةَ وَتَبٰرَكَ الْمُلْكَ فَاِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَحْمَدِ
اللّٰهَ وَلْيُحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُحْسِنْ وَعَلٰى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ وَلْيَسْتَغْفِرْ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِاِخْوَانِهِ الَّذِيْنَ سَبَقُوْهُ بِالْاِيْمَانِ
ثُمَّ لْيَقُلْ فِيْ اٰخِرِ ذٰلِكَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا
مَّا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ
حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ
اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ
قَلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ وَارْزُقْنِيْ اَنْ اَتْلُوَهٗ عَلَى
النَّحْوِ الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ اَسْاَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِيْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِيْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِيْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِيْ وَاَنْ تَغْسِلَ بِهٖ بَدَنِيْ فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِيْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيْهِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا يُجَابُ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ مَا اَخْطَاَ مُؤْمِنًا قَطُّ تِ مُسْ

ترجمہ: اور جو شخص قرآن مجید حفظ کرنا چاہے، تو جمعہ کی رات کو اگر انیرات میں اٹھ سکے تو اس وقت اٹھے کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر رہتے ہیں، اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے، اور اگر اس وقت نہ اٹھ سکے تو آدھی رات کو اٹھے اور اگر اس وقت بھی نہ اٹھ سکے تو اول رات کو اٹھے، اور چار رکعت نماز (اس طرح) پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ یٰسین اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ حٰم الدخان اور تیسری میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الٓمٓ سجدہ اور چوتھی میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ ملک پڑھے، پھر جب التحیات سے فارغ ہو جائے (یعنی سلام پھیر دے) تو اللہ تعالیٰ کی خوب حمد وثنا کرے اور نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام پر اچھی طرح درود بھیجے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے اور ان بھائیوں کے واسطے جو ایمان میں اس سے سبقت لے جا چکے ہیں، مغفرت کی دعا کرے، پھر اس کے بعد یہ پڑھے اے اللہ! جب تک تو مجھے زندہ رکھے ہمیشہ گناہ سے بچنے کی اور غیر مفید باتیں چھوڑنے کی توفیق فرما، اور وہ بصیرت عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے موجد بزرگی واحترام اور ایسی عزت والے جس تک پہنچنے کا ارادہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اے اللہ! اے رحم کرنے والے! میں تجھ سے تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے مجھے اپنی کتاب (قرآن مجید) سکھلائی ہے، اسی طرح مجھے اس کا حافظ بھی کر دے اور اس طرح مجھے اس کے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا

حفظ قرآن کی دعا

کرنے والے! بزرگی واحترام اور ایسی عزت کے مالک جس کے حاصل کرنے کا قصد بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اے اللہ! اے نہایت رحم کرنے والے! میں تجھ سے تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب (کی برکت) سے میری آنکھوں کو منور اور میری زبان کو جاری کر دے اور میرے دل سے غم دور کر دے اور اس کی (برکت سے) سینہ کو کھول دے اور بدن کو دھو دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی حق پر میری مدد نہیں کر سکتا، اور وہ تو ہی کر سکتا ہے، اور طاقت وقوت اللہ بلند وبرتر ہی کی مدد سے ہے، اس کو تین یا پانچ یا سات جمعہ کرے، اللہ کے حکم سے (دعا) مقبول ہوگی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے (یہ دعا) کبھی کسی مومن کی خالی نہیں جاتی، ترمذی، حاکم (عن ابن عباسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا اَخْطَاَ اَوْ اَذْنَبَ فَاَحَبَّ اَنْ يَّتُوْبَ اِلَى اللّٰهِ
فَلْيَاْتِ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا فَاِنَّهٗ يُغْفَرُ لَهٗ مَا لَمْ
يَرْجِعْ فِيْ عَمَلِهٖ ذٰلِكَ مُسْ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ
فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِذٰلِكَ الذَّنْبِ
اِلَّا غُفِرَ لَهٗ عَهْ حِبْ ی وَجَآءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاذْنُوْبَاهُ وَاذْنُوْبَاهُ فَقَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ
مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ
عَمَلِيْ فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ فَقَالَ
قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مُسْ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ
لِيَتُوْبَ مُسِيْٓءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْٓءُ
اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا مُ مُسْ وَجَآءَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يُذْنِبُ قَالَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ
يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوْبُ قَالَ يُغْفَرُ لَهٗ وَيُتَابُ عَلَيْهِ قَالَ فَيَعُوْدُ
فَيُذْنِبُ قَالَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوْبُ
قَالَ يُغْفَرُ لَهٗ وَيُتَابُ عَلَيْهِ وَلَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا

طَسْ ط

ترجمہ: جب کسی شخص سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو اور وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ عزوجل کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے اے اللہ! میں تیرے سامنے (ان گناہوں سے) توبہ کرتا ہوں (اور) اب کبھی انہیں نہیں کروں گا۔ تو اس کے (تمام گناہ اور قصور) معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دوبارہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ حاکم (عن ابی الدرداء)

جو شخص کوئی گناہ کرے، پھر اٹھ کر (اچھی طرح) غسل اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سنن اربعہ، ابن حبان، ابن سنی (عن ابی بکر الصدیق)

ایک شخص نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا ہائے گناہ! ہائے گناہ! آپ نے فرمایا یوں نہ کہہ بلکہ کہہ اے اللہ! میرے گناہوں سے تیری مغفرت بہت وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کی بہ نسبت تیری رحمت کی زیادہ امید ہے، چنانچہ اس نے کہا پھر آپ نے فرمایا "پھر کہہ" اس نے دوبارہ کہا، پھر آپ نے فرمایا "پھر کہہ" اس نے تیسری بار پھر کہا، پھر آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا اللہ نے تجھے بخش دیا۔ حاکم (عن جابر بن عبداللہ)

اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست (رحمت) بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے اور دن کو اپنا دست (رحمت) بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن کو توبہ کر لے (اور اسی طرح کرتا رہے گا) یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے نکل آئے گا (یعنی قیامت آجائے گی) مسلم، حاکم، (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے (اس کا کیا حال ہوگا) آپ نے فرمایا "اس کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے"۔ اس شخص نے کہا پھر وہ اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے آپ نے فرمایا "اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور توبہ قبول کر لیجاتی ہے" اس شخص نے کہا دوبارہ پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا "اس کے ذمہ لکھ دیا جاتا ہے" اس شخص نے کہا پھر وہ اس گناہ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا "اس کو بخش دیا جاتا ہے اور توبہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے سے نہیں تھکتا، جب تک تم بخشش مانگتے مانگتے نہ تھک جاؤ" طبرانی فی الاوسط، طبرانی (عن عقبہ بن عامرؓ)

وَاِذَا اَحَسُّوا الْمَطَرَ فَلْيَجْثُوْا عَلَى الرُّكَبِ ثُمَّ لْيَقُوْلُوْا يَا رَبِّ
يَا رَبِّ عَوْ وَدُعَاءُ الْاِسْتِسْقَاءِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ
اسْقِنَا خ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا مْ وَاِنْ كَانَ اِمَامًا خَرَجَ
اِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ
عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَآءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ
وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ يُحَوِّلُ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهٗ وَيُحَوِّلُ
رِدَآءَهٗ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ وَيَنْزِلُ فَيُصَلِّيْ
رَكْعَتَيْنِ دَ حِبْ مُسْ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا
مُّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا دَ مُصْ غَيْرَ اٰجِلٍ دَ
رَائِثٍ مُصْ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَآئِمَكَ وَانْشُرْ
رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ دَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا
زِيْنَتَهَا وَسُكْنَاهَا عَوْ اَللّٰهُمَّ ضَاحَتْ جِبَالُنَا وَاغْبَرَّتْ اَرْضُنَا
وَهَامَتْ دَوَآبُّنَا مُعْطِ الْخَيْرَاتِ مِنْ اَمَاكِنِهَا وَمُنْزِلَ الرَّحْمَةِ
مِنْ مَعَادِنِهَا وَمُجْرِيَ الْبَرَكَاتِ عَلٰى اَهْلِهَا بِالْغَيْثِ الْمُغِيْثِ

أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ فَنَسْتَغْفِرُكَ لِحَاقَاتٍ مِنْ ذُنُوْبِنَا وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اَللّٰهُمَّ فَأَرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا وَّاَوْصِلْ بِالْغَيْثِ وَالْكِفِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِكَ حَيْثُ يَنْفَعُنَا وَيَعُوْدُ عَلَيْنَا غَيْثًا عَامًّا طَبَقًا غَبَقًا مُجَلِّلًا غَدَقًا خِصْبًا رَّاتِعًا مُمْرِعَ النَّبَاتِ عَوْ

طلب باراں کی دعا

ترجمہ: جب قحط سالی ہو تو دوزانو بیٹھ کر کہیں اے ہمارے پروردگار! اے ہمارے پالنے والے، ابوعوانہ (عن سعد بن ابی وقاصؓ)

(بارش کے لئے دعا کرنا) اے اللہ! ہمیں پانی دے، اے اللہ! ہمیں پانی دے۔ اے اللہ! ہمیں پانی دے، بخاری (عن انسؓ)

اے اللہ! مینہ برسا دے، اے اللہ! مینہ برسا دے، اے اللہ! مینہ برسا دے مسلم (عن انسؓ)

اور اگر امام ہو تو سورج کی کرن پوٹھتے وقت (جنگل کی طرف) نکلے، اور منبر پر بیٹھ کر تکبیر کہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر کہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا بیحد مہربان نہایت رحم والا (اور) روز جزا کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اے اللہ! تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے پروا اور بے نیاز ہم فقیر و محتاج، تو ہم پر مینہ برسا اور جتنا برسائے اس سے ہمیں روزی دے اور ایک مدت تک فائدہ پہنچا، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، پھر لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیر دے اور اپنی چادر لوٹ لے اور ہاتھ برابر اٹھائے رکھے، پھر لوگوں کی طرف منہ کرے، اور منبر سے اتر کر دو رکعت نماز پڑھے۔ ابوداؤد، ابن حبان، حاکم (عن عائشہؓ)

اے اللہ! ہم پر ایسا مینہ برسا جو فریاد رسی کرنے والا، ارزانی پیدا کرنے والا، نفع دینے والا ہو نقصان کرنے والا نہ ہو، جلدی برسنے والا ہو، دیر میں برسنے والا نہ ہو۔ ابوداؤد، ابن ابی شیبہ، (عن جابرؓ) (عن کعب بن عجرہؓ)

اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر، اور اپنی وسیع رحمت کو ہر طرف پھیلا اور اپنے مردہ شہر کو جلا اٹھا۔ ابوداؤد۔

اے اللہ! ہماری زمین کو اس کی رونق اور بہار اور بھلائی اور چین سے نواز دے۔ ابوعوانہ، (عن سمرۃ بن جندبؓ)

اے اللہ! ہمارے پہاڑ بے آب وگیاہ ہو گئے، ہماری زمین گرد آلود ہوگئی، جانور پیاسے تڑپنے لگے، اے بھلائیوں کو اس کے خزانہ سے دینے والے اور رحمت کو اس کی کانوں سے نازل فرمانے والے اور برکت والوں پر فراوانی درس مینہ سے برکتیں برسانے والے تو ہی وہ ذات ہے جس سے بخشش مانگی جائے (اور) تو ہی بڑا بخشنے والا ہے، ہم تجھ سے اپنے خاص گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور عام گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ! ہم پر آسمان سے برابر لگاتار موسلا دھار مینہ برسا، اور اپنے عرش کے نیچے سے ایسا مینہ برسا جو عام اور بکثرت ہو (اور تمام مخلوق کو) سیراب کرنے والا، اور زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والا ہو، بڑی بوند والا ہو اور ارزانی اور خوب گھاس پیدا کرنے والا برسا کر ہماری کفایت فرما جو ہمیں نفع دے اور اس کا نفع پے در پے ہو۔ ابوعوانہ (عن حریثؓ)

شرح: غَيْثٌ طَبَقٌ = بالتحریک کے معنی ہیں وہ مینہ جو روئے زمین کو ڈھانک لے، یعنی عام اور بکثرت۔ طبق الشیٔ = عام ہونا، طبق السحاب الجو، بادل کا فضا کو گھیر لینا، طبق الماء وجہ الارض پانی کا روئے زمین کو ڈھانپ لینا۔ غیث طبق = ای عام واسع (مجمع بحار الانوار)

غَيْثٌ مُجَلِّلٌ = بمعنی موصوف مفسرین، کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کے معنی ہیں اور ہوسکتا ہے کہ غیث سے لیا ہو جس کے معنی ہیں شام کو پینے کی چیز، پھر تجرید کرکے ساقی کے معنی لے لئے ہوں۔

لغت میں غَبَقَ باب نصر یا ضرب سے آتا ہے جس کے معنی ہیں شام کو پینے کی چیز پلانا، غبق الغنم بکری کو شام کو پلانا یا دوہنا۔

غَيْثٌ مُجَلِّلٌ = عام بارش وہ مینہ جو زمین کو پانی اور سبزہ سے ڈھانک لے۔ جلّل الشیٔ، عام ہونا، ڈھانپ لینا، اور اسی سے ہے جلل المطر الارض بارش نے زمین کو ڈھانپ لیا۔

غَدَقٌ = بکثرت اور بڑی بوند والا مینہ، غدق المطر، بکثرت بارش ہونا، غدق (بفتح الدال) المطر الکبار القطر (مجمع بحار الانوار)

هَيْثٌ خَصِبٌ = بکسر مجمہ وہ مینہ جس سے سرسبزی اور ارزانی ہو، خَصِبٌ، سبز گھاس کی کثرت، فراخی، جمع خصاب، کہا جاتا ہے۔ بَلَدٌ خَصِبٌ = سرسبز شہر۔

غَيْثٌ رَائِعٌ = رَبِيعٌ سے ہے جس کے معنی ہیں آسودہ زندگی والا ہونا جس کو ہر چیز حاصل ہو، یعنی وہ بارش جس سے بہت گھاس اگے، جس کو مویشی چریں اور خوش حالی ہو۔

ربیع = آسودہ زندگی بسر کرنا۔

ربع فی المکان = اقامت کرنا اور فراغی کے ساتھ کھانا پینا ــــ کلاء ربع = چرنے والے کے لئے کافی گھاس

مُمْرِعٌ النَّبَاتِ = بضم میم اولی وکسر ثالثہ، کثرت سے اگانے والا۔

نماز استسقاء

جس سال بارش بند ہو جاتی اور قحط کے عام آثار نمایاں ہوتے تو جناب رسول انور صلے اللہ علیہ وسلم

ایک دن معین کر کے نہایت عجز و مسکنت کے کپڑے زیب جسم فرما کر عید گاہ تشریف لے جاتے وہاں مسلمان جمع ہوتے اور آپ دو رکعت نماز بلند قرأۃ سے ادا کرتے۔ نماز کے ساتھ خطبہ بھی پڑھتے مگر کبھی نماز سے پیشتر اور کبھی نماز کے بعد قبلہ رُخ ہو کر دونوں ہاتھ اونچے کرتے اور بے انتہا عجز و انکسار کے ساتھ دعا کرتے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کی جانب اور پشت آسمان کی طرف رکھتے اور چادر مبارک کو لوٹاتے، چادر کے لوٹانے میں تفاؤل لینا مقصود ہوتا تھا کہ جس طرح چادر کی حالت بدل جاتی ہے اس طرح زمانے کی حالت بدل جائے۔ یعنی کال سے سماں اور قحط سالی سے فراخ سالی ہو جائے۔ خطبۂ استسقاء ان لفظوں سے شروع کرتے:۔

الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللھم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوۃً وبلاغا الی حین۔

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو دنیا جہان کا پروردگار ہے نہایت مہربان بہت رحم والا روز جزا کا مالک اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بے پروا اور بے نیاز ہے اور ہم فقیر و محتاج تو ہم پر مینہ برسا اور جتنا برسائے اس سے ہمیں روزی دے اور ایک مدت تک فائدہ پہنچا۔

پھر یہ دعا پڑھے:۔

اللھم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل اللھم اسق بلادک وبھائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت اللھم اسقنا اللھم اسقنا اللھم اسقنا۔

اے اللہ! ہمیں مینہ کا پانی پلا کر وہ ہماری فریاد رسی کرے اور انجام کار کے اعتبار سے سیر حاصل شاداب ہو نفع پہنچائے اور نقصان نہ دے جلدی سے تاخیر نہ کرے الٰہی! اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی پلا اور اپنی وسیع رحمت کو ہر طرف پھیلا اور اپنے مُردہ شہر کو جلا اٹھا یعنی زمین کو سرسبزی اور شادابی سے مالا مال کر دے، اے اللہ! ہمیں پانی پلا، اے اللہ! ہمیں پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی پلا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قحط پڑا، لوگوں نے آپ سے پانی نہ برسنے کی شکایت کی، حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عید گاہ میں منبر رکھا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ علی الصباح عید گاہ تشریف لے گئے اور سورج نکل آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کی اور تکبیر و تہلیل کہتے ہوئے خطبہ شروع کیا، خطبے سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دیر تک عجز و زاری کے ساتھ دعا کرتے رہے، پھر چادر لوٹائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی اس کے بعد منبر سے اُتر کر دو رکعت نماز پڑھی آپ کی دعا کے آثار قبولیت نمایاں ہوئے، دھواں دھار ابر اٹھا اور موسلا دھار پانی برسنا شروع ہوا۔

وَاسْتَسْقٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَمَا زَادَ عَلَى الْاِسْتِغْفَارِ مُصْ
وَاِذَا رَاٰى سَحَابًا مُقْبِلًا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ
بِهٖ اَللّٰهُمَّ سَيِّبًا نَافِعًا فَاِنْ كَشَفَهُ اللّٰهُ وَلَمْ يُمْطِرْ حَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى
ذٰلِكَ دَسَ قَ وَاِذَا رَاَى الْمَطَرَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا خَ اَللّٰهُمَّ
سَيِّبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا مُصْ فَاِذَا كَثُرَ وَخِيْفَ الضَّرَرُ اَللّٰهُمَّ
حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ
وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ خ مُ

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (جب) بارش کی دعا مانگی تو استغفار کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ ابن ابی شیبہ (عن عائشہؓ)

اور جب بادل آتا ہوا دیکھے تو کہے اے اللہ! ہم اس چیز کی برائی سے (جو یہ بادل لے کر آیا ہے، تیری پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ! اس بادل کو بہت برسنے اور نفع دینے والا کر دے۔ اور اگر بادل کھول دے اور بارش نہ برسائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

اور جب بارش دیکھے تو کہے الٰہی! خوش حال کرنے والی بارش برسا۔ بخاری (عن عائشہؓ)

اے اللہ! خوب برسنے اور نفع دینے والا مینہ برسا، دو یا تین بار کہے۔ ابن ابی شیبہ (عن عائشہؓ)

پھر جب زیادہ بارش ہو جائے اور نقصان کا ڈر ہو تو کہے اے اللہ! ہمارے اردگرد برسا ہم پر نہ برسا، اے اللہ! ٹیلے، قلعے، نالے اور درخت اگنے کے مقامات

بادل آتا ہوا دیکھنے کی دعا

بارش سے بچاؤ کی دعا

شرح اَلْاٰكَامُ۔ واحد اَكَمَةٌ، ٹیلہ، چھوٹی پہاڑی۔
اَلْاٰجَامُ۔ واحد اُجْمَةٌ، قلعہ۔
اَلظِّرَابُ۔ واحد ظَرِبٌ، اُبھرتا ہوا تیز چھوٹا ٹیلہ۔

وَاِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ تِ سَ مُسْ سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ مُوْطَا وَاِذَا هَاجَتِ الرِّيْحُ اِسْتَقْبَلَهَا بِوَجْهِهٖ وَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيَدَيْهِ طَبْ ط وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَآ اُرْسِلَتْ بِهٖ مُرْتِ سَ طَبْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا طَبْ ط وَاِنْ جَآءَ مَعَ الرِّيْحِ ظُلْمَةٌ تَعَوَّذَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ دَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَآ اُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَآ اُمِرَتْ بِهٖ تِ سَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَآ اُمِرَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اُمِرَتْ بِهٖ صِ اَللّٰهُمَّ لَقْحًا لَّا عَقِيْمًا حِبْ طَسْ

ترجمہ: اور جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنے تو کہے اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے اور عذاب سے ہلاک نہ فرما اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں عافیت دے۔ (ترمذی، نسائی، حاکم عن ابن عمرؓ)

پاک ہے وہ ذات، جس کی (بادلوں کی) گرج اس کی تعریف کے ساتھ (اس کی) پاکیزگی بیان کرتی اور (نیز) فرشتے اس کے خوف کے مارے (اس کی) حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں) مالک فی الموطا

بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کی دعا میں

موقوفاً عن عبداللہ بن الزبیرؓ)

اور جب آندھی چلے تو اس کی طرف منہ کرے اور رقعدہ کی طرح، دوزانو بیٹھکر، طبرانی فی کتاب الدعا والکبیر (عن ابن عباسؓ)

اور کہے اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے، اور جس چیز کے لئے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور میں اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے، اور جس کے لئے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم، ترمذی، نسائی، (عن عائشہؓ) طبرانی (عن ابن عباسؓ)

اے اللہ! اس آندھی کو خیر و برکت والی ہوا بنا برباد کرنے والی نہ بنا، اے اللہ! اس کو رحمت کر عذاب نہ بنا۔ طبرانی فی الکبیر و کتاب الدعاء (عن ابن عباسؓ)

اور اگر آندھی کے ساتھ اندھیرا بھی ہو تو "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" اور "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ" پڑھے۔ ابوداؤد (عن عقبہ بن عامرؓ)

(اور کہے) اے اللہ! ہم تجھ سے اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے، اور جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کی خیر چاہتے ہیں اور اس آندھی کی اور اس چیز کی جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم ہوا ہے، اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ترمذی، نسائی، (عن ابی بن کعبؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جس کا اس آندھی کو حکم دیا گیا ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابویعلیٰ (عن انسؓ)

اے اللہ تو اس ہوا کو بار آور کر خالی نہ کر، ابن جان، طبرانی فی الاوسط (عن سلمۃ بن الاکوعؓ)

شرح: لَقِحَتْ = لَقْحًا و لَقَاحًا و لِقَاحًا الناقۃ و نحوھا، بوجھل ہونا، حاملہ ہونا، یعنی وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوں وہ ہوائیں جو پانی اٹھائے ہوئے ہوں۔

عَقِیْمٌ = بانجھ یعنی وہ ہوا جو پانی سے خالی ہو۔

وَاِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَلْيَسْاَلِ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ خ مُ دَتِ سَ وَاِذَا سَمِعَ نَهِيقَ الْحِمَيْرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ خ مُ دَتِ سَ مُسْ وَكَذٰلِكَ اِذَا سَمِعَ نُبَاحَ الْكِلَابِ دَ سَ مُسْ وَاِذَا رَاَى الْكُسُوفَ فَلْيَدْعُ اللّٰهَ وَلْيُكَبِّرْ وَلْيُصَلِّ وَلْيَتَصَدَّقْ خ مُ دَ سَ

مرغ، گدھے اور کتے کی آواز کا بیان

سورج یا چاند گہن کا بیان

ترجمہ: اور جب مرغ کی بانگ سنے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ)

اور جب گدھے کو رینکتے (اس کی آواز کو) سنے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم (عن ابی ہریرۃؓ)

اور اسی طرح جب کتوں کو بھونکتے سنے تو بھی شیطان لعین سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ابوداؤد، نسائی، حاکم (عن جابر بن عبداللہؓ)

اور جب سورج یا چاند گہن ہو تو اللہ سے دعا کرے تکبیر کہے، نماز پڑھے اور صدقہ دے، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن عائشہؓ)

شرح: لغت میں کسوف کا اطلاق سورج اور چاند دونوں کے گہن لگنے پر ہوتا ہے اور لغت ہی میں سورج کے گہن لگنے کو کسوف اور چاند کے گہن لگنے کو خسوف بھی کہتے ہیں۔

سورج گہن کے وقت احناف کے نزدیک دو رکعت نماز باجماعت لمبی قرأت کے ساتھ پڑھے اور خطبہ نہ پڑھے اور چاند گہن میں ہر شخص علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور فقیروں، محتاجوں کو صدقات وغیرہ دے، اور لونڈی غلام آزاد کرے۔

نماز کسوف وخسوف

عرب میں اکثر سورج گہن کو کسوف اور چاند گہن کو خسوف کہتے ہیں، جب ایسا موقع پیش آئے تو امام کو مناسب ہے کہ کسی آدمی کو بھیجا مسلمانوں کو جمع کرے اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مسجد میں دو رکعت نماز جماعت سے ادا کرے قرأت بلند آواز سے کرے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ عنکبوت اور دوسری میں سورۂ روم پڑھنا مسنون ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن پڑا تو آپ نے دو رکعتیں جماعت سے پڑھیں، اس نماز میں آپ کا قیام بہت طویل تھا۔ یعنی سورۃ بقر کے

مقدار قرآن پڑھا پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے، رکوع سے اٹھ کر پھر قیام کیا لیکن یہ قیام پہلے سے قدرے خفیف تھا، اس کے بعد پھر رکوع کیا اور پہلے رکوع کی بہ نسبت یہ رکوع بہت ہی خفیف تھا، پھر کھڑے ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے، ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کیا، اس کے بعد دوسری رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے اور جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری بھی اسی طرح پوری کی یعنی اس میں بھی دو رکوع تھے، دو قیام تھے، دو قرأتیں تھیں لیکن اس رکعت کا قیام اور رکوع اور قرأتیں پہلی رکعت کے قیام اور رکوع اور قرأتوں سے کم تھیں، نماز سے فارغ ہوئے تو سورج بالکل صاف اور روشن تھا اس کے بعد آپ نے اٹھ کر دیے ہی دو خطبے پڑھے جیسے جمعہ میں پڑھے جاتے ہیں، ان خطبوں میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورج اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں اور یہ دونوں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے پر نہیں گہن لگتے، لوگو! جب تمہیں یہ موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، دعا مانگو تکبیر و تہلیل میں مشغول ہو نماز پڑھو، خیر خیرات کرو، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اُمتِ محمدؐ اللہ تعالیٰ سے سخت غیرت رکھتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں بخدا اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جن کا مجھے علم ہے تو رونا بہت اور ہنسنا تھوڑا۔

اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ دنیا میں جب کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آتا مثلاً کوئی بڑا شخص مرنے کو ہوتا یا ضرر عام پیدا ہوا چاہتا ہے تو سورج گہن اور اسی طرح چاند گہن پڑتا ہے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گہن پڑا تو اتفاق سے اسی روز آپ کے فرزند ابراہیم کا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے حالتِ شیر خوارگی میں انتقال ہو گیا، ماریہ قبطیہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں جنہیں شاہ مقوقس نے ہدیۃً آپ کی خدمت میں بھیجا تھا، ابراہیمؓ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اپنے پرانے خیال کے مطابق کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیمؓ کے وفات پا جانے پر سورج گہن پڑا ہے، چونکہ لوگوں کے اس اعتقاد میں ایک طرح کی بوئے شرک پائی جاتی تھی اس کے تدارک کے لئے حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ چاند سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں اور یہ دونوں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے پر نہیں گہن کھاتے، پیغمبر اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ آپ کی کمال عبودیت اور صداقت پر بڑی بھاری دلیل ہے۔

آپ کے فرزند ابراہیمؓ کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے کو ہوا تو رسولؐ مع چند صحابیوں کے ابو سیف آہن گر کے مکان پر تشریف لے گئے، یہ ابو سیف ابراہیمؓ کی دایہ اور رضعہ کے شوہر تھے جن کا نام برا بن آکوش اور ان کی بی بی کا نام خولہ بنت المنذر تھا، حضور انورؐ نے ابراہیمؓ کو گود میں لے کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رُو نگھا حالانکہ ابراہیمؓ دم توڑ رہے تھے، اس وقت ان کی عمر دو برس کی تھی اور بعض کہتے ہیں سولہ مہینے آٹھ روز کی اور بروایت بعض ایک سال دس مہینے چھ روز کی، بہرکیف حالتِ رضاع میں تھے کہ انتقال کیا، اس وقت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ زار و قطار رو رہے تھے، عبدالرحمٰن بن عوف جو ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور

اس موقع پر موجود تھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ باوجود اس معرفت اور جلالت شان کے روتے ہیں فرمایا: "ابن عوف! یہ آنسو بے صبری اور ناشکیبائی اور جزع کی وجہ سے نہیں بہتے بلکہ رحمت اور رقت کے اثر سے بہتے ہیں" اس کے بعد آپ متواتر آنسو بہانے اور فرمانے لگے کہ "آنکھیں آنسو بہاتیں ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے اور ہم وہی بات کہتے ہیں جسے ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں"۔

سورج اور چاند گہن کی نمازوں کا وہی وقت ہے جب گہن پڑنے لگے، لیکن جن وقتوں میں نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت ہے یعنی سورج کے نکلتے ڈوبتے اور زوال کے اوقات، تو ان اوقات میں نہ پڑھیں بلکہ خدا کی حمد وثنا اور تکبیر وتہلیل میں مشغول ہوں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ بن پڑے تو خیرات وصدقات دیں، ان اوقات کے نکل جانے کے بعد بھی گہن باقی ہے تو نماز قائم کریں خطبہ پڑھیں۔

جب کبھی گہن پڑتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے کہ مبادا آج ہی قیامت نہ ٹوٹ پڑے، آپ گھبرائے گھبرائے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتے اور حاضرین کی طرف رُخ کر کے سخن کرتے فرماتے کہ لوگو! اللہ اپنے بندوں کو ان نشانیوں سے ڈراتا ہے کسوف و خسوف کی نماز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح پر منقول ہے۔ کبھی تو آپ ان دو رکعتوں میں دو رکوع کرتے کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ اور ہر رکوع کے بعد قرأت پڑھتے، کبھی ایسا ہوتا کہ ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے، ان دونوں نمازوں میں عورتوں اور بچوں کا شامل ہونا اور نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اس لئے اگر ان دونوں میں بھی بوڑھی عورتیں اور بچے سورج اور چاند گہن کی نمازوں میں شامل ہو جائیں تو مضائقہ نہیں۔

چاند اور سورج کو جب گہن لگتا تھا تو تمام صحابہ صلوٰۃ الکسوف ادا فرماتے تھے، ایک بار مدینہ میں گہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے دو رکعت نماز پڑھی ایک بار اور گہن لگا تو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے لوگوں کو جمع کیا اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔

وَاِذَا رَاَی الْهِلَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبِّیْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ تِ حِبِّیْ هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ط اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا خَيْرَهٗ وَنَصْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَفَتْحَهٗ وَنُوْرَهٗ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ مَوْ مُصْ وَاِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ تِ سَ مُصْ وَاِذَا رَاٰی لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ تِ سَ قَ مُسْ

ترجمہ: اور جب پہلی رات کا چاند دیکھے تو "اللہ اکبر" کہے۔ دارمی (عن ابن عمرؓ)

چاند دیکھنے کی دعا

اور یہ دعا کرے اے اللہ! اس چاند کو ہم پر خیر و برکت، ایمان و سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق دینے کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ (اے چاند!) میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، ترمذی، ابن حبان، دارمی (عن طلحہ بن عبدالدارؓ)

یہ خیر و بھلائی کا چاند ہے، اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینہ کی خیر و برکت اور تقدیر کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں یہ دعا تین مرتبہ پڑھے۔ طبرانی (عن رافع بن خدیجؓ)

اے اللہ! ہمیں اس مہینے کی بہتری و بھلائی، نصرت و برکت، فتح و ظفر اور اس کا نور نصیب فرما، اور ہم اس کی اور اسکے بعد آنے والے مہینے کی برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن علیؓ)

اور جب ماہ کامل دیکھے تو کہے میں اس چھپنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی، نسائی، حاکم (عن عائشہؓ)

اور جب شبِ قدر دیکھے تو کہے الٰہی! معاف کرنا تیری ہی شان ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کردے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن عائشہؓ)

شرح: رمضان شریف میں ایک رات نہایت برکت والی ہے جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی کو **لیلۃ القدر** کہتے ہیں، جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہا وہ بڑی نعمتوں سے محروم رہا اس مبارک رات کے تعین میں شارع اسلام سے کوئی قول فیصل منقول نہیں ہے، صرف اس قدر بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخر دس میں کسی طاق رات میں ہوتی ہے۔

بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ اکثر یہ رات رمضان کی اکیسویں یا تیئیسویں یا پچیسویں یا ستائیسویں یا انتیسویں تاریخ کی راتوں میں پھرتی ہوئی ہر سال ہوا کرتی ہے۔ اس رات کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس رات میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ مقرب فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، عبادت کرنے والے مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اس رات کی عبادت کی برکت سے مسلمانوں کے اگلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔

وَاِذَا نَظَرَ وَجْهَهٗ فِی الْمِرْاٰةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِیْ فَحَسِّنْ
خُلُقِیْ حِبِّ مِیْ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِیْ فَاَحْسِنْ خُلُقِیْ وَ
حَرِّمْ وَجْهِیْ عَلَی النَّارِ رَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَوّٰی خَلْقِیْ وَ
اَحْسَنَ صُوْرَتِیْ وَزَانَ مِنِّیْ مَاشَانَ مِنْ غَیْرِیْ رَاَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ سَوّٰی خَلْقِیْ فَعَدَّلَهٗ وَصَوَّرَ صُوْرَةَ وَجْهِیْ فَاَحْسَنَهَا
وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ طَسٓ وَاِذَا سَلَّمَ عَلٰی اَحَدٍ فَلْیَقُلْ
اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ خَ مُرْ سَ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ دَتِ سَ مِیْ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ دَتِ سَ مِیْ وَبَرَكَاتُهٗ دَتِ سَ مِیْ فَاِذَا
رَدَّ السَّلَامَ وَعَلَیْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَ
مَرْ سَ حِبْ وَعَلٰی اَهْلِ الْكِتَابِ عَلَیْكَ مُرْتِ سَ
اَوْ وَعَلَیْكَ خَ مُرْ دَتِ سَ وَاِذَا بُلِّغَ سَلَامًا مِّنْ اَحَدٍ
فَلْیَقُلْ وَعَلَیْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَ اَوْ وَعَلَیْكَ
وَعَلَیْهِ السَّلَامُ سَ

ترجمہ: اور جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو کہے اے اللہ! تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ ابن حبان (عن ابن مسعودؓ) الدارمی (عن عائشہؓ)

اے اللہ! جیسی تو نے میری صورت بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، اور مجھے دوزخ پر حرام کر دے۔ بزار (عن عائشہؓ)

اللہ کا شکر ہے جس نے میری تخلیق اچھی کی اور میری صورت اچھی بنائی اور مجھ میں وہ عضو خوبصورت بنائے جو دوسروں میں عیب دار کئے۔ بزار (عن انسؓ)

اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بنایا تو بہت درست بنایا، اور جوڑ بند مناسب رکھے، اور میرے چہرے کا نقشہ خوب ہی بنایا، اور مجھے اپنے فرماں برداروں میں کردیا، طبرانی فی الاوسط، ابن سنی، (عن انسؓ)

اور جب کسی کو سلام کرے تو کہے "السلام علیکم" تم سلامت رہو۔ بخاری مسلم، نسائی، (عن ابی ہریرہؓ)

(یا) "السلام علیک" تو سلامت رہے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، (عن جابرؓ)

اور "ورحمۃ اللہ" اللہ کی رحمت ہو۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دارمی (عن عمران بن حصینؓ)

"وبرکاتہ" اور اس کی برکتیں ہوں۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، دارمی (عن عمران بن حصینؓ)

اور جب سلام کا جواب دے تو "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" کہے، تم بھی سلامت رہو اور تم پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، صحاح ستہ، ابن مردویہ (عن عائشہؓ) نسائی، ابن حبان (عن انسؓ)

اور اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے جواب میں کہے "علیک" تم پر بھی ہو مسلم، ترمذی، نسائی (عن ابن عمرؓ)

(یا) "وعلیک" اور تم پر بھی ہو، کہے، بخاری مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابن عمرؓ)

اور جب کسی کو سلام پہنچایا جائے تو اس کے جواب میں اُسے کہنا چاہئے "وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" وہ بھی سلامت رہے اور اس پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں صحاح ستہ (عن عائشہؓ)

یا "وعلیک وعلیہ السلام" کہے تو بھی اور وہ بھی سلامت رہے۔ نسائی (عن انسؓ)

شرح: السلام علیکم کے معنی ہیں، اللہ تمہیں تمام آفتوں سے بچائے اور سلامت رکھے۔

سلام کرنے کے آداب: یہ ہیں کہ سلام زبان سے کرے اور جہاں تک ہو سکے "السلام علیکم" کہے کیونکہ یہ الفاظ محبوب دو جہاں کے ہیں، جو خیر و برکت ان الفاظ میں ہوگی وہ کسی اور دوسرے الفاظ میں نہیں ہوگی۔ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب فرض کفایہ ہے یعنی اگر کسی نے مجلس میں آکر سلام کیا اور ایک شخص نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائیگا اور اگر سب کے سب خاموش رہے تو سب گنہگار ہوں گے۔

سلام کی ممانعت: خطبہ کے وقت، قرآن مجید پڑھنے یا سننے والے کو، اذان یا تکبیر کہتے وقت، پیشاب یا پاخانہ کرنے والے کو، قاضی کو فیصلہ کرنے کی حالت میں، استاد کو پڑھاتے وقت، نماز پڑھنے والے کو، شطرنج یا تاش یا گنجفہ وغیرہ کھیلنے والے کو، مبتدع یعنی رافضی، خارجی، ملحد، زندیق، مسخرے، جھوٹی کہانیاں کہنے والے، بیہودہ گو، گالیاں دینے والے،

نیا دین ایجاد کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور وہ لوگ جو بازار میں اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ بازار میں کھانے والے اور کافر ان سب کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

خطبہ کے وقت سلام کرنے والا گنہگار ہوگا، اور سننے والے اس کا جواب نہ دیں، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والے کو یا اذان اور اقامت کے وقت یا پیشاب پاخانہ کرنے والے کو سلام کرنے والا گنہگار ہوگا لیکن یہ سب لوگ اس کو جواب دیں اور نماز پڑھنے والے کو، سلام کرنے والا بھی گنہگار ہوگا اور وہ اس کا جواب نہ دے، سائل کو سلام کرنا مکروہ ہے اور اگر خود سائل سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے۔

آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرے اس کا جواب مت دو، اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، سوار پیادے کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور جب اپنے گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے۔ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاِذَا عَطَسَ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ خ د س عَلٰى كُلِّ حَالٍ د
تِ س مُس ق اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا
عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى د تِ س اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ د تِ س حِبْ وَلْيَقُلْ لَهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ خ د
س تِ مُس ق وَلْيُرَدَّ عَلَيْهِ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ
بَالَكُمْ خ د س تِ مُس يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ د تِ س
حِبْ لَنَا وَلَكُمْ س ق مُس يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ
لَنَا وَلَكُمْ مُوطَا وَاِنْ كَانَ كِتَابِيًّا قِيْلَ لَهٗ يَهْدِيْكُمُ
اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ تِ د س مُس وَمَنْ قَالَ عِنْدَ كُلِّ
عَطْسَةٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَّا كَانَ لَمْ
يَجِدْ وَجَعَ ضِرْسٍ وَّلَا اُذُنٍ اَبَدًا مُوْمُص وَاِذَا طَنَّتْ
اُذُنُهٗ فَلْيَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ
وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مَّنْ ذَكَرَنِيْ طَيْ وَاِذَا بُشِّرَ بِمَا
يَسُرُّهٗ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ خ مُ د س ق اَوْ حَمِدَ وَكَبَّرَ
خ مُ اَوْ سَجَدَ لِلّٰهِ شُكْرًا مُس اَ وَاِذَا رَاٰى مِنْ نَّفْسِهٖ
اَوْ مَالِهٖ اَوْ غَيْرِهٖ مَا يُعْجِبُهٗ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ س ق
مُس وَاِذَا اَرَادَ نُمُوَّ مَالِهٖ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ص

ترجمہ: اور جب چھینک آئے تو "الحمد للہ" کہے بخاری، ابوداؤد، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ) ہر حال میں اللہ کا شکر ہے) ابوداؤد (عن رفاعہ بن رافع) ترمذی، نسائی (عن ایوب) حاکم، ابن ماجہ (عن علیؓ)

اللہ ہی کی تعریف ہے ایسی تعریف جو بہت اور پاک ہے، جس کے اندر اور جس کے اوپر برکت کی گئی ہے جس طرح ہمارا پروردگار (اس دنیا میں) پسند کرے اور (آخرت میں) راضی ہو۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن رفاعہ ابن رافعؓ)

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جان (عن سالم بن عبید اللہ)

اور سننے والے کو "یرحمک اللہ" اللہ تجھ پر رحم کرے، کہنا چاہئے۔ بخاری، ابوداؤد، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ) ترمذی، (عن ابی ایوبؓ) نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن علیؓ)

پھر چھینکنے والا کہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے، بخاری، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ) حاکم (عن ابی ایوبؓ)

اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جان (عن سالمؓ)

(اللہ) ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے) نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن علیؓ)

اللہ ہم پر اور آپ پر رحم کرے اور ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، موقوفاً موطا (عن عمرؓ)

اور اگر چھینکنے والا اہل کتاب (یہودی یا نصرانی) ہو تو سننے والا اس کے جواب میں کہے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح کرے۔ ترمذی، ابوداؤد، نسائی، حاکم (عن ابی موسی الاشعریؓ)

اور جو شخص ہر مرتبہ چھینکنے کے وقت "الحمد للہ رب العالمین علی کل حال" ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے، جو تمام جہان کا پروردگار ہے، کہے تو جبتک زندہ رہے گا (اس کے) ڈاڑھ دانت اور کان میں کبھی درد نہ ہوگا۔ ابن ابی شیبہ، موقوفاً (عن علیؓ)

اور جب کسی کا کان جھنجھنانے لگے تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور آپ پر درود بھیجے اور کہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھلائی سے یاد کرے جس نے مجھے یاد کیا۔ طبرانی، ابن سنی (عن ابی رافع القطبیؓ)

چھینکنے کا بیان

چھینکنے والے کی دعا

اور جب کوئی خوشخبری سُنے تو الحمد للہ کہے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، (عن عائشہؓ)

یا "الحمد للہ" اور "اللہ اکبر" کہے۔ بخاری، مسلم۔ (عن ابی سعیدؓ)

یا سجدۂ شکر ادا کرے۔ حاکم، احمد (عن عبدالرحمٰن بن عوفؓ)

اور جب اپنی ذات اور مال یا کسی دوسرے کی ذات و مال میں کوئی پسندیدہ بات دیکھے تو برکت کی دعا کرے۔ نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن عامر بن ربیعہؓ)

اور جب اپنے مال میں زیادتی چاہے تو کہے اے اللہ! تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مومن مرد و عورت اور تمام مسلمان مرد و عورت پر رحمت نازل فرما۔ ابولیلیٰ، (عن ابی سعیدؓ)

---

toobaa-elibrary.blogspot.com

کنٹونمنٹ پبلک لائبریری
لوہ ایوان سینما روڈ راولپنڈی

وَإِذَا رَأَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ يَضْحَكُ قَالَ أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ
خ مُ س وَإِذَا أَحَبَّ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ ذٰلِكَ ی س د
حب فَإِذَا قَالَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللّٰهِ قَالَ أَحَبَّكَ الَّذِي
أَحْبَبْتَنِي لَهُ س د حب ی فَإِذَا قَالَ لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ قَالَ
وَلَكَ س وَإِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ قَالَ أَحْمَدُ اللّٰهَ إِلَيْكَ
ط وَإِذَا نَادَاهُ رَجُلٌ رَدَّ عَلَيْهِ لَبَّيْكَ ی وَإِذَا صُنِعَ إِلَيْهِ
مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي
الثَّنَاءِ ت س حب وَإِذَا عَرَضَ عَلَيْهِ أَخُوهُ مِنْ أَهْلِهِ
وَمَالِهِ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ خ ت س ی

ترجمہ: اور جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہنستا دیکھے تو کہے، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے، بخاری، مسلم، نسائی (عن عمرؓ)

اور جب اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت رکھے تو اس کو بھی اس کی خبر کردے، ابن سنی (عن مقدامؓ بن معدی کرب) نسائی، ابوداؤد، ابن حبان (عن انسؓ)

اور جب اس سے کہے (تو اس طرح کہے) کہ میں تجھ سے (محض) اللہ کے لئے دوستی رکھتا ہوں (تو وہ شخص اس کے جواب میں) کہے اللہ تعالےٰ تجھے (بھی) دوست رکھے، جس وجہ سے تو نے مجھے دوست رکھا۔ نسائی، ابوداؤد، ابن حبان (عن انسؓ) ابن سنی (عن مقدامؓ)

اور جب کوئی شخص کہے اللہ تیری مغفرت کرے (تو اس کے جواب میں) کہے اللہ تعالےٰ تیری بھی مغفرت فرمائے، نسائی (عن عبداللہ بن سرجسؓ)

اور جب کوئی شخص پوچھے تمہارا کیا حال ہے تو کہے اللہ کا شکر ہے (خیریت ہے) طبرانی، (عن ابن عمرؓ)

اور جب کوئی شخص آواز دے تو جواب میں کہے "لبیک" جی حاضر ہوں، ابن سنی، (عن معاذؓ)

کسی کو ہنستا ہوا دیکھنے کی دعا

دعوی کا بیان

حال دریافت کرنے والے کا جواب

اور جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو نیکی کرنے والے سے کہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر دے تو (جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے) اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ترمذی، نسائی، ابن حبان (عن ابن عمرؓ)

اور جب کوئی مسلمان بھائی اپنے اہل وعیال اور مال ومنال پیش کرے کہ (جس قدر تم چاہو اس میں سے لے لو) تو (اس سے) کہے اللہ تمہارے اہل وعیال اور مال ومنال میں برکت دے۔ بخاری ترمذی، نسائی، ابن سنی (عن انسؓ)

شرح: اس حدیث میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی مواخات کی طرف اشارہ ہے جس کا پورا واقعہ یہ ہے:۔

مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا حضرت سعد بن الربیع انصاریؓ سے بھائی چارہ کرا دیا وہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار اور فیاض طبع تھے، کہنے لگے "میں اپنا نصف مال ومنال تمہیں بانٹ دیتا ہوں، اور میری دو بیویاں ہیں، ان کو دیکھو جو پسند آئے اس کا نام بتاؤ میں طلاق دیدوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا" لیکن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، جواب دیا "اللہ تمہارے مال ومنال اور اہل وعیال میں برکت دے، مجھے صرف بازار دکھا دو" لوگوں نے بنی قینقاع کے بازار میں پہنچا دیا وہاں سے واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے، دوسرے روز سے باقاعدہ تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو جسم پر مراسم شادی کی علامتیں موجود تھیں۔ استفسار ہوا "یہ کیا ہے" عرض کیا "ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے" سوال ہوا "مہر کس قدر ادا کیا؟" عرض کیا "ایک گٹھلی کے برابر سونا" حکم ہوا "تو پھر ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سہی"

وَإِذَا اسْتَوْفَى دَيْنَهُ قَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللّٰهُ بِكَ خَ مُ تِ سَ قَ وَفَى اللّٰهُ بِكَ خَ أَوْفَاكَ اللّٰهُ مُ وَإِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَ مُسْنَى مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ إِلَّا وَقَدْ أَدَّى شُكْرَهَا وَإِنْ قَالَهَا الثَّانِيَةَ جَدَّدَ اللّٰهُ لَهُ ثَوَابَهَا فَإِنْ قَالَهَا الثَّالِثَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مُسْ مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا كَانَ قَدْ أَعْطَى خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ ے

ترجمہ:۔ اور جب قرض دار سارا قرض ادا کر دے، تو اس سے کہے (جس طرح تو نے) میرا پورا پورا قرض ادا کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، (عن ابی ہریرہؓ)

(یا کہے) "وفی اللہ بک" اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ عہد پورا کرے (پورا پورا ثواب دے) بخاری (عن ابی ہریرہؓ)

(یا) "اوفاک اللہ" کہے۔ مسلم (عن ابی ہریرہؓ) معنی ان دونوں کے ایک ہی ہیں۔

اور جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو کہے اللہ کا شکر ہے جس کی برکت سے تمام اچھے کام پورے ہوتے ہیں اور جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کہے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے۔ ابن ماجہ، حاکم، ابن سنی (عن عائشہؓ)

(جب) اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی نعمت سے نوازے اور وہ "الحمد للہ" کہے تو اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا، پھر اگر دوبارہ "الحمد للہ" کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر کا از سر نو ثواب دیتا ہے، اور اگر تیسری بار "الحمد للہ" کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حاکم (عن جابرؓ)

(جب) اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ پر کوئی نعمت فرمائی اور اس نے "الحمد للہ رب العالمین" کہا، تو اس کو اس نعمت سے جو اسے ملی تھی، بہتر نعمت (یعنی اس کہنے کا ثواب) دیا جاتا ہے۔ ابن سنی، (عن انسؓ)

ادائے قرض پر قرض خواہ کا طریقہ

پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز دیکھنے کا ذکر

وَاِذَا ابْتُلِيَ بِالدَّيْنِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ تِ مُسْ اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ
كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَهَا
اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ
مُسْ مَرْ اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ
الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَآءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَآءُ اِرْحَمْنِيْ رَحْمَةً
تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ صَطْ وَتَقَدَّمَ مَا يَقُوْلُ اِذَا
اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسٰى دَ وَاِذَا اَخَذَهُ اِعْيَآءٌ مِنْ شُغْلٍ اَوْ طَلَبَ
زِيَادَةَ قُوَّةٍ فَلْيُسَبِّحْ عِنْدَ نَوْمِهٖ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَلْيَحْمَدْ ثَلٰثًا
وَّ ثَلٰثِيْنَ وَلْيُكَبِّرْ اَرْبَعًا وَّ ثَلٰثِيْنَ اَوْ مِنْ كُلٍّ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ
اَوْ مِنْ اِحْدٰهُنَّ اَرْبَعًا وَّ ثَلٰثِيْنَ مَرَّةً خ مُدْ سَ تِ
حِبْ اَ طَ اَوْ مِنْ كُلِّ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّ عِنْدَ
النَّوْمِ ثَلٰثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَالتَّكْبِيْرُ اَرْبَعًا وَّ ثَلٰثِيْنَ اَ

ترجمہ: اور جب (کوئی شخص) قرض میں مبتلا ہوجائے تو یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچالے، اور اپنے فضل وکرم سے مجھے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔
ترمذی، حاکم (عن علیؓ)

ادائے قرض کی دعائیں

اے اللہ! فکر کے دُور کرنے والے، غم کے کھونے والے بیقراروں کی سُننے والے، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے تو ہی مجھ پر رحم کرے گا۔ تو ایسی مجھ پر مہربانی فرما، جو مجھے دوسروں کی مہربانی سے بے نیاز کردے۔ حاکم، ابن مردویہ (عن ابی صدیقؓ)

اے اللہ! (سارے) ملک کے مالک تو (ہی) جس کو چاہے سلطنت دے اور تو (ہی) جسے چاہے ذلت دے (ہر طرح کی خیر و) خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، (اے) دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے، تو جس کو چاہتا ہے دنیا و آخرت دیدیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان دونوں سے باز رکھتا ہے، تو مجھ پر ایسی مہربانی فرما جو دوسروں کی مہربانی سے بے نیاز کردے۔ طبرانی فی الاوسط (عن انسؓ)

اور ادائے قرض کے بارے میں) صبح و شام پڑھنے والی دعائیں اُوپر گذر چکیں۔ ابوداؤد (عن ابی سعیدؓ)

اور جب کوئی شخص کسی کام کرنے سے عاجز ہو جائے، یا زیادہ طاقت و قوت چاہے تو اس کو چاہئے کہ سوتے وقت تینتیس ۳۳ بار "سبحان اللہ" اور تینتیس ۳۳ بار "الحمد للہ" اور چونتیس ۳۴ بار "اللہ اکبر" کہے، یا ہر ایک کو تینتیس تینتیس ۳۳ بار پڑھے، یا ان میں سے کسی ایک کو چونتیس ۳۴ بار اور باقی کو تینتیس تینتیس ۳۳ بار پڑھے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن حبان (عن علیؓ) احمد، طبرانی (عن ام سلمہؓ)

یا ہر کلمہ ہر فرض نماز کے بعد دس دس مرتبہ پڑھے اور سوتے وقت تینتیس تینتیس بار اور تکبیر چونتیس بار پڑھے۔ احمد۔

کسی کام سے تھک جانے کا بیان

شرح: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم پر اُحد پہاڑ کے برابر قرض ہو اور تم اس دعا کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کرا دے گا۔

وَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْوَسْوَسَةِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ خ مُدَ
سَ اَوْلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ مُ اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لْيَتْفُلْ
عَنْ يَّسَارِهٖ ثَلٰثًا وَّلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ د
سَ وَمِنْ فِتْنَتِهٖ وَاِنْ كَانَتِ الْوَسْوَسَةُ فِي الْاَعْمَالِ فَاِنَّ ذٰلِكَ شَيْطَانٌ
يُقَالُ لَهٗ خِنْزَبٌ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَّسَارِهٖ
ثَلٰثًا مُ مُصْ

ترجمہ: اور جو شخص وسوسہ میں مبتلا ہو تو "اعوذ باللہ" پڑھے اور وسوسے سے باز رہے۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی عن ابی ہریرۃؓ)

یا "اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ" میں اللہ اور اسکے رسولوں پر ایمان لایا کہنا چاہیے۔ (مسلم، عن ابی ہریرۃؓ)

اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اسکے برابر کا ہے" پڑھ کر اپنی بائیں جانب تین بار تھتکار دے اور "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن سنی عن ابی ہریرۃؓ)

اور نسائی کی دوسری روایت میں ہے "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و من فتنتہ" میں شیطان مردود اور اس کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ (نسائی عن ابی ہریرۃؓ)

اور اگر اعمال (وضو، نماز وغیرہ) میں وسوسہ ہو تو اس طرح کے وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، جس کو خِنْزَبْ کہتے ہیں، اس وقت آدمی کو چاہیے کہ "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھ کر تین بار اپنی بائیں جانب تھتکار دے (مسلم، ابن ابی شیبہ، عن عثمان بن ابی العاصؓ)

وسوسہ دور کرنے کی دعائیں اور اس کا طریقہ

شرح: یعنی جہاں تک ہو سکے وسوسہ سے بچے، اگر اعوذ پڑھنے سے وسوسہ دور نہ ہو تو اٹھ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے اور وسوسہ اعتقاد یا بدن کے اعمال میں ہوتا ہے۔ شریعت میں وسوسہ، نفس اور شیطان کی باتوں کو کہتے ہیں، جن سے دل کے اندر بُرے بُرے خیالات پیدا ہو کر گناہ کا باعث ہوتے ہیں؛ وسوسہ دو قسم

ہوتا ہے، ایک جبری، دوسرا اختیاری، جبری وہ ہے جو بے اختیار اچانک نفس میں آجائے، اس کو خاطر کہتے ہیں، اس قسم کا وسوسہ اس امت سے معاف ہے، اور گزشتہ امتوں کو بھی معاف تھا، اور جب یہ وسوسہ دل میں ٹھیرے اور خلجان پیدا کرے تو اس کو خاطرہ کہتے ہیں، وہ بھی اس امت کو معاف ہے، اختیاری وہ وسوسہ ہے جو دل میں اگر باقی رہے اور اس پر اصرار ہو اور وہ ہمیشہ خلجان پیدا کرے اور دل میں اس کے کرنے کی خواہش، لذت اور محبت پیدا ہو، اس طرح کے وسوسہ کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس امت سے معاف ہے، اور اس پر مواخذہ نہیں ہے اور بلا عمل کئے نامۂ اعمال میں نہیں لکھا جاتا بلکہ ارادہ وقصد کے بعد اگر اپنے آپ کو روکے تو اس کے عوض میں نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک اور قسم ہے جس کو عزم کہتے ہیں یعنی نفس کی بات کا دل میں ٹھیرانا اور اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اگر اسباب میسر آجائیں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کر گزرے، اس قسم کے وسوسہ پر مواخذہ ہے مگر کرنے کی نسبت سے کم اور جب اس کام کو کرے گا تو زیادہ گنہگار ہوگا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَمَنْ غَضِبَ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ عَنْهُ
مَا يَجِدُ خ مُدس وَمَنْ كَانَ حَدَّ اللِّسَانِ فَاحِشَهُ لَازِمَ
الْاِسْتِغْفَارَ لِحَدِيْثِ حُذَيْفَةَ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِيْ فَقَالَ اَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ اِنِّيْ
لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةٍ س ق مُس مُص
ی وَمَنِ انْتَهٰى اِلٰى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ بَدَا لَهٗ اَنْ يَّجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ
ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ دت س وَكَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ اَنْ يَّقُوْلَ
قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ دت
س حب مُس ط مُص ثَلٰثَ مَرَّاتٍ د حب عَمِلْتُ سُوْٓءً
وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
س مُس مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجْلِسًا لَّمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ
يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ
تِرَةً فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُمْ دت س
حب مُس

ترجمہ: اور جب غصہ آئے تو "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" پڑھے، اس سے غصہ جاتا رہیگا۔ بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی عن سلیمان بن صرد۔

اور جو شخص تیز اور بدزبان ہو وہ استغفار کی پابندی کرے، کیونکہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں

غصہ دور کرنے کا طریقہ

کہ میں نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے اپنی تیز زبانی کی شکایت کی، تو آپؐ نے فرمایا "تم استغفار نہیں کرتے؟ میں تو ہر روز اللہ سے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نسائی، ابن ماجہ، حاکم، ابن ابی شیبہ، ابن سنی (عن حذیفہؓ)

اور جو شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اور اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب (وہاں سے) رخصت ہو تو بھی سلام کرے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرہؓ)

اور مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ (وہاں سے) اٹھنے سے پہلے کہے اے اللہ! تو پاک ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہؓ) حاکم (عن عائشہؓ) طبرانی (عن ابن عمرؓ)

ابوداؤد اور ابن حبان نے تین مرتبہ پڑھنا روایت کیا ہے۔

(یا اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے) میں نے بُرا کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ نسائی، حاکم (عن رافع بن خدیجؓ)

لوگ (جب) کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ مجلس (قیامت میں) ان کے لئے حسرت و افسوس کا باعث ہوگی، اللہ اگر چاہے انھیں عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں کثرت سے قبیح و ناشائستہ باتیں ہو رہی ہوں تو اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس سے وہ تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس مجلس میں ہوئے تھے۔

وَمَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَةٍ وَّمَحَا عَنْهُ اَلْفَ اَلْفِ سَيِّئَةٍ وَّرَفَعَ لَهٗ اَلْفَ اَلْفِ دَرَجَةٍ تِ قَ اَمْسٰى وَبَنٰى لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ تِ ىَ وَاِذَا دَخَلَهٗ اَوْ خَرَجَ اِلَيْهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِيْبَ فِيْهَا يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً مُسْ يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اِذَا رَجَعَ مِنْ سُوْقِهٖ اَنْ يَّقْرَاَ اَعْشَرَ اٰيَاتٍ فَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً ط

ترجمہ: اور جو شخص بازار جائے اور کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور وہی قابل تعریف ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آئیگی اور اسی کے ہاتھ میں ساری خوبیاں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اسکے دس لاکھ گناہ معاف کرتا ہے اور اسکے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے (ترمذی، ابن ماجہ، احمد، حاکم، ابن سنی (عن عمرؓ) اور اسکے لئے بہشت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ترمذی، ابن سنی (عن عمرؓ)

اور جب بازار میں پہنچے یا گھر سے بازار جانیکے لئے نکلے تو کہے اللہ کے نام سے (میں بازار میں داخل ہوتا ہوں یا اللہ کیلئے گھر سے نکلتا ہوں) اے اللہ! میں تجھ سے اس بازار کی اور اس بازار میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس بازار کی اور اس بازار میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ! میں اس سے جھوٹی قسم کھانے اور خرید و فروخت میں نقصان اٹھانے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ حاکم، ابن سنی (عن بریدہؓ) ——— اے تاجرو! کیا کوئی تم میں سے اس بات سے عاجز ہے کہ بازار سے لوٹتے وقت قرآن مجید کی دس آیتیں پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اسکی ہر آیت کے بدلہ میں ایک نیکی لکھدے۔ طبرانی (عن ابن عباسؓ)

بازار میں آمد و رفت کی دعائیں

وَاِذَا رَاٰی بَاکُوْرَۃَ ثَمَرٍ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْ ثَمَرِنَا وَبَارِکْ لَنَا فِیْ مَدِیْنَتِنَا وَبَارِکْ لَنَا فِیْ صَاعِنَا وَبَارِکْ لَنَا فِیْ مُدِّنَا مُتِ سَ قَ فَاِذَا اُتِیَ بِشَیْءٍ مِّنْہُ دَعَا اَصْغَرَ وَلِیْدٍ حَاضِرٍ فَیُعْطِیْہِ ذٰلِکَ مُتِ سَ قَ وَمَنْ رَّاٰی مُبْتَلًی فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاکَ بِہٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا لَمْ یُصِبْہُ ذٰلِکَ الْبَلَاءُ تِ قَ طَسْ یَقُوْلُ ذٰلِکَ فِیْ نَفْسِہٖ مَوْتٍ وَاِذَا ضَاعَ لَہٗ شَیْءٌ اَوْ اَبَقَ اَللّٰھُمَّ رَآدَّ الضَّآلَّۃِ وَھَادِیَ الضَّلَالَۃِ اَنْتَ تَھْدِیْ مِنَ الضَّلَالِ اُرْدُدْ عَلَیَّ ضَالَّتِیْ بِقُدْرَتِکَ وَسُلْطَانِکَ فَاِنَّھَا مِنْ عَطَآئِکَ وَفَضْلِکَ طٰ اَوْ یَتَوَضَّأُ وَیُصَلِّیْ رَکْعَتَیْنِ وَیَتَشَھَّدُ وَیَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰہِ یَا ھَادِیَ الضَّآلِّ وَرَآدَّ الضَّآلَّۃِ اُرْدُدْ عَلَیَّ ضَالَّتِیْ بِعِزَّتِکَ وَسُلْطَانِکَ فَاِنَّھَا مِنْ عَطَآئِکَ وَفَضْلِکَ

مُوْمُصْ

ترجمہ: اور جب نیا پھل دیکھے (تو کہے) اے اللہ! ہمارے پھل میں اور ہمارے شہر میں اور ہمارے پیمانہ صاع و مُد میں برکت عطا فرما۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرۃؓ)

اور جب اس کے پاس نیا پھل آئے تو جو چھوٹا بچہ موجود ہو اسے بُلا کر دیدے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی ہریرۃؓ)

اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھکر کہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت و تکلیف سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت و بزرگی عنایت کی

نئے پھل دیکھنے کا بیان

مصیبت زدہ کے دیکھنے کا بیان

تو جب تک زندہ رہے گا اس بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔ ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی فی الاوسط (عن ابن عمرؓ) (اور) یہ اپنے جی میں کہے۔ ترمذی، موقوفاً (عن ابی جعفر محمد بن علیؒ)

اور جب کسی کی کوئی چیز کھو جائے یا لونڈی، غلام اور جانور وغیرہ بھاگ جائے تو کہے: اے اللہ! گم شدہ چیز کے ملا دینے والے، اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے، تو ہی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے، تو اپنی قدرت وطاقت سے میری گم شدہ چیز ملا دے، کیونکہ وہ چیز تیری ہی عطا اور فضل سے ہے۔ طبرانی (عن ابن عمرؓ)

یا وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور التحیات پڑھ کر کہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ (شروع کرتا ہوں) اے گمراہ کے ہدایت دینے والے، اور اے گم شدہ چیز کے ملا دینے والے اپنی قدرت وطاقت سے میری گم شدہ چیز ملا دے، کیونکہ وہ تیری ہی بخشش وکرم سے ہے۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابن عمرؓ)

گم شدہ چیز کا بیان

شرح: صاع: ایک پیمانہ ہے جس میں اسی روپے کے سیر سے ساڑھے تین سیر کے قریب غلہ آتا ہے، اور اس روپے کا وزن گیارہ ماشے ہوتا ہے۔

مد: ایک پیمانہ ہے جس میں ایک سیر کے قریب غلہ آتا ہے۔

وَلَا يَتَطَيَّرُ فَإِنْ فَعَلَ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَقُولَ اللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ ط وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنَ الطِّيَرَةِ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَقُولُوا اللّٰهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ مُصْ دَ وَمَنْ أُصِيبَ بِعَيْنٍ رَقَى بِقَوْلِهِ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا ثُمَّ قَالَ قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ سَ قَ مُسْ ط وَإِنْ كَانَتْ دَآبَّةً نَفَثَ فِي مَنْخِرِهِ الْأَيْمَنِ أَرْبَعًا وَّ فِي الْأَيْسَرِ ثَلٰثًا وَّ قَالَ لَا بَأْسَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا يَكْشِفُ الضُّرَّ إِلَّا أَنْتَ مُوْ مُصْ

ترجمہ: اور کسی[1] چیز سے شگون بد نہ لے اور اگر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کہے۔ اے اللہ! تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، احمد، طبرانی (عن عبداللہ بن عمروؓ)

اور جب تم بدشگونی سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو کہو، اے اللہ! تو ہی نیکیاں (وجود میں) لاتا ہے اور تو ہی برائیاں دُور کرتا ہے اور طاقت وقوت تیری ہی مدد سے ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابوداؤد (عن ابن عمرؓ)

اور جس شخص[2] کو نظر لگ جائے تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے جھاڑے (یں)، اللہ کے نام سے (پڑھتا ہوں) اے اللہ! اس کی گرمی اور سردی اور اس کی تکلیف و مصیبت دُور کردے، پھر اس سے کہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہوجا۔ نسائی، ابن ماجہ، حاکم، طبرانی (عن جابر بن ربیعہؓ)

اور اگر جانور کو نظر لگ جائے تو اس کے داہنے نتھنے میں چار مرتبہ اور بائیں نتھنے میں تین

بدشگونی کا بیان

نظر لگ جانے کا بیان

مرتبہ پھونکے اور کہے کوئی ڈر نہیں اے لوگوں کے پروردگار! بیماری دُور کر دے اور شفا دیدے تو ہی شفا دینے والا ہے، اور تو ہی تکلیف دُور کر سکتا ہے۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابن مسعودؓ)

شرح: یعنی تجلائی اور بُرائی تیرے ہی قبضہ میں ہے، بدفالی کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

فالِ نیک لینا شریعت میں جائز ہے بلکہ سنت ہے، خود آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم فالِ نیک لیتے تھے۔ مثلاً کوئی شخص سامنے آیا، آپ نے اس کا نام پوچھا اگر اس نے "فلاح" "نجیح" (کامیاب) یا اسی طرح کا کوئی اچھا نام بتایا تو آپ خوش ہوتے اور فال نیک سمجھتے، لیکن فال بد لینے کو منع کیا اور فرمایا "لا طیرۃ ولا ھامۃ" یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، موثر حقیقی صرف اللہ ہی ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور دوسرا ارشاد ہے "الطیرۃ شرک" فالِ بد لینا شرک ہے، عرب جانوروں کی آواز یا اڑجانے سے فال بد لیا کرتے تھے، جیسے لوگ اس زمانہ میں گدّے کے رونے یا بلّی اور عورت کے ننگے سر آگے سے گزر جانے اور چھینک آجانے کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہ ہوگا۔

رُقیۃ منتر اور قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث نبویہ شفا کے لئے پڑھنے کو کہتے ہیں۔

رقیہ قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث نبویہ اور اللہ کے اسماء وصفات سے کرنا جائز بلکہ مسنون ہے اور نیز ان الفاظ سے بھی جن کے معنی معلوم ہوں اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں جھاڑ پھونک کرنا جائز اور درست ہے ورنہ جائز نہیں۔

وَاِنْ اُصِیْبَ اَحَدٌ بِلَمَمٍ مِّنْ جِنٍّ وَّضَعَهٗ بَیْنَ یَدَیْهِ وَعَوَّذَهٗ بِالْفَاتِحَةِ وَالَمْ اِلَی الْمُفْلِحُوْنَ وَاِلٰهُکُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ اٰلَایَةَ وَاٰیَةَ الْکُرْسِیِّ وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اِلٰی اٰخِرِ الْبَقَرَةِ وَشَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اٰلَایَةَ وَاِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ فِی الْاَعْرَافِ اٰلَایَةَ وَفَتَعَالَی اللّٰهُ اِلٰی اٰخِرِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَعَشْرٍ مِّنْ اَوَّلِ الصَّآفَّاتِ اِلٰی لَازِبٍ وَّثَلٰثِ اٰیَاتٍ مِّنْ اٰخِرِ الْحَشْرِ وَاِنَّهٗ تَعَالٰی اٰلَایَةَ مِنَ الْجِنِّ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّالْمُعَوِّذَتَیْنِ مُسْ قَ اَ

ترجمہ: اور اگر کسی پر جن (وغیرہ) کا اثر ہو جائے تو اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس پر یہ پڑھ کر دم کر دے، سورۂ فاتحہ اور الٓمٓ المفلحون تک، اور واٰلھکم الٰہ واحد آخر آیت تک، اور آیۃ الکرسی، اور للہ ما فی السمٰوٰت وما فی الارض ختم سورۃ بھتر تک اور شھد اللہ انہ لا الٰہ الا ھو آخر تک اور سورہ اعراف میں سے وان ربکم اللہ الذی آخر آیت تک، فتعالی اللہ آخر سورۃ مومنون تک، اور سورۂ صافات کی پہلی دس آیتیں لازب تک، اور سورۂ حشر کی آخری تین آیتیں، اور سورۂ جن کی آیت انہٗ تعالیٰ آخر تک اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حاکم، ابن ماجہ، احمد (عن ابی بن کعبؓ)

جن کا آسیب وغیرہ کا اثر ہونے کی صورت میں علاج کا بیان

شرح: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا "یا رسول اللہ! میرا بیٹا بیمار ہے" آپ نے فرمایا "کیا شکایت ہے؟" اس نے عرض کیا "جن آسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے"۔ آپؐ نے اسے بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر یہ آیتیں پڑھ کر دم کر دیں وہ اس طرح کھڑا ہو گیا گویا کبھی بیمار ہی نہ تھا۔

وہ پوری آیتیں یہ ہیں:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۔ (شروع) اللہ کے نام سے (جو) نہایت رحم والا مہربان (ہے)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ (فاتحہ)

ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے (جو) تمام جہان کا پروردگار (ہے) نہایت رحم والا مہربان، روز جزا کا مالک (اے اللہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو (دین کا) سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے (اپنا) فضل کیا نہ کہ ان کا جن پر (تیرا) غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کا۔

الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(بقرہ)

الٓمّٓ یہ وہ کتاب ہے جس (کے کلام الٰہی ہونے) میں کچھ بھی شک نہیں پرہیزگاروں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے (راہ خدا میں بھی) خرچ کرتے ہیں، اور (اے پیغمبر) جو (کتاب) تم پر اتری اور جو (کتابیں) تم سے پہلے اتریں ان (سب) پر ایمان لاتے اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی (آخرت میں) مراد پائیں گے۔

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ بقرہ

اور (لوگو!) تمہارا معبود (تو وہی) ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

(بقرہ)

اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں (زندہ (کارخانہ عالم کا) سنبھالنے والا نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں کسی کی سفارش کرے جو کچھ لوگوں کو پیش آرہا ہے (وہ) اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے (وہ) اس کو (سب) معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی وہ چاہے، اس کی کرسی (سلطنت) آسمان و زمین (سب) پر پھیلی ہوئی ہے اور آسمان و زمین کی حفاظت اس پر موقوف نہیں اور وہ بڑا (عالیشان اور) عظمت والا ہے

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور (لوگو!) جو تمہارے دل میں ہے اگر اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر (دل کے کھوٹ پر)

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۡ وَاغْفِرْ لَنَا ۡ وَارْحَمْنَا ۡ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (ہمارا یہ) پیغمبر (محمدؐ) اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ سب کے) سب اللہ اور اسکے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اسکے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور کہتے ہیں کہ) ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو (بھی) جدا نہیں سمجھتے (یعنی سب کو مانتے ہیں) اور بول اٹھے کہ (ہمارے پروردگار) ہم نے تیرا ارشاد سنا اور تسلیم کیا (اے ہمارے پروردگار (ہم تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جس (کے اٹھانے) کی اس کو طاقت ہو جس نے اچھے کام کئے (ان کا) نفع (بھی) اسی کے لئے ہے اور جس نے برے کام کئے ان کا وبال (بھی) اسی پر ہے (اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم کو (اس کے وبال میں) نہ پکڑ اور اے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں جس طرح ان پر تو نے (ان کے گناہوں کی پاداش میں سخت احکام کا) بار ڈالا تھا ویسا بار ہم پر نہ ڈال اور اے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ (بھی) (کے اٹھانے) کی ہم کو طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھوا اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا (حامی) مددگار ہے تو ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں ہماری مدد فرما۔

(بقرہ)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَاۗىِٕمًۢا بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(خود) اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی (گواہی دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و) انصاف کے ساتھ (کارخانۂ عالم کو سنبھالے ہوئے (رہے) اس کے سوا کوئی معبود نہیں زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

(آل عمران)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَي الْعَرْشِ ۣ

(لوگو!) بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ۭ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۭ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(اعراف)

وہی رات کو دن کا پردہ پوش بناتا ہے (گویا) رات (ہے کہ) دن کے پیچھے لپکی جارہی ہے اور اُسی نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا کہ یہ سب زیر فرمانِ الٰہی ہیں (لوگو) سُن رکھو کہ اللہ ہی کی خلق ہے اور (اللہ ہی کا) حکم، اللہ جو دنیا جہان کا پالنے والا ہے اُس کی ذات بڑی) بابرکت ہے۔

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○

(مؤمنون)

تو اللہ (جو) بادشاہ برحق (ہے بے فائدہ کام کرنے سے) بڑی اور بالاتر ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) عرش بزرگ کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور معبود کو (اپنی حاجت روائی کے لئے) بُلاتا ہے (اور) اُسکے پاس اس (شرک کرنے) کی کوئی دلیل (تو) نہیں تو بس اُسکے پروردگار ہی کے ہاں اس کا حساب ہوگا (مگر معلوم ہے کہ) کافروں کو تو (کسی طرح) فلاح ہوتی نہیں اور (اے پیغمبر) تم دعا کرو کہ اے میرے پروردگار (میرے قصور) معاف کر اور (میرے حال پر) رحم فرما اور تو (سب) رحم کرنے والوں سے بہتر (رحم کرنے والا) ہے۔

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۙ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۭ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨ الْكَوَاكِبِ ۙ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۭ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ○ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

(صافات)

(فرشتوں کے اُن) لشکروں کی تم جو (دشمنوں سے لڑنے کے لئے) صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر (اپنے گھوڑوں کو زور سے) ڈانٹنے (اور دشمنوں پر حملہ کرتے) ہیں، پھر (لڑائی سے فارغ ہوکر) ذکر الٰہی یعنی قرآن کی تلاوت) کرتے ہیں، (غرض ہم کو ان چیزوں کی قسم ہے کہ) بلاشبہ تم سب کا معبود ایک (اللہ) ہے، آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں آسمان وزمین میں ہیں سب کا پروردگار (اور نیز ان مقامات کا پروردگار جہاں جہاں سے سورج مختلف وقتوں میں طلوع کرتا) ہے، ہم ہی نے (نزدیک) آسمان کو (یعنی) زینت یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے محفوظ کر رکھا ہے کہ وہ اوپر کے لوگوں (یعنی فرشتوں کی باتوں) کی طرف کان بھی لگانے نہیں پاتے اور کھدیڑنے کے لئے ہر طرف سے (ان پر شہاب) پھینکے جاتے ہیں، اور یہ ان کے لئے لازمی عذاب ہے (غرض شیاطین فرشتوں کی باتیں سُننے نہیں پاتے، مگر ہاں شاذونادر) کوئی (کسی بات کو) جھپاکے سے اُچک لے جاتا ہے

تو شہاب کا رکھا ہوا انگارا اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو (اے پیغمبر ان (منکرین قیامت) سے پوچھو کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا (مذکورۂ بالا چیزوں کا) جن کو ہم نے بنایا ہے ان بنی آدم کو تو ہم نے (اسی معمولی) ایس وارمٹی سے پیدا کیا ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○ (حشر)

وہ اللہ (ایسا پاک ذات) ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جاننے والا وہی بڑا مہربان (اور) رحم والا ہے، وہ اللہ (ایسا پاک ذات) ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں (تمام جہان کا) بادشاہ ہے پاک ذات ہے (تمام) عیبوں سے بری ہے، امن دینے والا ہے نگہبان ہے، زبردست ہے بڑا دبدبہ والا ہے، بڑی عظمت رکھتا ہے یہ لوگ جیسے جیسے شرک کرتے ہیں اللہ (کی ذات) اس سے پاک ہے، وہی اللہ (ہر چیز کا) خالق (ہر چیز کا) موجد ہے (مخلوقات کی طرح طرح کی) صورتیں بنانے والا ہے (اس کی اچھی اچھی صفتیں ہیں اور اسی سبب سے) اُسکے اچھے ہی اچھے نام ہیں، جو (مخلوقات) آسمانوں میں اور زمین میں ہے (سب ہی تو) اُس کی تسبیح (وتقدیس) کرتے ہیں اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ وَّاَنَّهٗ كَانَ یَقُوْلُ سَفِیْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ (جن)

اور ہمارے پروردگار کی بڑی اونچی شان ہے، اُس نے نہ تو کسی کو اپنی جورو بنایا اور نہ کسی کو بیٹا بیٹی، اور ہم میں (کچھ) احمق (ایسے بھی ہو گزرے ہیں (جو) اللہ کی نسبت بڑھ بڑھ کر باتیں بنایا کرتے ہیں۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ یَلِدْ ۙ وَلَمْ یُوْلَدْ ۙ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○ (اخلاص)

(اے پیغمبر) یہ لوگ جو تم سے اللہ کا حال پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اسکے برابر کا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○ (فلق)

(اے پیغمبر اپنی حفاظت کے لئے یوں) دعا مانگا کرو کہ میں تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے مالک (یعنی اللہ) کی پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا تمام چیزوں پر چھا جائے اور گنڈوں پر زور سے پڑھ کر پھونکنے والیوں (یعنی جادوگرنیوں) کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ
اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ
الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

(ناس)

(اے پیغمبر اپنی حفاظت کے لئے یوں) دعا مانگا کرو کہ (شیطان) جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا (اور خود) نظر نہیں آتا (اور) جنات اور آدمی (دونوں ہی اس قسم کے) وسوسہ انداز رہتے ہیں اُن کے شر سے میں لوگوں کے پروردگار لوگوں کے (حقیقی) بادشاہ لوگوں کے معبود (برحق یعنی اللہ) کی پناہ مانگتا ہوں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَيُرْقِي الْمَعْتُوهَ بِالْفَاتِحَةِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهٗ ثُمَّ تَفَلَهٗ دَسَ وَيُرْقِي اللَّدِيْغَ بِالْفَاتِحَةِ ع سَبْعَ مَرَّاتٍ تِ وَلَدَغَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْعَقْرَبَ لَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَّلَا غَيْرَهٗ ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ وَّمِلْحٍ فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ صَطْ عَرَضْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْيَةً مِّنَ الْحُمَةِ فَاَذِنَ لَنَا فِيْهَا وَقَالَ اِنَّمَا هِيَ مِنْ مَّوَاثِيْقِ الْجِنِّ بِسْمِ اللّٰهِ شَجَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مِلْحَةٌ بَحْرٍ قَفْطَاطَسْ

ترجمہ: اور دیوانہ کو تین دن تک صبح وشام سورۂ فاتحہ سے جھاڑے اور جب اس کو ختم کرے تو اپنا تھوک اکٹھا کر کے اس دیوانہ پر ڈال دے۔ ابوداؤد، نسائی۔ (عن علاقہ بن صحار)

اور بچھو وغیرہ کے کاٹے کو سورۂ فاتحہ پڑھ کر جھاڑے۔ صحاح ستہ (عن ابی سعید)

سات مرتبہ (پڑھ کر جھاڑے) ترمذی (عن ابی سعید)

(ایک مرتبہ) نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نمازی کو پھر آپ نے نمک اور پانی منگوایا آپ اس کو ڈنک کی جگہ پر ملتے جاتے تھے اور قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھتے جاتے تھے۔ طبرانی فی الصغیر (عن علیؓ)

(حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں) ہم نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھو وغیرہ کے زہر کا ایک ایسا منتر پیش کیا جس کے معنی معلوم نہ تھے، تو آپ نے ہمیں اس کے کرنے کی اجازت دیدی، اور فرمایا یہ جنات کے عہد و پیمان میں سے ہے، اور وہ یہ ہے: بسم اللہ شجۃ قرنیۃ ملحۃ بحر

دیوانگی کا منتر

بچھو کے کاٹے کا عمل

مؤطا موقوفاً، طبرانی فی الاوسط (عن عبداللہ بن زیدؓ)

شرح: حضرت علاقہ بن صحار صحابی کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوکر اپنے وطن واپس جارہے تھے کہ راستہ میں ایک محلہ میں آئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا تم آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے بڑی خیر وبرکت لے کر آرہے ہو۔ ہم میں ایک شخص دیوانہ ہوگیا ہے۔ تم اس کا دوا، یا دعا سے علاج کردو۔ میں نے تین دن تک صبح وشام یہی عمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے وہ اچھا ہوگیا، ان لوگوں نے اس کے صلہ میں مجھے کچھ خیرات دی۔ میں نے اس کا حکم رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا جھوٹے عمل پر جو شخص لیتا ہے بُرا کرتا ہے تو کچھ فکر نہ کر۔

حضرت عبداللہ بن زید نے یہ منتر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کو اجازت لینے کے لئے سنایا، آپ نے اس کی اجازت دیدی اور مزید یہ فرمایا کہ یہ منتر جنات کے عہد وپیمان میں سے ہے یعنی جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عہد وپیمان کرلیا تھا کہ اسکے پڑھنے والے کو ضرر نہ پہنچائیں گے۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس منتر کے علاوہ کسی منتر کو بھی خواہ وہ کسی زبان کا ہو جس کے معنی معلوم نہ ہوں پڑھنا صحیح اور درست نہیں ہے۔

علامہ قہستانی بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ اس منتر کے ساتھ "سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ" بھی ملالیا کرے کیونکہ طوفانِ نوح کے وقت سانپ اور بچھو وغیرہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں کشتی میں سوار کرلیں ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو آپ کا نام لے گا اور "سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ" پڑھے گا ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔

وَيُرْقِي الْمَحْرُوقَ بِقَوْلِهِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ سَ أَوْ إِذَا رَأَى الْحَرِيقَ فَلْيُطْفِئْهُ بِالتَّكْبِيرِ صِ ی مُجَرَّبٌ وَيُرْقِي مَنِ احْتُبِسَ بَوْلُهُ أَوْ أَصَابَتْهُ حَصَاةٌ بِقَوْلِهِ رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ سَ دَمْسَ

ترجمہ: اور جلے ہوئے کو آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے جھاڑے، اے انسانوں کے پالنے والے تکلیف دُور فرما، اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ نسائی، احمد، (عن محمد ابن حاطبؓ)

اور جب آگ لگتی دیکھے تو اس کو "اللہ اکبر" کہہ کر بجھائے۔ ابو یعلی (عن ابی ہریرہؓ) ابن سنی (عن ابن عمرؓ)

مصنف کہتے ہیں یہ عمل مجرب ہے۔

جس شخص کا پیشاب بند ہو جائے یا پتھری پڑ جائے تو اس کو آپ کا یہ ارشاد پڑھ کر جھاڑ دے "ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے (اے اللہ) تیرا نام پاک ہے (اور) آسمان و زمین میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، جس طرح آسمان میں تیری رحمت ہے اسی طرح زمین پر اپنی رحمت فرما، اور ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر دے، تو پاک لوگوں کا رب ہے، پس تو اپنے خزانۂ شفا اور خزانۂ رحمت سے اس درد پر ایسی شفا اور رحمت نازل فرما جس سے یہ اچھا ہو جائے۔ نسائی، ابوداؤد، حاکم (عن ابی الدرداء)

جلے ہوئے کی دعا

آگ بجھانے کی دعا

پیشاب بند ہونے کی دعا

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَيُدَاوِيْ مَنْ بِهٖ قُرْحَةٌ اَوْ جُرْحٌ بِاَنْ يَّضَعَ اِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ بِالْاَرْضِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا قَائِلًا بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا اَوْ لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا مُ وَاِذَا خَدِرَتْ رِجْلُهٗ فَلْيَذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْهِ مُوْسٰى وَمَنِ اشْتَكٰى اَلَمًا اَوْ شَيْئًا فِيْ جَسَدِهٖ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ يَاْلَمُ وَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَّلْيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ مُ عَهٗ اَوْ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ سَبْعًا طَا مُصْ اَوْ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَرِّ مَا اَجِدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَضَعُ يَدَهٗ تَحْتَ اَلَمِهٖ اَطْ اَوْ بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْ وَّجَعِ هٰذَا اِوْتْرًا ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهٗ ثُمَّ يُعِيْدُهَا تٍ اَوْ يَقْرَأُ عَلٰى نَفْسِهٖ بِالْمُعَوِّذَاتِ

وَيَنْفُثُ خَ مُ دَ سَ قَ

ترجمہ: اور جس شخص کے پھوڑا یا زخم ہو تو اس کا علاج اس طرح کرے کہ اپنی کلہ کی انگلی زمین پر رکھ کر یہ کہتا ہوا اٹھائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی سے جو ہم ہی میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی ہے ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا بیمار اچھا ہو یا شفایاب کیا جائے مسلم (عن عائشہؓ)

اور جب پاؤں سن ہو جائے تو اپنے محبوب ترین انسان کو یاد کرے۔ ابن سنی موقوفاً (عن ابن عباسؓ)

اور جس شخص کو زخم یا بدن میں کسی اور بات کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ کہے اور سات مرتبہ یہ پڑھے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت سے پناہ لیتا ہوں، اس

پھوڑے اور زخم کی دعا

toobaa-elibrary.blogspot.com

تکلیف کی بُرائی سے جو مجھے ہو رہی ہے، اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ مسلم، سنن اربعہ (عن عثمان ابن ابی العاصیؓ)

یا (یہ) سات بار (پڑھے) میں اس تکلیف کی بُرائی سے جو مجھے ہو رہی ہے، اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں۔ موطا، ابن ابی شیبہ (عن عثمان ابن ابی العاصیؓ)

یا تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر اس طرح سات بار کہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر چیز پر غالب اور قادر ہے اس چیز کی بُرائی سے جو میں پاتا ہوں۔ احمد، طبرانی (عن کعب بن مالکؓ)

یا (اس طرح کہے) اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں، اس تکلیف کی بُرائی سے جو میں اس درد سے پا رہا ہوں، اور طاق (یعنی تین یا پانچ یا سات) بار پڑھے، پھر اپنا ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ ہاتھ رکھ کر یہی دعا پڑھے۔ ترمذی (عن انسؓ)

یا خود اپنے اوپر "قل اعوذ برب الفلق" اور "قل اعوذ برب الناس" پڑھ کر دم کرے بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

شرح: علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگشت شہادت پر لعاب دہن لگا کر زمین پر رکھتے تاکہ کچھ خاک لگ جائے پھر اُٹھا کر زخم پر پھیرتے اور یہ کلمات پڑھتے جاتے۔

حضرت عثمان ابن ابی العاصؓ کہتے ہیں میں نے حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی آپ نے مجھے یہ عمل ارشاد فرمایا میں نے اس کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی۔

یعنی دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیرے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم بیماری میں یہی سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے، تو میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ کے دست مبارک پر دم کر کے آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی، اور جب آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ یہی پڑھ کر دم کرتے۔ مشکوٰۃ

وَمَنْ اَصَابَهٗ رَمَدٌ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِیْ بِبَصَرِیْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ
مِنِّیْ وَاَرِنِیْ فِی الْعَدُوِّ ثَأْرِیْ وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ ظَلَمَنِیْ مُسْ
وَمَنْ حَصَلَتْ لَهٗ حُمَّةٌ یَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الْکَبِیْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
الْعَظِیْمِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ مُسْ
مُصْ وَاِنْ اَصَابَهٗ ضُرٌّ وَسَئِمَ الْحَیٰوةَ فَلَا یَتَمَنَّ الْمَوْتَ
فَاِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْیَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْیِنِیْ مَا کَانَتِ
الْحَیٰوةُ خَیْرًا لِّیْ وَتَوَفَّنِیْ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیْرًا لِّیْ خَ
مُدَیْ وَاِذَا عَادَ مَرِیْضًا قَالَ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ خَ سَ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا
وَرِیْقَةُ بَعْضِنَا یُشْفٰی سَقِیْمُنَا خَ مُدَ سَ قَ بِاِذْنِ
رَبِّنَا خَ بِاِذْنِ اللّٰهِ خَ وَیَمْسَحُ بِیَدِهِ الْیُمْنٰی وَیَقُوْلُ
اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهٖ وَاَنْتَ الشَّافِیْ
لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآؤُكَ شِفَآءً لَّا یُغَادِرُ سُقْمًا خَ مُ سَ
بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِیْكَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ یُّؤْذِیْكَ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ
نَفْسٍ اَوْ عَیْنِ حَاسِدٍ اَللّٰهُ یَشْفِیْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِیْكَ
مُ تِ سَ قَ

ترجمہ: اور جس شخص کو آشوب چشم کی شکایت ہو تو کہے اے اللہ مجھے میری بینائی سے فائدہ

دے اور اس کو میرا وارث بنا، اور دشمن میں میرا بدلہ دکھا، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر میری مدد فرما۔ حاکم، ابن سنی (عن انسؓ)

اور جس کو بخار آئے تو کہے اللہ بزرگ (و برتر) کے نام سے ہم اللہ تعالیٰ کی ہر جوش مارنے والی آگ کے شر اور آگ کی گرمی کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ)

اور اگر کوئی تکلیف پہنچے اور زندگی سے عاجز ہو تو موت نہ مانگے اور اگر (مصائب سے دوچار ہو کر) ضرور ہی (موت مانگے) تو اس طرح کہے اے اللہ جب تک میرے لئے جینا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لئے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دیدے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابن سنی (عن انسؓ)

اور جب کسی مریض کی عیادت کرے تو کہے، کچھ حرج نہیں یہ (بیماری گناہوں سے) پاک کر دینے والی ہے، اگر اللہ نے چاہا، کوئی ڈر نہیں انشاء اللہ یہ (بیماری گناہوں سے) پاک کرنے والی ہے۔ بخاری، نسائی (عن ابن عباسؓ)

اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی سے اور ہم میں سے کسی کے تھوک سے ہمارے بیمار کو شفا دی جائے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

ہمارے رب کے حکم سے۔ بخاری (عن عائشہؓ)

اللہ کے حکم سے بخاری (عن عائشہؓ)

اپنا سیدھا ہاتھ پھیر کر کہے اے اللہ تکلیف دور فرما، اے لوگوں کے پالنے والے، اس کو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی شکایت باقی نہ رکھے۔ بخاری، مسلم، نسائی (عن عائشہؓ)

اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے ایذا دے اور ہر آدمی کے شر سے یا حاسد کی نظر سے، اللہ تجھے شفا دے، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر دم کرتا ہوں۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

بخار کی دعا، تکلیف سے تنگ آکر موت مانگنے کا طریقہ

علاج کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ فِيْكَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ سَ مُصْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مُسْ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ يَّشْفِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا وَّيَمْشِيْ لَكَ اِلٰى جَنَازَةٍ دَحِبْ مُسْ اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ مُسْ حِبْ اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ اَعْفِهِ سَ يَا فُلَانُ شَفَاكَ اللّٰهُ سُقْمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِيْ دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ اِلٰى مُدَّةِ اَجَلِكَ مُسْ

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں تیرے لئے منتر کرتا ہوں، اللہ تعالےٰ تجھے تیری ہر بیماری سے شفادے، اور گنڈوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں (یعنی جادوگرنیوں) کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نسائی، ابن ابی شیبہ (عن عائشہؓ)

تین مرتبہ کہے۔ حاکم (عن عائشہؓ)

اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر ہر بیماری سے منتر کرتا ہوں، اللہ تعالےٰ تجھے ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے شفادے۔ احمد (عن عائشہؓ)

اے اللہ! اپنے بندہ کو شفادے کہ تیرے دشمن سے جہاد کرے اور تیری رضا کے واسطے جنازہ کی طرف چلے۔ ابوداؤد، ابن حبان، حاکم (عن عبداللہ بن عمروؓ)

اے اللہ! اس کو شفادے، اور اسے تندرست فرما۔ حاکم، ترمذی، ابن حبان (عن علیؓ)

اے اللہ! اس کو صحت دے اور تندرست فرما۔ نسائی (عن علیؓ)

اے فلاں (اس جگہ بیمار کا نام لے) اللہ تیری بیماری دُور کرے (یعنی تجھکو شفادے) اور تیرے گناہ معاف کرے، اور تیری موت کے آنے تک تیرے دین اور تیرے جسم کو سلامت رکھے۔ حاکم، (عن سلمانؓ)

وَمَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهٗ فَقَالَ عِنْدَهٗ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ دَتْ سَ حِبْ مُسْ مُصْ وَجَآءَ رَجُلٌ اِلٰى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا شَاكٍ فَقَالَ اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّبْرَاَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْ يَا حَلِيْمُ يَا كَرِيْمُ اشْفِ فُلَانًا فَاِنَّهٗ يَبْرَاُ مُوْمُصْ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِقَوْلِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً فَمَاتَ فِيْ مَرَضِهٖ ذٰلِكَ اُعْطِيَ اَجْرَ شَهِيْدٍ وَاِنْ بَرَاَ بَرَاَ وَقَدْ غُفِرَ لَهٗ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهٖ مُسْ وَمَنْ قَالَ فِيْ مَرَضِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ تٍ سَ قَ حِبْ مُسْ

ترجمہ: اور جو کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت نہ آئی ہو (یعنی اس پر آثار موت ظاہر نہ ہوئے ہوں) تو اس کے پاس سات بار یہ کہے، میں اللہ تعالیٰ سے جو عرش عظیم کا مالک ہے، (یہ) سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دیدے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے تندرست فرمادے گا۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ)

ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ آپؓ نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اچھا ہو جائے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں!

تو فرمایا کہو اے بُردبار! اے کرم کرنے والے! فلاں شخص کو شفا دے تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ ابن السنی موقوفاً (عن علیؓ)

اور جو مسلمان (اپنی بیماری میں) "لا الٰہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک (ذات) ہے میں نے (بڑا) ظلم کیا، چالیس مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے اور اسی بیماری میں مر جائے تو اُسے شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر اچھا ہو گیا تو اس حالت میں اچھا ہو گا کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ حاکم (عن سعد بن ابی وقاصؓ)

اور جس شخص نے اپنی بیماری میں (یہ) کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ (اپنی ذات وصفات میں) یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی سلطنت ہے، اور ہر خوبی اسی کے لئے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر طاقت و قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے، پھر مر گیا تو اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (عن ابی سعید و ابی ہریرہؓ)

بیماری میں پڑھی جانے والی دعائیں

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَآءِ
وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ مُرْعَةٌ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا
أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ مُ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ
نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهٖ
صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كَانَ لَهٗ أَجْرُ شَهِيْدٍ عَهُ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ
شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ خ فَإِذَا
حَضَرَهُ الْمَوْتُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مُسْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى خ مُتِّ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ خ سَ قَ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ
عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ
جَلَّ إِنَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِيْ
وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهٗ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ أَوْ مَنْ حَضَرَ عِنْدَهٗ
فَلْيُلَقِّنْهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُ مَرْعَةٌ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهٖ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ دَمُسْ

ترجمہ: جو شخص سچائی اور صدق دلی کے ساتھ شہادت طلب کرے گا، تو اس کو شہادت (کا مرتبہ) دیا جائیگا اگرچہ بظاہر وہ اپنے بستر پر مرا ہو مسلم سنن اربعہ (عن انس رض)

جو شخص صدق دل سے شہادت طلب کریگا اس کو شہادت (کا مرتبہ) نصیب ہوگا، اگرچہ بظاہر وہ شہید نہ ہو۔ مسلم (عن انس رض)

فضیلت طلب کرنے والے کا بیان

جس شخص نے اللہ کے راستہ میں اونٹنی کے دوبار دوہنے کے برابر (یعنی جتنی دیر اونٹنی کے دو بار دوہنے میں لگتی ہے اتنی دیر) قتال کیا۔ اس کے لئے جنت واجب ہوگئی، اور جس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ سے (اس کے راستہ میں) اپنے مارے جانے کی خواہش کی، پھر مرگیا یا قتل ہوگیا، تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ سنن اربعہ (عن معاذ بن جبلؓ)

الٰہی مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما، اور اپنے پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے۔ بخاری (عن عمرؓ)

جب کسی کے مرنے کا وقت قریب ہو تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ حاکم (عن ابی قتادہؓ)

اور وہ (مرنے والا) کہے، اے اللہ مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے رفیق اعلیٰ (یعنی انبیاء علیہم السلام کی جماعت) کے ساتھ ملا دے۔ بخاری، مسلم، ترمذی (عن عائشہؓ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بیشک موت کی (بڑی ہی) سختیاں ہیں۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، (عن عائشہؓ)

خداوندا! سکرات موت کے وقت میری مدد فرما۔ ترمذی (عن عائشہؓ)

اللہ عزوجل فرماتا ہے، میرا مومن بندہ میرے نزدیک نیکی کے ہر مرتبہ پر قائم ہے، کیونکہ وہ میری اس وقت تعریف کرتا ہے جبکہ میں اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکال رہا ہوتا ہوں۔ احمد (عن ابی ہریرہؓ)

اور جو شخص مرنے والے کے پاس ہو وہ اسے کلمہ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کی تلقین کرے۔ مسلم، سنن اربعہ (عن ابی سعیدؓ)

(اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت) جس شخص کی سب سے آخری بات "لا الٰہ الا اللہ" ہوگی وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ ابوداؤد، حاکم (عن معاذ بن جبلؓ)

جان کنی کے وقت کی دعا

مرنے والے کی تلقین

شرح حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضور صلے اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کا بھی آخری کلام یہی تھا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضورؐ نزع کے وقت بار بار پانی چہرۂ انور پر ملتے تھے اور یہ کلمات فرماتے جاتے تھے "لا الٰہ الا اللہ ان للموت سکرات" اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً موت کی بہت سختیاں ہیں۔

یعنی مومن بندہ ہر نیکی کا مستحق اس لئے ہے کہ جان کنی جیسے نازک وقت میں بھی میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور میری یاد سے غافل نہیں ہوتا۔

تلقین کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص مرنے والے کے پاس ہو وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ وہ بھی سنکر پڑھنے لگے اور مریض سے کلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہے، کیونکہ یہ انتہائی نازک وقت ہوتا ہے، کہیں اس کے پڑھنے سے انکار کر بیٹھے۔

إِذَا غَمَّضْتَهُ دَعَا لِنَفْسِهِ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا
يَقُولُ فَيَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ
وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ مُدَّ سَ قَ وَلْيَقُلْ أَهْلُهُ
اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً مُ عَهْ
وَلْيُقْرَأْ عَلَيْهِ سُورَةُ يٰسٓ سَ دَ قَ حِبْ مُسْ وَيَقُولُ
صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّٰهُمَّ أْجُرْنِي
فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا مُ وَإِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ
قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ
فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا
قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ ابْنُوا
لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ تِ حِبْ ی

ترجمہ: اور جب کوئی میت کی آنکھیں بند کرے تو اپنے واسطے خاتمہ بخیر ہونے کی دعا کرے، کیونکہ اس وقت میت کی آنکھیں بند کرنے والے کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو چاہیے کہ یہ دعا کرے، اے اللہ فلاں شخص (اس جگہ میت کا نام لے) کو بخش دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند کر اور اسکے پس ماندگان میں اس کا نائب (کارساز ہوجا) اور ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اے سارے جہانوں کے پروردگار اس کی قبر کشادہ کردے، اور اسے (اپنے نور سے) منور فرما۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ام سلمہؓ)

میت کے پس ماندگان کا بیان

اور میت کا سرہانے والا کہے، اے اللہ! میری اور اس کی مغفرت فرما، اور مجھے اس کا اچھا بدلہ دے مسلم، سنن اربعہ (عن ام سلمہؓ)

اور اس پر سورۂ یٰسین پڑھے۔ نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (عن معقل بن یسارؓ)

اور صاحب مصیبت (یعنی میت کے گھر والے) کہیں، ہم تو اللہ ہی کے ہیں (ہم کو جس حال میں پہلے رکھے) اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ! میری مصیبت میں مجھے اجر دے۔ اور اس کے بدلہ مجھے بہتری عطا فرما۔ مسلم (عن ام سلمہؓ)

اور جب کسی مسلمان کا بچہ مرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کرلی۔ وہ عرض کرتے ہیں ہاں! اے پروردگار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندہ نے کیا کہا۔ وہ جواب دیتے ہیں، اس نے تیرا شکر ادا کیا اور "انا للہ وانا الیہ راجعون" پڑھا۔ فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھول توڑ لیا، وہ عرض کرتے ہیں، ہاں! اے پروردگار۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کے لئے جنت میں ایک مکان بناؤ، اور اس کا نام "بیت الحمد" رکھو۔ ترمذی، ابن حبان، ابن سنی (عن ابی موسیٰ اشعریؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَاِذَا عَزّٰی اَحَدًا یُسَلِّمُ وَ یَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰہِ مَا اَخَذَ وَلِلّٰہِ مَا
اَعْطٰی وَکُلٌّ عِنْدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی فَلْتَصْبِرْ وَلْتَسْتَحْسِبْ
خ مُدس ق وَکَتَبَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِلٰی مُعَاذٍ
یُعَزِّیْہِ فِیْ ابْنٍ لَہٗ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ
اللّٰہِ اِلٰی مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَیْکَ فَاِنِّیْ اَحْمَدُ اِلَیْکَ اللّٰہَ
الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰہُ لَکَ الْاَجْرَ وَاَلْھَمَکَ
الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِیَّاکَ الشُّکْرَ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَ
اَھْلِیْنَا وَاَوْلَادَنَا مِنْ مَّوَاھِبِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ الْھَنِیْئَۃِ وَعَوَارِیْہِ
الْمُسْتَوْدَعَۃِ یُمَتِّعُ بِھَا اِلٰی اَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ وَّیَقْبِضُھَا لِوَقْتٍ
مَّعْلُوْمٍ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْنَا الشُّکْرَ اِذَآ اَعْطٰی وَالصَّبْرَ اِذَا
ابْتَلٰی فَکَانَ ابْنُکَ مِنْ مَّوَاھِبِ اللّٰہِ الْھَنِیْئَۃِ وَعَوَارِیْہِ
الْمُسْتَوْدَعَۃِ مَتَّعَکَ بِہٖ فِیْ غِبْطَۃٍ وَّسُرُوْرٍ وَّقَبَضَہٗ مِنْکَ
بِاَجْرٍ کَبِیْرٍ اِنَّ الصَّلٰوۃَ وَالرَّحْمَۃَ وَالْھُدٰی اِنِ احْتَسَبْتَ
فَاصْبِرْ وَلَا یُحْبِطُ جَزَعُکَ اَجْرَکَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ
لَا یَرُدُّ شَیْئًا وَّلَا یَدْفَعُ حُزْنًا وَّمَا ھُوَ نَازِلٌ فَکَاَنْ قَدْ
وَالسَّلَامُ مُسْ مَرْ

ترجمہ: اور جب کسی کی تعزیت کرے تو سلام کرکے کہے یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے لے لیا، اور

اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے دیا ہے، اور اس کے یہاں ہر چیز ایک وقت مقررہ تک ہے، پس تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ بخاری۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن اسامہ بن زیدؓ)

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ان کے لڑکے کی تعزیت کے بارے میں لکھا "بسم اللہ الرحمن الرحیم" محمد رسول اللہ کی جانب سے معاذ بن جبل کی طرف، تم خوش رہو، میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد (حمد و ثنا کے بعد) اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں اور تمہیں (اپنے) شکر کی توفیق نصیب فرمائے، اس لئے کہ ہماری جانیں اور ہمارا مال، اور ہماری بیویاں اور ہماری اولاد، اللہ عزوجل کی مبارک اور عمدہ بخششیں اور عاریتاً رکھی ہوئی چیزیں ہیں، جن سے ایک خاص مدت تک فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور وہ ایک مقررہ وقت پر انہیں اٹھا لیتا ہے، پھر جب وہ عطا کرے تو ہم پر اس کا شکر فرض ہے اور جب آزمائش کرے تو صبر فرض ہے۔

تمہارا لڑکا اللہ کی عمدہ بخشش اور اُس کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے (دنیا کے لئے) قابل رشک اور (تمہارے لئے) قابل مسرت بنا کر تمہیں اس سے بہرہ ور کیا (جب اس نے چاہا) تمہارے پاس سے بڑے اجر و ثواب اور رحمت و ہدایت کے بدلہ اسے اٹھا لیا، اگر تم ثواب چاہتے ہو تو صبر کرو، کہیں تمہاری بے صبری، پریشانی تمہارا ثواب نہ کھو دے پھر پشیمان ہو، اور سمجھ لو! کہ بے صبری سے نہ تو کوئی چیز لوٹ کر آتی ہے، اور نہ غم دور ہوتا ہے۔ اور جو کچھ پیش آئے (اسے یہ سمجھو کہ یہ) تقدیر الٰہی ٹل ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ والسلام، حاکم، ابن مردویہ (عن معاذ بن جبلؓ)

شرح: حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ نے آپؐ کی خدمت میں عرض کرایا کہ میرا بیٹا نزاع کی حالت میں ہے آپ تشریف لائیں، آپ نے سلام کہلا بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا "اِنَّ لِلّٰہِ مَا اَخَذَ"

علامہ ابن جوزیؒ نے اس حدیث کو موضوعات میں بیان کیا ہے لیکن دوسرے محدثین نے اس کو حسن یا ضعیف کہا ہے۔

وَلَمَّا تُوُفِّيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اِنَّ فِي اللّٰهِ عَزَآءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَّخَلَفًا مِّنْ كُلِّ فَآئِتٍ فَبِاللّٰهِ فَثِقُوْا وَاِيَّاهُ فَارْجُوْا فَاِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ مُسْ وَدَخَلَ رَجُلٌ اَشْهَبُ اللِّحْيَةِ جَسِيْمٌ صَبِيْحٌ فَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ فَبَكٰى ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَقَالَ اِنَّ فِي اللّٰهِ عَزَآءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ وَّعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَآئِتٍ وَّخَلَفًا مِّنْ كُلِّ هَالِكٍ فَاِلَى اللّٰهِ فَاَنِيْبُوْا وَاِلَيْهِ فَارْغَبُوْا وَنَظِرَةٌ اِلَيْكُمْ فِي الْبَلَآءِ فَانْظُرُوْا فَاِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ لَّمْ يُجْبَرْ وَانْصَرَفَ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ وَّعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هٰذَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْ

ترجمہ: جب آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے (اس دنیائے فانی سے) کوچ فرمایا تو فرشتوں نے آپ کے اہل بیت اور صحابہؓ کی اس طرح، تعزیت کی تم پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں یقیناً اللہ ہی ہر مصیبت پر تسلی دینے والا ہے، اور اس کے یہاں ہر چلی جانے والی چیز کا عوض ہے، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اسی سے امید رکھو، کیونکہ محروم تو وہی ہے جو ثواب سے محروم رہے، اور تم پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ حاکم، (عن جابرؓ)

ایک شخص نہایت سفید ریش، قوی ہیکل، حسین وجمیل (رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن) آیا (جب آپ تک پہنچنے کی جگہ نہ ملی تو) صحابہ رضی اللہ عنہم کی گردنیں پھلانگتا آگے بڑھ گیا، اور رویا اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ ہی کے

پاس ہر مصیبت سے بدلہ ہے، اور ہر فوت ہونے والی چیز کا عوض ہے، اور ہر ہلاک ہو جانے والی چیز کا بدلہ ہے تو تم اللہ ہی کی جانب رجوع کرو اور اس کی طرف رغبت کرو، اور (اس) آزمائش میں اس کی نظر تمہاری طرف ہے، اس لئے خوب غور کرنے (صبر و استقلال سے) کام کرو، کیونکہ مصیبت زدہ وہی ہے جسے (مصیبت پر) بدلہ نہ ملے، اور ثواب سے محروم رہے، (یہ کہکر) چلا گیا، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حاکم (عن انسؓ)

شرح: یعنی دنیا کی مصیبت و تکالیف کچھ حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا ثواب آخرت میں موجود ہے بلکہ حقیقی مصیبت یہ ہے کہ آدمی مصیبت پر صبر نہ کرے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَمَنْ رَّفَعَ الْمَيِّتَ عَلَى السَّرِيْرِ اَوْ حَمَلَهٗ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ مُوْ
مُصْ وَاِذَا صَلّٰى عَلَيْهِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ صَلّٰى عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ
اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ
لَكَ وَيَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَصْبَحَ فَقِيْرًا
اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهٖ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا
وَاَهْلِهَا اِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهٖ وَاِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهٗ
اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ مُسْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ
وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ
وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ
وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ مُتِ سَ قَ مُصْ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا
وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ
عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا
تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ دَتِ سَ اَحِبَّ مُسْ

ترجمہ : جو شخص میت کو چارپائی پر رکھے یا اُسے اُٹھائے تو "بسم اللہ" کہے۔ ابن ابی شیبہ موقوفاً (عن ابن عمرؓ)

اور جب جنازہ کی نماز پڑھے تو "اللہ اکبر" کہہ کر سورۂ فاتحہ پڑھے پھر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر کہے، اے اللہ (یہ) تیرا بندہ اور تیری باندی کا بیٹا گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا تھا کہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، (اب یہ) تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اسے عذاب دینے سے) بے پرواہ ہے (اب یہ) دنیا اور دنیا کے لوگوں سے (ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا ہو گیا اگر یہ پاک ہو تو اسے زیادہ پاک کر دے، اور اگر خطاکار ہو تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں اس کے (رنج و غم میں مبتلا فرما کر) اجر سے محروم نہ کر، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ حاکم (عن ابن عباسؓ)

الٰہی! اسے بخش دے اور اس پر رحمت کر اور اسے نجات دے، اور اس کی خطا معاف فرما، اور اس کی اچھی مہمانی کر، اور اس کا ٹھکانا عمدہ بنا، اور اس کی قبر کشادہ کر اور اسے پانی اور برف اور اولے سے دھو کر خطاؤں سے اس طرح پاک وصاف کر دے، جس طرح تو کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور دنیا کی بیوی سے اچھی بیوی بدل دے، اور اسے بہشت میں داخل کر اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچالے (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ (عن عوف بن مالکؓ)

اے اللہ! ہمارے زندہ و مُردہ، ہمارے حاضر و غائب، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ہمارے مرد اور عورت کی مغفرت فرما، خداوندا! ہم میں سے جس کو زندہ رکھے، اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو اُٹھائے اسے ایمان پر اٹھا، خداوندا! ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرۃؓ)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ
وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا
شُفَعَآءَ فَاغْفِرْ دس لَهَا سَ لَهٗ د اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ
فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ
وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَآءِ وَالْحَمْدِ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ
اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ د ق اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ اَمَتِكَ
اِحْتَاجَ اِلٰى رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهٖ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا
فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْٓئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ مس اَللّٰهُمَّ
عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اِنْ كَانَ
مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ وَاِنْ كَانَ مُسِيْٓئًا فَاغْفِرْ لَهٗ وَلَا تَحْرِمْنَا
اَجْرَهٗ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ حب

ترجمہ: اے اللہ! تو اس کا رب ہے، تو ہی نے اسے پیدا کیا، اور تو ہی نے اسے اسلام سے نوازا اور تو ہی نے اس کی روح قبض کی، اور تو ہی اس کے ظاہر و باطن سے زیادہ باخبر ہے، ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں (تو اپنے فضل و کرم سے) اس کی مغفرت فرما دے۔ ابوداؤد۔ نسائی (عن ابی ہریرۃؓ)

اے اللہ! فلاں بن فلاں تیرے ذمہ اور تیری پناہ میں ہے۔ (ایمان لاکر) تیرے عہد و پیمان پر مرا ہے، تو اسے قبر کے فتنے اور عذاب سے بچا، اور تو ہی اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور قابل تعریف ہے، اے اللہ! تو اس کی مغفرت کر اور اس پر رحم فرما، بیشک تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابوداؤد، ابن ماجہ (عن واثلۃ بن الاسقع)

اے اللہ! (یہ) تیرا بندہ اور تیری لونڈی کا بیٹا، تیری رحمت کا محتاج ہے، اور تو اسے

عذاب دینے سے بے پرواہے، اگر (یہ) اچھا ہو تو اس کی اچھائی زیادہ کر اور اگر بُرا ہو تو اس سے درگذر فرما۔ حاکم (عن یزید بن رکانہؓ)

اے اللہ! (یہ) تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور تو اسے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر (یہ) نیک ہو تو اس کی نیکی زیادہ کر اور اگر گنہگار ہو تو اس کی بخشش فرما اور ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں فتنہ میں نہ ڈال۔ ابن حبان (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: اگر میت مونث ہو تو "فاغفر لھا" کہے اور اگر مذکر ہو تو "فاغفر لہ" پڑھے۔

جنازہ کی نماز مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ پڑھ لیں تو دیگر تمام لوگوں سے فرض ساقط ہو جائے گا، ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔

نماز صحیح ہونے کی یہ شرط ہے کہ میت مسلمان ہو، پاک ہو، اور جنازہ سامنے موجود ہو، احناف کے نزدیک غائب کی نماز درست نہیں۔

نماز کے دو رکن ہیں، قیام اور تکبیر

امام شافعیؒ کے نزدیک الحمد پڑھنا واجب ہے، اور امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورۂ فاتحہ پڑھنی درست نہیں ہے، لیکن اگر ثناء کے ارادہ سے پڑھے تو جائز ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ امام اور امام کے ساتھ مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر آہستہ آہستہ ثناء "سبحانک اللھم الخ" پڑھیں پھر دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر دعا پڑھیں۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کر امام اور مقتدی سلام پھیر دیں۔

وَاِذَا وَضَعَهٗ فِیْ قَبْرِهٖ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰی سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَتِ سَ حَبْ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ مُسْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیْهَا نُعِیْدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰی بِسْمِ اللّٰهِ وَفِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَعَلٰی مِلَّةِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ مُسْ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهٖ وَقَفَ عَلَی الْقَبْرِ فَقَالَ
اِسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ لِاَخِیْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِیْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ
یُسْاَلُ دَمُسْ رَسُنِّیْ وَیُقْرَاُ عَلَی الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ اَوَّلَ
سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا سُنِّیْ وَاِذَا زَارَ الْقُبُوْرَ فَلْیَقُلِ السَّلَامُ
عَلٰی اَهْلِ الدِّیَارِ وَالسَّلَامُ عَلَیْكُمْ اَهْلَ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمُسْلِمِیْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ
لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِیَةَ مُسْ قَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ
تَبَعٌ سَ اَلسَّلَامُ عَلٰی اَهْلِ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ
وَیَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِیْنَ وَاِنَّا اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ مُسْ قَ اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ دَارَ
قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَاَتَاكُمْ مَّا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُّؤَجَّلُوْنَ وَاِنَّا
اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ مُسْ اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ دَارَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِیْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ دَ اَلسَّلَامُ

عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ
وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ

ترجمہ: اور جب میت کو قبر میں رکھے تو کہے، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر (اس کو دفن کرتا ہوں) ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان (عن ابن عمرؓ)

دفن کرنے کی دعا

اللہ کے نام اور اُس کے (حکم) سے اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دین پر (اسے قبر میں رکھتا ہوں) حاکم (عن ابن عمرؓ)

لوگو! اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے (قیامت کے دن) تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دین پر (اسے دفن کرتا ہوں) حاکم (عن ابی امامہؓ)

دفن سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا

اور جب میت کے دفن سے فارغ ہو جائے تو قبر پر کھڑے ہو کر کہے (اے لوگو!) اللہ سے اپنے بھائی کے لئے مغفرت چاہو اور (منکر نکیر کے جواب میں) اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ (اس وقت) اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ابوداؤد، حاکم، بزار، البیہقی فی السنن الکبیر، (عن عثمانؓ)

اور دفن کرنے کے بعد قبر پر سورۃ بقرہ کا پہلا (رکوع الٓمٓ سے مفلحون تک) اور (اٰمن الرسول سے) ختم تک آخر (رکوع) پڑھے۔ البیہقی فی السنن الکبیر (عن عثمانؓ)

زیارت قبور کا بیان

اور جب قبرستان میں جائے تو کہے، اس بستی کے رہنے والوں کو سلام ہو، یا اس طرح کہے اے اس بستی کے رہنے والے مومنو اور مسلمانو! تم پر سلام ہو، انشاء اللہ ہم بھی تم سے عنقریب ملنے والے ہیں، ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے واسطے (خیر و) عافیت چاہتے ہیں۔ مسلم، نسائی، ابن ماجہ (عن بریدہ ابن الحصینؓ)

تم ہمارے پیشرو ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ نسائی، (عن بریدہ بن الحصینؓ)

اے (اس) گھر کے رہنے والے مومنو اور مسلمانو! تم پر سلام ہو، اور اللہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے، اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ مسلم، نسائی، ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

اے (اس) گھر (میں) رہنے والے مومنو! تمہیں سلام ہو، تم پر وہ چیز آگئی جس کا کل تم سے دیر سویر کے ساتھ (ثواب و عذاب کا) وعدہ کیا گیا تھا اور ہم بھی انشاء اللہ (عنقریب) تم سے ملنے والے ہیں۔ مسلم، نسائی (عن عائشہؓ)

اے (اس) بستی کے رہنے والے مومنو! تم پر سلام ہو، اور ہماری بھی انشاء اللہ تم سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ابوداؤد (عن ابی ہریرہؓ)

اے قبر والو! تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے (ذرا) پہلے پہنچ گئے، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے پہنچ رہے ہیں۔ ترمذی (عن ابن عباسؓ)

شرح: زیارت قبر کے آداب یہ ہیں کہ قبلہ کی طرف پشت اور قبر کی جانب منہ کر کے کھڑا ہو اور اہلِ قبر کو سلام کرے جیسا کہ اوپر گذرا، اور قبر کو نہ ہاتھ لگائے، نہ اس کو بوسہ دے اور نہ قبر کے سامنے جھکے اور نہ ناک و پیشانی وغیرہ رگڑے اور نہ سجدہ کرے۔

اور سات بار "قل ھواللہ" پڑھنا مستحب ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ گیارہ مرتبہ "قل ھواللہ" کھڑے ہو کر پڑھے۔ پھر بیٹھے۔

جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرنا افضل و بہتر ہے، خصوصاً صبح کے وقت، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو کوئی زیارت کے وقت سورۂ یٰسین پڑھے تو اس دن مُردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور جتنے مُردے قبروں میں ہیں اسی قدر نیکیاں اس پڑھنے والے کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَلذِّكْرُ الَّذِيْ وَرَدَ فَضْلُهٗ غَيْرَ مَخْصُوْصٍ
بِوَقْتٍ وَّلَا سَبَبٍ وَّلَا مَكَانٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ هِيَ اَفْضَلُ
الذِّكْرِ وَهِيَ اَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ قَالَهَا خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهٖ اَوْ نَفْسِهٖ خ يُخْرَجُ
مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَهَا وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ اَوْ
مِنْ اِيْمَانٍ وَّيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَهَا وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ
بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ اَوْ مِنْ اِيْمَانٍ وَّيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَهَا
وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ اَوْ مِنْ اِيْمَانٍ خ مُتِّ

ترجمہ: وہ ذکر جس کی فضیلت کسی وقت یا سبب یا مکان کی خصوصیت کے بغیر وارد ہوئی ہے لا الٰہ الا اللہ ہے، کہ یہی سب سے افضل ذکر ہے۔ ترمذی (عن جابرؓ)
اور یہی سب سے بڑھ کر نیکی ہے احمد (عن بریدہؓ)
(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے) میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص بہرہ ور ہوگا جس نے خلوص دل کے ساتھ کلمۂ توحید کہا ہوگا۔ بخاری (عن ابی ہریرہؓ)
جو شخص اس کلمہ کو کہے گا اور اس کے دل میں جَو برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، وہ دوزخ سے نکلے گا اور جو شخص اس کو کہے گا اور اس کے دل میں گیہوں برابر خیر یا ایمان ہوگا وہ بھی دوزخ سے نکلے گا۔ اور جو شخص اس کو کہے گا اور اس کے دل میں ذرہ برابر نیکی یا ایمان ہوگا، وہ بھی دوزخ سے نکلے گا۔ بخاری، مسلم، ترمذی (عن انسؓ)

شرح: یعنی جس شخص میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔

وہ ذکر جس کی فضیلت کسی وقت یا سبب یا مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے

منزل سوم شنبہ

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَهَا ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاِنْ
زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ
مُ جَدِّدُوْا اِيْمَانَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا
قَالَ اَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَطْ لَيْسَ لَهَا دُوْنَ اللّٰهِ
حِجَابٌ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلَيْهِ تِ قَوْلُهَا لَا يَتْرُكُ ذَنْبًا قَ لَا
يُشْبِهُهَا عَمَلٌ مُسْ لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْاَرَضِيْنَ
السَّبْعِ فِيْ كِفَّةٍ وَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِيْ كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ
حِبْ سَ رَمَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ مُخْلِصًا اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ
اَبْوَابُ السَّمَآءِ حَتّٰى تُفْضِيَ اِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَآئِرُ
تِ سَ مُسْ

ترجمہ: کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ کلمہ پڑھے پھر اسی (اعتقاد) پر مرجائے اور جنت میں داخل نہ ہو؟ اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کی ہو۔ مسلم (عن ابی ذرؓ)

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اپنا ایمان تازہ کرو (صحابہ رضی اللہ عنہم نے) عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کس طرح تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کثرت سے کہا کرو۔ احمد، طبرانی (عن ابی ہریرہؓ)

اس کلمہ کا اللہ کے کوئی پردہ نہیں یہ اس کے پاس (بلا روک ٹوک) پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی (عن ابی مالک الاشعریؓ)

یہ کلمہ پڑھنے سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور نہ کوئی عمل اس کے برابر ہے۔ حاکم (عن ام ہانیؓ)

اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والے ایک پلڑے میں ہوں اور "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" دوسرے پلڑے میں ہو تو "لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" کا پلڑا ان سے بھاری ہوگا۔ ابن حبان، نسائی، (عن ابی سعید)، بزار (عن ابن عمرؓ)

جو آدمی اخلاص کے ساتھ کبھی اس کلمہ کو کہتا ہے، اس کے لئے آسمانوں کے دروازے

کھول دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے، جب تک گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتا رہے۔ ترمذی، نسائی، حاکم (عن ابی ہریرۃؓ)

شرح، یعنی اس کلمہ کے بار بار کہنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔
یعنی اسے اللہ کے پاس پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روکتی وہ بہت جلد مقبول ہوجاتا ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَ مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ
كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ خ مُتِّ س
اَ وَ مَرَّةً كَعِتْقِ نَسَمَةٍ اَمُصْ وَمِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عَدْلَ
عَشْرِ رِقَابٍ وَّكُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَّمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ
سَيِّئَةٍ وَّ كَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَأْتِ اَحَدٌ
بِاَفْضَلَ مِمَّا جَآءَ بِهٖ اِلَّا اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ
عَوْهِيَ الَّتِيْ عَلَّمَهَا نُوْحٌ اِبْنَهٗ فَاِنَّ السَّمٰوٰتِ لَوْ كَانَتْ
فِيْ كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً لَفَصَمَتْهَا مُصْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ كَلِمَتَانِ اِحْدٰهُمَا لَيْسَ لَهَا
نِهَايَةٌ دُوْنَ الْعَرْشِ وَالْاُخْرٰى تَمْلَاُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ط

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی سلطنت ہے، اور وہی قابل تعریف ہے، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو شخص دس مرتبہ اس کو کہے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد کے چار شخص آزاد کئے ہوں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد (عن ابی ایوبؓ)

اور ایک مرتبہ کہنا، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ احمد، ابن ابی شیبہ (عن براء بن عازبؓ)

اور جو شخص اس کلمہ کو سو مرتبہ پڑھے گا، اس کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی سو برائیاں مٹائی جائیں گی، اور یہ کلمہ اس کے لئے

فضیلت کلمہ توحید

شیطان سے پناہ میں ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر اور عمدہ عمل نہیں لائے گا، بجز اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ اسے پڑھا ہو۔ ابوعوانہ (عن ابی ہریرۃؓ)

یہی کلمہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھلایا تھا، اگر تمام آسمان ایک پلڑے میں ہوں (اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں) تو یہی کلمہ بھاری ہوگا، اور اگر آسمان کڑے کی طرح ہوں تو یہ ان کو ملا دے گا۔ ابن ابی شیبہ (عن جابرؓ)

"لا الٰہ الا اللہ" اور "اللہ اکبر" دو کلمے ہیں جن میں سے ایک (یعنی لا الٰہ الا اللہ) کی، تو عرش سے ادھر انتہا نہیں، اور دوسرا (یعنی اللہ اکبر) آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ طبرانی (عن معاذؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَهُمَا مَعَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُوْلُهَا إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ت س مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ حَدِيْثُ مُعَاذٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَلَا أُخْبِرُ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوْا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا خ م مَنْ شَهِدَ بِهَا كَذٰلِكَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ م ت حَدِيْثُ الْبِطَاقَةِ الَّتِيْ تُثْقَلُ بِالتِّسْعَةِ وَالتِّسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ق حِبْ مُسْ

ترجمہ: اور یہ دونوں کلمے "لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" کے ساتھ (یہ فضیلت رکھتے ہیں کہ) جو شخص زمین پر ان کو کہے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی۔ نسائی (عن عبداللہ بن عمرؓ)

جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ (یعنی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا)

یہ حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا لوگ اس کے کہنے ہی پر اکتفا کر لیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے، پھر حضرت معاذؓ نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت علم کے چھپانے کے گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی۔ بخاری، مسلم (عن انسؓ)

جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کلمہ (شہادت) کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ مسلم، ترمذی (عبادۃ بن صامتؓ)

کلمہ شہادت کی فضیلت

پرچہ کاغذ کی حدیث جو مشہور ہے، یہ ہے کہ ایک پرچہ جس میں "اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً عبدہٗ ورسولہ" لکھا ہوگا، وہ ان ننانوے دفتروں پر بھاری ہوگا جن کی درازی اور لمبائی حد نظر تک ہوگی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (عن عبداللہ بن عمروؓ)

شرح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے ننانوے دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی لمبائی حد نظر تک ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، وہ عرض کرے گا نہیں، پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے وہ جواب دیگا میرے پاس کوئی عذر نہیں، پھر فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس وقت ایک پرچہ کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں "اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً عبدہٗ ورسولہ" لکھا ہوگا، جو کبھی اس نے خلوص دل کے ساتھ لکھا تھا۔ اس پرچہ کو میزان میں رکھا جائیگا وہ عرض کرے گا، یا اللہ ننانوے دفتروں کے مقابلے میں جو گناہوں سے بھرے ہیں اس ایک پرچہ کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ پرچہ بہت عالیشان ہے اس کو تولا جائے، پھر وہ پرچہ ایک پلڑے میں، اور ننانوے دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو یہ (پرچہ والا) پلڑا ان دفتروں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی وہ سب سے بھاری ہے۔

مَنْ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَّالنَّارَ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَآءَ خ م س مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَابْنُ اَمَتِهٖ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَّالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ اَوْ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ اَيَّهَا شَآءَ خ م س كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهٗ

خ م س

ترجمہ: جس شخص نے یہ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم علیہا السلام کی طرف القا کیا، (ڈالا) اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں، اور جنت اور دوزخ حق ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازوں سے جس میں سے چاہے گا داخل کرے گا۔ بخاری، مسلم، نسائی (عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ)

جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم اسکے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں اور اسکی لونڈی کے لڑکے ہیں اور اسکا کلمہ ہیں جو اس نے مریم علیہا السلام کی طرف القا کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں

اور جنت و دوزخ حق ہیں، اس کو اللہ تعالےٰ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو (یا یہ فرمایا) کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا داخل کرے گا۔ بخاری، مسلم، نسائی (عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے لشکر کو فتح دی اور اپنے بندے (محمد صلے اللہ علیہ وسلم) کی مدد کی، اور تنہا لشکر (کفار) پر غالب ہوا، پس اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ بخاری، مسلم، نسائی۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

حَدِیْثُ الْاَعْرَابِیِّ عَلِّمْنِیْ کَلَامًا اَقُوْلُہٗ قَالَ قُلْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ اَللّٰہُ اَکْبَرُ کَبِیْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰہِ کَثِیْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاھْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ مُ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ مَرَّۃً کُتِبَتْ لَہٗ عَشْرًا وَّمَنْ قَالَھَا عَشْرًا کُتِبَتْ لَہٗ مِائَۃٌ وَّمَنْ قَالَھَا مِائَۃً کُتِبَتْ لَہٗ اَلْفًا وَّمَنْ زَادَ زَادَہُ اللّٰہُ تِ سَ مَنْ قَالَھَا فِیْ یَوْمٍ مِائَۃَ مَرَّۃٍ حُطَّتْ عَنْہُ خَطَایَاہُ وَاِنْ کَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ عُ وَھِیَ اَحَبُّ الْکَلَامِ اِلَی اللّٰہِ مُ تِ سَ مُصْ وَھِیَ اَفْضَلُ الْکَلَامِ الَّذِیْ اصْطَفَی اللّٰہُ لِمَلَآئِکَتِہٖ مُ عُ وَھِیَ الَّتِیْ اَمَرَ نُوْحٌ بِھَا ابْنَہٗ فَاِنَّھَا صَلٰوۃُ الْخَلْقِ وَتَسْبِیْحُ الْخَلْقِ وَبِھَا یُرْزَقُ الْخَلْقُ مُصْ

ترجمہ: یہ ایک اعرابی کی حدیث ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جسے میں پڑھا کروں، آپ نے فرمایا کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، اور طاقت و قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے، جو غالب اور دانا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق عطا فرما مسلم (عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ)

جو شخص "سبحان اللہ وبحمدہ" ایک بار کہتا ہے، اس کے لئے دس بار لکھا جاتا ہے، اور جو دس بار کہتا ہے، اس کے لئے سو بار لکھا جاتا ہے، اور جو سو بار کہتا ہے اس کے لئے ہزار بار لکھا

فضیلت

جاتا ہے اور جو کوئی اس سے زیادہ کہے گا تو اللہ تعالےٰ اس سے (دس گنا) زیادہ ثواب دے گا۔ ترمذی نسائی (عن ابن عمرؓ)

اور جو شخص سو مرتبہ اس کو کہے گا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ دریا کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ابوعوانہ (عن ابی ہریرہؓ)

یہ کلمہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن ابی ذرؓ)

اور یہ کلمہ بہترین کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے انتخاب کیا ہے۔ مسلم ابوعوانہ (عن ابی ذرؓ)

اور یہی کلمہ ہے جس کا حکم حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے کو دیا تھا، کیونکہ یہ تمام مخلوقات کی دعا اور تسبیح ہے، اور اسی کی (برکت سے) مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ ابن ابی شیبہ (عن جابرؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ قَالَهَا غُرِسَتْ لَهٗ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ رَمَنْ هَالَهُ اللَّیْلُ اَنْ یُّکَابِدَهٗ اَوْ بَخِلَ بِالْمَالِ اَنْ یُّنْفِقَهٗ اَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ اَنْ یُّقَاتِلَهٗ فَلْیُکْثِرْ مِنْهَا فَاِنَّهَا اَحَبُّ اِلَی اللّٰهِ مِنْ جَبَلٍ ذَهَبٍ تُنْفِقُهٗ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ط اَحَبُّ الْکَلَامِ اِلَی اللّٰهِ سُبْحَانَ رَبِّیْ وَبِحَمْدِهٖ اَوْ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ نَبَتَ لَهٗ غَرْسٌ فِی الْجَنَّةِ اَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِی الْجَنَّةِ تِ سَ حِبْ مُسْ مُصْ فَاِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ وَبِهَا تُقْطَعُ اَرْزَاقُهُمْ رَ کَلِمَتَانِ خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلَی الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ خَ مُرْتِ مُصْ

ترجمہ: جو شخص اس کو (ایک مرتبہ) کہتا ہے، اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بزار (عن ابن عمرؓ)

جو شخص (بیماری وغیرہ کی بنا پر) بے چینی سے رات گذارے یا مال خرچ کرنے میں بخل کرے یا دشمن سے لڑنے میں بزدلی کرے تو اسے چاہئے کہ ان کلمات کو بکثرت پڑھے۔ (اس سے یہ بات جاتی رہے گی) کیونکہ یہ کلمہ اللہ کو اس سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ پسند ہے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ طبرانی (عن ابی امامہؓ)

سب سے پیارا کلام اللہ کے نزدیک یہ ہے "سبحان ربی وبحمدہ" میں اپنے رب کی پاکی اور تعریف کرتا ہوں۔ ابوعوانہ (عن ابی ذرؓ)

جو شخص "سبحان اللہ العظیم" اللہ عظمت والا پاک ہے، کہے اس کے لئے جنت میں ایک درخت اُگ جاتا ہے۔ احمد (عن معاذ بن انسؓ)

اور جو شخص یہ کہے "سبحان اللہ العظیم وبحمدہ" ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں

toobaa-elibrary.blogspot.com

اس کی تعریف کے ساتھ، اس کے لئے جنت میں ایک خرمے کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ)

کیونکہ یہ کلمہ خلق کی عبادت ہے، اور اسی کی (برکت) سے ان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ بزار (عن ابن عمرو رضی اللہ عنہ)

دو کلمے جو زبان پر نہایت ہی ہلکے پھلکے (اور قیامت کے روز) میزان (عمل) میں نہایت ہی وزنی اور بھاری (اور خدا کے) رحمان کو نہایت ہی محبوب اور پیارے ہیں، (وہ) سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ قَالَهَا مَعَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ كُتِبَتْ لَهٗ كَمَا قَالَهَا ثُمَّ عُلِّقَتْ بِالْعَرْشِ لَا يَمْحُوْهَا ذَنْبٌ عَمِلَهٗ صَاحِبُهَا حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَخْتُوْمَةً كَمَا قَالَهَا رَوَاهُ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا تُسَبِّحُ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

مُرَعَهٗ عَوْ

ترجمہ: جو شخص ان کلمات کو استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ (میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں) کے ساتھ پڑھے تو وہ اسی طرح جس طرح اس نے کہے لکھ لئے جاتے ہیں پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیئے جاتے ہیں اور کوئی گناہ جو اس شخص نے کیا ہو ان کلمات کو نہیں مٹاتا یہاں تک کہ (رجب) وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز ملے گا تو وہ کلمے اسی طرح سربمہر ہوں گے جس طرح (اس نے کہے) تھے۔ بزار (عن ابن عباسؓ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُم المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور آپ صبح تڑکے ہی ان کے پاس سے نماز پڑھ کر تشریف لے جا چکے تھے اور وہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھیں، پھر چاشت کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو وہ بدستور بیٹھی ہوئی تھیں (آپؐ نے فرمایا) تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہو جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ حضرت جویریہؓ نے عرض کیا جی ہاں! آپؐ نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد ایسے چار کلمے تین بار کہے ہیں کہ اگر ان کا اس سے وزن کیا جائے جو تم نے (اس عرصہ میں) پڑھا ہے تو وہ کلمے وزنی

ہوں گے (اور وہ یہ ہیں) میں اللہ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی رضی کے مطابق اور اس کے عرش کے برابر اور اس کے کلمات کی گنتی کے موافق بیان کرتا ہوں۔ مسلم، سنن اربعہ، ابوعوانہ (عن جویریہؓ)

شرح: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کلمات کا پڑھنے والا کفر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ کفر کے سوا کوئی گناہ خواہ وہ کبیرہ ہی ہو عمل کو نیست و نابود نہیں کرتا۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ مُسْ مُصْ عَوْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَذٰلِكَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضٰى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ سَ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاِمْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ اَلَا اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ دَتِ سَرِ جِمْسُ

ترجمہ: میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی مرضی کے موافق، اور اس کے عرش کے برابر، اور اس کے کلمات کی مقدار کے مطابق۔ مسلم، نسائی، ابن ابی شیبہ، ابوعوانہ (عن جویریہؓ)

اور اسی طرح الحمد للہ ہے۔ نسائی (عن جویریہؓ)

میں اللہ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ بیان کرتا ہوں (اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے) اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی مرضی کے موافق اور اس کے عرش کے برابر اور اس کے کلمات کے برابر۔ نسائی (عن جویریہؓ)

آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے جس کے پاس آپ تشریف لے گئے اور اس کے سامنے گٹھلی یا کنکریاں تھیں جس سے وہ تسبیح پڑھا کرتی تھیں فرمایا۔ کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتادوں جو

تیرے لئے اس سے آسان اور بہتر ہے؟ پھر فرمایا (وہ یہ ہے) میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا کی ہیں، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا کی ہیں، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کے برابر جو اس کے درمیان ہیں، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کے برابر جن کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اسی طرح (ان چاروں مذکورہ کلمات کے ساتھ) سبحان اللہ کی جگہ اللہ اکبر اور پھر الحمد للہ اور پھر لا الٰہ الا اللہ" اور پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ ملا کر پڑھے ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن سعد بن ابی وقاصؓ)

شرح: یعنی سبحان اللہ کے بجائے الحمد للہ عدد خلقہ، الحمد للہ رضیٰ نفسہ، الحمد للہ زنۃ عرشہ، الحمد للہ مداد کلماتہ، کہنے کا بھی یہی ثواب ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ تُسَبِّحُ بِهِنَّ فَقَالَ قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ وَقَفْتُ عَلَى رَأْسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هٰذَا قَالَتْ عَلِّمْنِي قَالَ قُوْلِي سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَمُسْ وَقَالَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ أَلَا أُعَلِّمُكَ شَيْئًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْءَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مِلْءِ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا أَحْصٰى كِتَابُهُ رَطٌ

ترجمہ: آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سامنے چار ہزار گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں، جن سے وہ تسبیح پڑھتی تھیں، آپ نے فرمایا جب سے میں تمہارے سر کے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ لی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا مجھے بھی بتا دیجئے، فرمایا کہو (سبحان اللہ عدد ما خلق) میں اللہ کی تسبیح کرتی ہوں اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، ابوداؤد، حاکم (عن صفیہؓ)

آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوالدرداءؓ سے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو دن رات ذکر کرنے سے بہتر ہے (اور وہ یہ ہے) اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے شمار کے برابر جو اس نے پیدا کی ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے، اس چیز کے بھر دینے کے برابر جو اس نے پیدا کی ہے اور اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے شمار کے برابر جس کا شمار اس کی کتاب میں ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے بھرنے کے برابر جو اس کی کتاب میں شمار کی جا چکی ہے، اور اللہ کی تعریف ہے اس چیز کے برابر جو اس نے پیدا کی ہے اور اللہ کی تعریف ہے اس چیز کے بھرنے کے برابر

جو اس نے پیدا کی ہے، اور اللہ کی تعریف ہے ہر چیز کے برابر، اور اللہ کی تعریف ہے ہر چیز کے بھرنے کے برابر، اور اللہ کی تعریف ہے اس چیز کے شمار کے برابر جس کا شمار اس کی کتاب (لوح محفوظ) میں ہے اور اللہ کی تعریف ہے اس چیز کے بھرنے کے برابر جو اُس کی کتاب نے شمار کیا ہے۔ بزار، طبرانی۔ (عن ابی الدرداءؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَقَالَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ سَ حِبْ مُسْ وَكَذَا رَوَاهُ طَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَوْضِعَ سُبْحَانَ اللهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكَذَا رَوَاهُ أَسْوَى التَّكْبِيرِ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلادوں جو تمہارے دن رات ذکر کرنے سے (ثواب میں) زیادہ اور بہتر ہے، (اور وہ یہ ہے) کہ تم کہو اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے شمار کے برابر جو اس نے پیدا کی ہے، اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے بھرنے کے برابر جو اس نے پیدا کی ہے، اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے شمار کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے بھرنے کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے اس چیز کے شمار کے برابر جس کو اس کی کتاب نے شمار کیا ہے، اور اللہ کی تسبیح ہے ہر چیز کے بھرنے کے برابر اور اسی طرح ہر کلمہ کے ساتھ الحمد للہ ملاکر پڑھے۔ "الحمد للہ عدد ما خلق الخ" نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی امامہؓ)

اور اسی طرح طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (عن ابی امامہؓ)

مگر انھوں نے "سبحان اللہ" کی بجائے "الحمد للہ" روایت کیا ہے، اور پھر کہا ہے اسی طرح "سبحان اللہ" کے بعد اور اسی طرح "اللہ اکبر" کے بعد ہر ہر کلمہ ملاکر پڑھو، اور اسی طرح احمد بن حنبلؒ نے روایت کی ہے مگر اس میں "اللہ اکبر" نہیں ہے۔

تسبیح کے الفاظ اور اس کی فضیلت

وَقَالَتْ سَلْمٰى ط اُمُّ بَنِيْ اَبِيْ رَافِعٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ وَّلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَقَالَ قُوْلِيْ عَشْرَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ يَقُوْلُ اللّٰهُ هٰذَا لِيْ وَقُوْلِيْ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَّقُوْلُ اللّٰهُ هٰذَا لِيْ وَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ قَدْ فَعَلْتُ فَتَقُوْلِيْنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَّ يَقُوْلُ قَدْ فَعَلْتُ ط اَفْضَلُ الْكَلَامِ سُبْحَانَ رَبِّيْ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّيْ وَبِحَمْدِهٖ ط وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاٰنِ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَاُ الْمِيْزَانَ مُ تِ اَحَبُّ الْكَلَامِ اِلَى اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِاَيِّهِنَّ بَدَاْتَ مُ تِ

ترجمہ: حضرت ام سلمیٰؓ جو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے چند مختصر سے کلمات بتا دیجئے (جنھیں میں بآسانی یاد کر سکوں) آپ نے فرمایا دس مرتبہ "اللہ اکبر" کہو، اللہ فرمائیگا یہ میرے لئے ہے اور دس مرتبہ "سبحان اللہ" کہو اللہ فرمائیگا یہ میرے لئے ہے اور کہو اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرمائیگا میں نے بخش دیا پس تم اس کو دس مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا۔ طبرانی (عن ابی امامہؓ)

بہترین کلام "سبحان ربی و بحمدہ" ہے (پاک ہے میرا رب اور وہی قابل تعریف ہے) طبرانی (عن ابی ذرؓ)

اور "سبحان اللہ والحمد للہ" آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اور الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ مسلم، ترمذی (عن ابی مالک الاشعریؓ)

چار کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، سبحان اللہ، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر (اللہ پاک ذات ہے اور اللہ ہی قابل تعریف ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے) (ان کلمات کو) جس سے چاہو شروع کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسلم، ترمذی، (عن سمرۃ بن جندبؓ)

هِيَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ أَمَنْ قَالَهَا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ط لَأَنْ أَقُولَ لَهَا هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ مُرْتِ سَ مُصْ عَوْ إِنَّ الْجَنَّةَ طِيبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا قِيعَانٌ وَإِنَّ غِرَاسَهَا هٰذِهِ تِ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ قَ مُصْ طَسْ خُذُوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ قُولُوا يَعْنِي هٰذِهِ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ سَ مُسْ صٓ طٰسٓ وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ

مُدَّ قَ

ترجمہ: یہ چاروں کلمے قرآن مجید کے بعد سب سے بہتر کلام ہیں اور یہ قرآن ہی کے کلمات ہیں۔ (احمد عن سمرۃ بن جندبؓ)

جو شخص ان کلمات کو کہے گا اس کے لئے ہر حرف کے بدلہ دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (طبرانی عن ابن عمرؓ)

(رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) یہ کلمات مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہیں جن پر سورج نکلتا ہے (یعنی یہ کلمات مجھے دنیا کی ہر ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں)۔ (مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ، ابویعلیٰ عن ابی ہریرہؓ)

بیشک جنت کی مٹی اچھی اور پانی شیریں ہے (مگر) وہ ایک ہموار میدان ہے، اور اس کے درخت یہی کلمات ہیں۔ (ترمذی عن ابن مسعودؓ)

ہر کلمہ کے بدلہ تمہارے لئے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، طبرانی فی الاوسط، عن ابی ہریرہؓ)

دوزخ سے اپنی ڈھال بناؤ اور یہ کلمات کہو، کیونکہ یہ قیامت کے دن (پڑھنے والے کے) دائیں بائیں آگے پیچھے اور نیچے، سب طرف (حفاظت کے لئے) آئیں گے اور یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ نسائی، حاکم، طبرانی فی الصغیر، طبرانی فی الاوسط (عن ابی ہریرہؓ)

ہر بار "سبحان اللہ" کہنا صدقہ ہے، ہر بار "الحمد للہ" کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الٰہ الا اللہ" کہنا صدقہ ہے اور ہر بار "اللہ اکبر" کہنا صدقہ ہے۔ مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ (عن ابی ذرؓ)

شرح: یعنی جو شخص "سبحان اللہ" کہتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔

یعنی جس طرح دولت مند کو مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اسی طرح اس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَهُنَّ اللَّوَاتِي يُقَلْنَ فِي صَلٰوةِ التَّسْبِيحِ وَذٰلِكَ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلَا اُعْطِيكَ اَلَا
اَمْنَحُكَ اَلَا اَحْبُوكَ اَلَا اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ
ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ قَدِيمَهٗ وَحَدِيثَهٗ خَطَأَهٗ
وَعَمْدَهٗ صَغِيرَهٗ وَكَبِيرَهٗ سِرَّهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ عَشْرَ خِصَالٍ
اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَسُورَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ
قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ
عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا عَشْرًا
ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا
عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُومَ
فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي اَرْبَعِ
رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ
مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي
عُمُرِكَ مَرَّةً دَقَ مُسْ حِبْ

صلوٰۃ التسبیح

ترجمہ: اور یہی کلمے ہیں جو صلوٰۃ التسبیح میں پڑھے جاتے ہیں (اور اس کے پڑھنے کی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس طرح ترغیب دی تھی۔

اے چچا عباس! کیا میں آپ کو ایسی دس باتیں نہ بتادوں؟ کہ آپ جب انھیں کریں تو (اس سے) اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، قصداً ہوا، چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ (سب گناہ) بخش دے (اور وہ دس باتیں یہ ہیں) کہ آپ چار رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں "الحمد للہ" اور سورۃ پڑھیں، پھر جب آپ پہلی رکعت میں قرأۃ سے فارغ ہوں تو قیام ہی کی حالت میں پندرہ مرتبہ سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہیں، پھر رکوع کریں تو حالتِ رکوع میں دس مرتبہ کہیں، پھر جب رکوع سے اپنا سر اٹھائیں تو قومہ میں دس مرتبہ کہیں، پھر سجدہ کریں تو سجدہ میں دس مرتبہ کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں (تو دونوں سجدوں کے درمیان) جلسہ میں دس بار کہیں، پھر دوسرا سجدہ کریں تو دس بار کہیں، پھر جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائیں تو (جلسۂ استراحت) میں دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے سے پہلے دس دفعہ کہیں، یہ ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوا، اسی طرح چاروں رکعتیں پوری کریں۔

اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ پڑھ سکیں تو ہر روز پڑھیں، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعہ میں نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ (ابوداؤد، ابن حبان، حاکم، ابن ماجہ (عن ابی رافع رضی اللہ عنہ)

شرح: عطیک: اعنحک، اجوک، افعل بک، ان کے معنی ہیں کیا میں تمہیں نہ دوں؟ نہ بتاؤں؟ وغیرہ۔ یہ سب ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں اور تاکید کے لئے انھیں ذکر کیا ہے۔

صلوٰۃ التسبیح کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

مترجم محمد عبدالعلیم ندوی درگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

اس نماز کے لئے کوئی وقت خاص نہیں ہے، بلکہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ جس وقت چاہے پڑھ لے۔

رنج و غم اور مصیبت و سختی کے لئے اس کا پڑھنا نہایت مفید ہے، حضرت ابو عثمان زاہدیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے رنج و غم اور مصائب و تکالیف دفع کرنے کے لئے صلوٰۃ التسبیح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی اور اکثر ائمہ اور بزرگان دین کا اس پر عمل رہا ہے۔

جمعہ کے روز دوپہر ڈھلے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اگر اس میں سجدہ سہو کی ضرورت ہوتو اس میں تسبیح نہ پڑھے، اس لئے کہ پھر گنتی تین سو سے زیادہ ہو جائے گی۔

امام غزالیؒ کتاب احیاء علوم الدین میں رقمطراز ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر قرأت سے

پہلے ان تسبیحات کو پندرہ بار پڑھے، اور قرأت کے بعد دس بار پڑھے پھر اور ارکان میں دس دس بار پڑھے اور دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھکر نہ پڑھے اور نہ دونوں قعدوں میں پڑھے، اور یہی طریقہ بہتر ہے۔

عبداللہ بن مبارک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور اگر ان تسبیحات کے ساتھ "لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" بھی ملاکر پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے۔ (حرر)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَهِيَ مَعَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَهُنَّ يَحُطْنَ الْخَطَايَا كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ط تُجْزِئُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُهُ مُصْ وَكَذٰلِكَ مَعَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي تُجْزِئُ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُهُ مَنْ اَخَذَهُ فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ دس وَهُنَّ اَيْضًا بِغَيْرِ الدُّعَاءِ مَعَ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ قِيْصَ عَلَيْهِنَّ مَلَكٌ فَضَمَّهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَصَعِدَ بِهِنَّ لَا يَمُرُّ بِهِنَّ عَلٰى جَمْعٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِلَّا اسْتَغْفَرُوْا وَالْقَائِلُ لَهُنَّ حَتّٰى يُحَيِّيَ بِهِنَّ وَجْهُ الرَّحْمٰنِ مَوْمُسْ

ترجمہ: اور یہ کلمات "لاحول ولا قوۃ الا باللہ" کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں تو باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ (یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں) اور یہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح درخت (موسم خزاں میں) اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے اور یہ (کلمات) جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ طبرانی (عن ابی الدرداء)

جو شخص قرآن مجید نہ پڑھ سکتا ہو یہ اس کے لئے قرآن کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ (عن ابن ابی اوفیٰ)

اور اسی طرح یہ کلمات "اللھم ارحمنی وارزقنی وعافنی واھدنی" کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں تو یہ بھی اس شخص کے لئے قرآن مجید کے قائم مقام ہو جاتے ہیں جو قرآن شریف نہ پڑھ سکتا ہو، اور جس نے اس کی پابندی کی اس نے اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ ابو داؤد، نسائی (عن عبداللہ بن ابی اوفیٰ)

اور نیز یہ کلمات، دعا (اللھم ارحمنی) کے بغیر اور لفظ "تبارک اللہ" کے ساتھ پڑھے جائیں، تو ان پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو ان کو اپنے پروں میں لیکر اوپر چڑھتا ہے اور جن فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گذرتا ہے وہ اس کے پڑھنے والے کے لئے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کلمات سے ذات الٰہی کی تعریف کی جاتی ہے (تاکہ پڑھنے والے کی طرف اس کی رحمت متوجہ ہو) اور اس کی خوشنودی حاصل ہو۔ حاکم موقوفاً (عن عبداللہ بن مسعودؓ)

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعًا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ فَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَمِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ ثَلٰثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ ثَلٰثُونَ سَيِّئَةً سَ أَمُسُ رَأَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ قَالَ كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا ذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ رَط

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سے چار کلمے انتخاب فرمائے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، جو شخص (ایک مرتبہ) سبحان اللہ کہتا ہے اسکے لئے بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی بیس برائیاں مٹادی جاتی ہیں، اور اسی طرح جو شخص "الحمد للہ رب العالمین" تہہ دل سے کہتا ہے، اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے تیس گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ نسائی، احمد، حاکم، بزار، (عن ابی سعید رضی اللہ عنہ و ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

(آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب کر کے فرمایا) کیا کوئی تم میں سے ہر روز اُحد پہاڑ کے برابر عمل نہیں کر سکتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ایسا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ کونسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا "سبحان اللہ" (کا ایک بار کہنا ثواب میں کوہ) اُحد سے بہت بڑھ کر ہے (اسی طرح) "الحمد للہ" ثواب میں اُحد سے بہت زیادہ ہے، اور (اسی طرح) "اللہ اکبر" کا اُحد سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ بزار، طبرانی (عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ)

یعنی ان کا کہنا ثواب میں اُحد پہاڑ سے کہیں زیادہ ہے۔

سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی فضیلت

سُبْحَانَ اللّٰهِ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةَ فَرَسٍ مُّسَرَّجَةٍ مُّلْجَمَةٍ تُحْمَلُ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِائَةً تَعْدِلُ مِائَةَ بَدَنَةٍ مُّقَلَّدَةٍ مُّتَقَبَّلَةٍ س ق مُس ط مُص تُخْرُ بِهَلَّةً ط وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ س ق مُس اَ ط جخ جخ مخ مِمَّآ اَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ س حِبْ مُس رَا ط اِنَّ مِمَّا تَذْكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا اَمَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَوْ لَا يَزَالُ مَنْ يُّذَكِّرُ بِهٖ ق مُس اِسْتَكْثِرُوْا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ س حِبْ

ترجمہ: "سبحان اللہ" سو بار کہنے کا ثواب حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی نسل کے سو غلام آزاد کر دینے کے برابر ہے اور الحمد للہ سو بار کہنے کا ثواب ایسے سو گھوڑوں کے برابر ہے جو سجے ہوئے ہوں، اور ان پر جہاد میں غازیوں کو سوار کیا جائے، اور "اللہ اکبر" سو بار کہنے کا ثواب ان سو مقبول اونٹوں کے (ذبح کئے جانے) کے برابر ہے جن کی گردن میں قربانی کا پٹہ پڑا ہوا ہو۔ نسائی، ابن ماجہ، طبرانی،

ابن ابی شیبہ (عن ام اوفیؓ)

(طبرانی کی ایک روایت میں ہے "اللہ اکبر" سو بار کہنے کا ثواب ان دمقبول) اونٹوں کے برابر ہے جن کی گردن میں پٹہ پڑا ہوا ہو اور) وہ مکہ میں ذبح کئے جائیں۔

اور لا الہ الا اللہ (کا ثواب) آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، حاکم، احمد، طبرانی (عن ام ہانیؓ)

واہ وا! واہ وا! (یہ) پانچ چیزیں میزان (قیامت) میں کسقدر وزنی ہیں؟ "لا الہ الا اللہ" "سبحان اللہ"، "والحمد للہ"، "واللہ اکبر" اور مسلمان کا وہ نیک بچہ جو مرجائے اور وہ اس پر ثواب کی خاطر صبر کرے اور آہ وزاری نہ کرے۔ نسائی، ابن حبان، حاکم، بزار، احمد، طبرانی، (عن ام سلیمؓ)

بیشک جن چیزوں سے تم اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہو انہی میں سے "سبحان اللہ" "ولا الہ الا اللہ" "والحمد للہ" ہیں، اور وہ عرش الٰہی کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح ہوتی ہے، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی یاد (اللہ کو) دلاتے ہیں، کیا کوئی تم میں سے یہ پسند نہیں کرتا کہ ایسا ہو؟ یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ ابن ماجہ، حاکم (عن نعمان ابن بشیرؓ)

باقیات الصالحات (باقی رہنے والی نیکیوں) میں سے اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کو بکثرت پڑھو۔ نسائی، ابن حبان (عن ابی سعید الخدریؓ)

شرح: یعنی ان تسبیحات کے پڑھنے کی پابندی کرو جس سے تمہارا ہمیشہ عرش الٰہی پر ذکر رہے۔

قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ
ع اَرَطْ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اَطْ سَ غِرَاسُ الْجَنَّةِ
حِبْ اَطْ وَتَقَدَّمَ اَنَّهَا دَوَآءٌ مِّنْ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ دَآءً اَيْسَرُهَا
الْهَمُّ مُسْ طَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُهَا فَقَالَ
اَتَدْرِيْ مَا تَفْسِيْرُهَا قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ عَنْ
مَّعْصِيَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِعِصْمَةِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِعَوْنِ
اللّٰهِ رَ وَهِيَ مَعَ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ
سَ رَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ سَ مُدْ مُصْ

ترجمہ: لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحاح ستہ، احمد، بزار، طبرانی (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ احمد، طبرانی، نسائی (عن معاذ بن جبلؓ)

جنت کا ایک درخت ہے۔ (ابن حبان، احمد، طبرانی (عن ابی ایوب الانصاریؓ)

اور یہ اوپر گذر چکا ہے کہ یہ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے زیادہ آسان بیماری غم ہے۔ حاکم طبرانی، (عن ابی ہریرہؓ) ——— (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں) میں نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا (اتفاقاً) میں نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہا۔ آپؐ نے فرمایا تم جانتے ہو اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی حفاظت کے بغیر کوئی شخص گناہ اور معصیت سے نہیں بچ سکتا، اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص کسی قسم کی نیکی نہیں کر سکتا۔ بزار (عن ابن مسعودؓ) ——— اور یہ کلمہ ولا منجا من اللہ الا الیہ (اللہ کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں) کے ساتھ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نسائی، بزار (عن ابی ہریرہؓ)

جس شخص نے کہا میں اللہ کے پروردگار اور محمدؐ کے پیغمبر اور اسلام کے دین ہونے کو دل سے پسند کرتا ہوں، اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ نسائی، مسلم، ابو داؤد، ابن ابی شیبہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ کی فضیلت

مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
اِنِّيْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ
اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ
فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ تُقَرِّبْنِيْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِيْ مِنَ الْخَيْرِ
وَاِنِّيْ لَا اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّيْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْنِيْهِ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ لِمَلٰٓئِكَتِهٖ اِنَّ عَبْدِيْ عَهِدَ عِنْدِيْ عَهْدًا فَاَوْفُوْهُ اِيَّاهُ
فَيُدْخِلُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ سُهَيْلٌ فَاَخْبَرْتُ الْقَاسِمَ
ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَوْفًا اَخْبَرَنِيْ بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ مَا فِيْ اَهْلِنَا
جَارِيَةٌ اِلَّا وَهِيَ تَقُوْلُ هٰذَا فِيْ خِدْرِهَا اَوْ لَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ
وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ
رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ
لَقَدِ ابْتَدَرَهَا عَشَرَةُ اَمْلَاكٍ كُلُّهُمْ حَرِيْصٌ عَلٰى اَنْ يَّكْتُبُوْهَا
فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوْنَهَا حَتّٰى رَفَعُوْهَا اِلٰى ذِي الْعِزَّةِ فَقَالَ
اُكْتُبُوْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِيْ حِبْ مُسْ

ترجمہ: جو شخص کہے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے میں تجھ سے اس زندگی میں (یہ) عہد کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو (اپنی صفات میں) یکتا و یگانہ ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم تیرے بندے

اور تیرے رسول ہیں، اب اگر تو مجھے میرے نفس (اور خواہشات کے) سپرد کر دے گا، تو تو مجھے شر (اور برائی) سے قریب اور خیر (اور بھلائی) سے دُور کر دے گا اور میں تو تیری ہی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس لئے تو مجھ سے ایسا عہد کرلے جسے قیامت کے روز پورا فرمائے گیونکہ تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالےٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے نے مجھ سے ایک عہد کر رکھا ہے اُسے پورا کرو چنانچہ اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔

حضرت سُہیلؒ کہتے ہیں میں نے حضرت قاسمؒ بن عبدالرحمٰنؒ سے کہا کہ حضرت عوفؓ نے مجھے ایسی ایسی (حدیث) سنائی تو حضرت قاسمؒ نے کہا ہمارے گھر میں تو کوئی لڑکی بھی ایسی نہیں جو اپنے پردہ کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کو نہ پڑھتی ہو (یعنی یہ مشہور حدیث ہے ہمارے یہاں تو ہر چھوٹا بڑا اسے جانتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے) احمد (عن ابن مسعودؓ)

ایک شخص نے آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں "الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ" (اللہ ہی کے لئے تعریف ہے بہت پاک مبارک تعریف جس سے ہمارا پروردگار راضی اور خوش ہو) کہا تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، دس فرشتے ان کلمات کی طرف لپکے اور ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ میں (ان کا ثواب) لکھ لوں، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ کس طرح لکھیں یہاں تک کہ انھیں رب العزت کی طرف لے گئے تو اللہ تعالےٰ نے فرمایا انہیں اسی طرح لکھو جس طرح مخلص کے ساتھ میرے بندے نے کہے ہیں۔ ابن حبان، حاکم (عن انسؓ)

شرح: حضرت سہیلؒ تبع تابعی ہیں اور حضرت قاسمؒ بن عبدالرحمٰنؒ اور حضرت عوفؓ تابعی ہیں

وَتَقَدَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ خ س اِنِّیْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ
ص وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِی الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ص طس اَكْثَرَ
مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً خ س ق طس مِائَةَ مَرَّةٍ طس مص
تُوْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ فَاِنِّیْ اَتُوْبُ اِلَيْهِ فِی الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ عق
مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِی الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً دَ اِنَّهٗ
لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِیْ وَاِنِّیْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِی الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ م مُدَ س

ترجمہ: سید الاستغفار کی فضیلت اوپر بیان ہو چکی۔ بخاری، نسائی (عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ) آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے دن میں ستر مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ابو یعلے، طبرانی فی الاوسط (عن انس رضی اللہ عنہ) (اور ایک روایت میں ہے) ستر بار سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بخاری، نسائی، ابن ماجہ طبرانی فی الاوسط (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ) (اور ایک روایت میں ہے) سو بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ طبرانی فی الاوسط، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ) (حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا) اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کرو میں بھی اس کے سامنے دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں۔ ابو عوانہ (عن ابن عمر رضی اللہ عنہ) جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ اگرچہ دن میں ستر بار گناہ کرے۔ ابو داؤد (عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ) ——— آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (دنیاوی مشاغل کی بنا پر) میرے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے (اس لئے) میں اللہ سے دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں مسلم، ابو داؤد، نسائی (عن الاغر المزنی رضی اللہ عنہ)

شرح: آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دل ہر لحظہ جناب باری تعالیٰ میں حاضر رہے، اور کسی وقت بھی غافل نہ ہو، لیکن چونکہ دنیا کے ہادی اور رہنما تھے اس لئے دنیا کو ہر ہر چیز کر کے دکھانی تھی اس لئے کھانے پینے اور گھریلو زندگی کی وجہ سے جو فی الجملہ غفلت ہو جاتی ہے، اس کو آپ اپنی نسبت سے پردہ اور گناہ فرماتے ہیں یہ محض امت پر رحمت اور شفقت کی بنا پر ہے، ورنہ آپ کی ذات اقدس تو اس سے مبرا اور منزہ ہے، یہ صرف امت کی تعلیم کے لئے ہے کہ ہر وقت دل اللہ کی یاد میں لگا رہے اور اگر ذرا بھی غفلت ہو جائے تو اس پر استغفار کرے۔ حالانکہ ہماری تو استغفار بھی استغفار کی محتاج ہے۔ ع ہست استغفار ما محتاج استغفار ما۔

استغفار کا بیان

وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ لَوْ اَخْطَأْتُمْ حَتّٰی تَمْلَأَ خَطَایَاکُمْ مَا بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللّٰہَ لَغَفَرَ لَکُمْ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِہٖ لَوْلَمْ تُخْطِئُوْا لَجَآءَ اللّٰہُ بِقَوْمٍ یُخْطِئُوْنَ ثُمَّ یَسْتَغْفِرُوْنَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ اَصِ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَذَھَبَ اللّٰہُ بِکُمْ وَلَجَآءَ بِقَوْمٍ یُّذْنِبُوْنَ فَیَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰہَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللّٰہَ غَفَرَ اللّٰہُ لَہٗ تِ سَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَسُرَّہٗ صَحِیْفَتُہٗ فَلْیُکْثِرْ فِیْھَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ طَسْ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ یَعْمَلُ ذَنْبًا اِلَّا وَقَفَ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِاِحْصَآءِ ذُنُوْبِہٖ ثَلٰثَ سَاعَاتٍ فَاِنِ اسْتَغْفَرَ اللّٰہَ مِنْ ذَنْبِہٖ ذٰلِکَ فِیْ شَیْءٍ مِّنْ تِلْکَ السَّاعَاتِ لَمْ یُوْقِفْہُ عَلَیْہِ وَلَمْ یُعَذِّبْ بِہٖ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ مُسْ

ترجمہ: اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم سے اس قدر گناہ اور خطائیں سرزد ہوں جس سے آسمان و زمین بھر جائے، اور پھر تم اللہ سے مغفرت چاہو تو اللہ ضرور مغفرت فرما دے گا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر تم خطا نہ کرو تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ اور خطائیں کرینگے پھر اللہ سے مغفرت چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت فرما دے گا۔ احمد، بولیعلے (عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ)

اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوئے تو اللہ تمہیں اٹھالے گا اور ایسی قوم پیدا کریگا جو گناہ کر کے استغفار کریگی اور وہ بخشے گا۔ مسلم (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

جو شخص اللہ سے استغفار کریگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیگا۔ ترمذی، نسائی (عن ابن عمر رضی اللہ عنہ)

اور جو یہ چاہتا ہو کہ (قیامت کے دن) اس کا نامۂ اعمال اُسکو خوش کردے تو اس کو کثرت سے استغفار کرنی چاہیئے۔ جو کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے، تو وہ فرشتہ جو اسکے گناہ لکھنے پر مقرر ہے (اس کے لکھنے سے) تین گھڑی (یعنی کچھ دیر) ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے اس عرصہ میں اپنے گناہ سے استغفار کرلی تو وہ فرشتہ (آخرت میں) اس گناہ کی اُسے اطلاع نہیں دے گا، اور نہ قیامت کے روز اس پر اُسے عذاب دیا جائے گا۔ حاکم (عن ام عصمہ العصریہ رضی اللہ عنہا)

إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي أَصِ وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاذُنُوبَاهُ مُسْ مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللهِ فِي يَوْمٍ صَحِيفَةً فَيَرَى فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِهَا اسْتِغْفَارًا إِلَّا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيِ الصَّحِيفَةِ رَمَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً ط

ترجمہ: شیطان نے اپنے پروردگار عزوجل سے کہا قسم ہے تیری عزت اور جلال کی میں ہمیشہ بنی آدم کو جب تک اُن میں جان باقی رہے گی برابر بہکاتا رہوں گا، تو پروردگار نے اس سے فرمایا مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم ہے میں بھی انھیں برابر بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ احمد، ابو یعلے (عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ)

اور اس شخص کی حدیث جو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگا تھا ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ!، (صلوٰۃ التوبہ میں) پہلے گذر چکی۔ حاکم (عن جابر رضی اللہ عنہ)

(آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اُس سے بھی استغفار کے لئے فرمایا تھا)

کراماً کاتبین جب کسی دن اللہ تعالےٰ کے سامنے (کسی بندہ کے) نامۂ اعمال پیش کرتے ہیں اور وہ اس نامۂ اعمال کے اوّل و آخر میں استغفار دیکھتا ہے تو اللہ تبارک وتعالےٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ اور قصور معاف کردیے جو اس نامۂ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ بزار (عن انس رضی اللہ عنہ)

جو کوئی تمام مؤمن مرد اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالےٰ اس کے لئے ہر مؤمن مرد اور عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ طبرانی (عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ)

شرح : حافظین کے لغوی معنی ہیں محافظ، یہاں کراماً کاتبین مراد ہیں، ایک فرشتہ آدمی کے داہنی طرف مقرر ہے جو نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بائیں طرف جو برائیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ داہنی طرف والے فرشتہ کے ماتحت ہے، آدمی جب نیکی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ فوراً دس گنا کر کے لکھ لیتا ہے اور اگر آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ داہنی جانب والے سے اجازت لیتا ہے وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھیرو شاید وہ توبہ کرلے، جب تین بار وہ اجازت چاہتا ہے اور بندہ اس اثنا میں استغفار نہیں کرتا تو وہ اجازت دیتا ہے کہ اب لکھ لو۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَتَقَدَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ وَمَنْ اَكْثَرَ مِنْهُ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ
كُلِّ ضِيْقٍ مَّخْرَجًا اَلْحَدِيْثَ دَسَ قَ حِبْ وَتَقَدَّمَ مَنِ اسْتَغْفَرَ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ يَوْمٍ اَلْحَدِيْثَ طَ وَتَقَدَّمَ حَدِيْثُ
الرَّجُلِ الَّذِيْ جَآءَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا
يُذْنِبُ قَالَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ قَالَ يُغْفَرُ لَهٗ طَسَ
طَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ
لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَالِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ
عَنَانَ السَّمَآءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِيْ
بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ
بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً تٍ اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ
ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ رَبُّهٗ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ
وَيَاْخُذُ بِهٖ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ
ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اٰخَرَ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِيْ
اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهٖ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ
مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ
فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِيْ اَنَّ لَهٗ رَبًّا يَّغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهٖ غَفَرْتُ
لِعَبْدِيْ ثَلٰثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَآءَ خ مُرْسَ

ترجمہ: اور یہ پوری حدیث (غم کی دعاؤں میں) اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے اور جو شخص کثرت سے استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمادے گا۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان (عن ابن عباسؓ)

اور یہ پوری حدیث بھی کہ جو کوئی ہر روز مومن مرد اور عورتوں کے لئے مغفرت طلب کریگا (سونے کے وقت کے بیان میں) اوپر گذر چکی ہے۔ طبرانی (عن ابی ذرؓ)

اور نیز اس آدمی کی حدیث جس نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا تھا ہم میں سے ایک شخص گناہ کرتا ہے، آپؐ نے فرمایا وہ اس کے نامہ لکھ دیا جاتا ہے، اس شخص نے کہا پھر وہ اس سے استغفار کرلیتا ہے، آپؐ نے فرمایا اس کی مغفرت کردی جاتی ہے (تفصیل کے ساتھ نماز توبہ میں) بیان ہو چکی ہے۔ طبرانی فی الاوسط، طبرانی فی الکبیر (عن عقبہ بن عامرؓ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! جب تک تو مجھ سے دعا مانگے گا اور امید رکھے گا میں تجھے بخشوں گا خواہ تیری کچھ بھی حالت ہو اور میں پرواہ نہیں رکھتا اے آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ (زمین سے) آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں تیری مغفرت کردوں گا، اے آدم کے بیٹے! اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے اور پھر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں تیرے پاس زمین بھر کر مغفرت لاؤنگا۔ ترمذی، (عن انسؓ) (احمد، دارمی، (عن ابی ذرؓ)

ایک بندہ گناہ کرکے کہتا ہے اے رب! میں نے گناہ کرلیا تو اسے بخش دے، تو پروردگار (فرشتوں سے) فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے؟ کہ اس کا کوئی رب ہے؟ جو گناہ بخشتا ہے، اور گناہ پر اس کی پکڑ کرتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ کی مشیت ہے گناہ سے باز رہتا ہے، پھر گناہ سرزد ہوتا ہے تو کہتا ہے اے رب! میں نے دوسرا گناہ کیا تو میری مغفرت فرمادے، اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتا ہے، کیا میرے بندہ کو یہ معلوم ہے؟ کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کردی۔ پھر جب تک اللہ چاہے بندہ گناہ سے باز رہتا ہے پھر اس کے بعد گناہ سرزد ہوتا ہے، تو کہتا ہے، اے رب! میں نے ایک اور گناہ کیا تو مجھے معاف فرمادے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرے بندہ کا یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی سزا دیتا ہے، میں نے اپنے بندہ کو تین بار بخش دیا پس جو چاہے عمل کرے۔ بخاری مسلم، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ)

شرح: لفظ ثلاثاً سے راوی نے نکرہ بیان کی ہے یعنی بندہ اور اللہ تعالیٰ کا سوال وجواب حدیث میں تین بار ہے اور تعلیم آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تک بندہ استغفار کرتا رہے جو چاہے کیا کرے، بشرطیکہ اپنے گناہوں پر نادم رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادے گا۔

اس سے استغفار کی فضیلت مقصود ہے کہ اس گناہوں کی بخشش میں کیا تاثیر ہے، اور عنایت الٰہی کا کمال ظاہر کرنا ہے نہ یہ کہ گناہوں کی اجازت دینی ہے جیسے شاعر کہتا ہے:-

ہو گیا ہوں ساری دنیا کے گناہوں میں شریک ✻ جب سے میں نے یہ سنا ہے تیری رحمت عام ہے

طُوبٰی لِمَنْ وَّجَدَ فِیْ صَحِیْفَتِهٖ اِسْتِغْفَارًا کَثِیْرًا ق وَتَقَدَّمَ حَدِیْثُ الَّذِیْ شَکَا اِلَیْهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَرَبَ لِسَانِهٖ فَقَالَ اَیْنَ اَنْتَ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ مُصْ وَکَیْفِیَّةُ الْاِسْتِغْفَارِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مُؤْمِنٌ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ غُفِرَ لَهٗ وَاِنْ کَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ دَتِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تِ جِبْ مُوْطَ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهٗ وَاِنْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ مُصْ وَاِنْ کُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَتُبْ عَلَیَّ اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ مِائَةَ مَرَّةٍ عَهْ جِبْ

ترجمہ: مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامۂ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ ابن ماجہ (عن عبداللہ بن بسرؓ)

اور اس شخص کی یہ حدیث جس نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے اپنی تیز زبانی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تھا، تم استغفار نہیں پڑھتے؟ اوپر گذر چکی۔ ابن ابی شیبہ، ابن سنی، (عن حذیفہؓ)

اور استغفار پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہے میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ مسلم موقوفاً (عن الاوزاعیؒ)

جو شخص کہے میں اس اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور توانا ہے اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگ گیا ہو۔ ابوداؤد، ترمذی (عن زیدؓ)

جو شخص "استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ" تین بار، ترمذی، ابن حبان، طبرانی۔ موقوفاً (عن زیدؓ وعن ابن مسعودؓ) یا پانچ بار کہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

استغفار کی فضیلت

ابن ابی شیبہ (عن ابی سعید رضی اللہ عنہ)

(صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں) ہم ایک مجلس میں، حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کی (استغفار) "رب اغفرلی وتب علی انک انت التواب الرحیم" اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرمالے۔ بیشک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، سو بار شمار کیا کرتے تھے۔ سنن اربعہ، ابن حبان (عن ابن عمر رضی اللہ عنہ)

شرح: میدان جہاد سے بھاگ جانا بہت ہی بڑا گناہ ہے مگر استغفار سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمادیتا ہے، ہر شخص کو استغفار کی پابندی کرنی چاہیے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَا اَحْسَنَ قَوْلَ الرَّبِیْعِ بْنِ خُثَیْمٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ لَا یَقُلْ اَحَدُکُمْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ فَیَکُوْنُ کَذِبًا وَّکَذِبًا بَلْ یَقُوْلُ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَتُبْ عَلَیَّ وَلَیْسَ کَمَا فَھِمَ بَعْضُ اَئِمَّتِنَا اَنَّ الْاِسْتِغْفَارَ عَلٰی ھٰذَا الْوَجْہِ یَکُوْنُ کَذِبًا بَلْ ھُوَ ذَنْبٌ فَاِنَّہٗ اِذَا اسْتَغْفَرَ عَنْ قَلْبٍ لَاہٍ لَا یَسْتَحْضِرُ طَلَبَ الْمَغْفِرَۃِ وَلَا یَجِدُّ اِلَی اللّٰہِ بِقَلْبِہٖ فَاِنَّ ذٰلِکَ ذَنْبٌ عِقَابُہُ الْحِرْمَانُ وَھٰذَا کَقَوْلِ رَابِعَۃَ اِسْتِغْفَارُنَا یَحْتَاجُ اِلٰی اِسْتِغْفَارٍ کَثِیْرٍ وَاَمَّا اِذَا قَالَ اَتُوْبُ اِلَی اللّٰہِ وَلَمْ یَتُبْ فَلَا شَکَّ اَنَّہٗ کَذِبٌ وَّاَمَّا الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَۃِ وَالتَّوْبَۃِ فَاِنَّہٗ وَاِنْ کَانَ غَافِلًا فَقَدْ یُصَادِفُ وَقْتًا فَیُقْبَلُ فَمِنْ اَکْثَرِ طُرُقِ الْبَابِ یُوْشِکُ اَنْ یَّلِجَ وَیُوَضِّحُ ذٰلِکَ اِکْثَارُہٗ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِنْہُ مِائَۃَ مَرَّۃٍ وَّقَطْعُہٗ لِمَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ بِالْمَغْفِرَۃِ وَاِنْ کَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ مَرَّۃً اَوْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَھٰھُنَا قَدْ کُشِفَ لَکَ الْغِطَاءُ فَاخْتَرْ لِنَفْسِکَ مَا یَحْلُوْ وَفِیْ کِتَابِ الزُّھْدِ عَنْ لُقْمَانَ عَوِّدْ لِسَانَکَ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ فَاِنَّ لِلّٰہِ سَاعَاتٍ لَا یَرُدُّ فِیْھِنَّ سَائِلًا

ترجمہ: حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ کوئی تم میں سے "استغفر اللہ واتوب الیہ" میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں، نہ کہے تاکہ یہ گناہ

اور جھوٹ ہو جائے بلکہ "اللھم اغفرلی وتب علی" اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے، کہے۔

اور اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو ہمارے بعض ائمہ کرام نے سمجھے ہیں کہ "استغفر اللہ" کہنا جھوٹ ہے، بلکہ "استغفر اللہ" کہنا گناہ ہے، کیونکہ جب کوئی شخص غفلت کے ساتھ مغفرت مانگے، اور مغفرت چاہنے میں حضور قلب نہ ہو اور نہ دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا صرف محرومی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا ہے کہ ہماری استغفار بھی سینکڑوں استغفار کی محتاج ہے یعنی ہست استغفار ما محتاج استغفار ما۔

اور جب "اتوب الی اللہ" میں اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کہے اور (دل سے) توبہ نہ کرے تو اس میں کچھ شک نہیں یہ جھوٹ ہے۔

لیکن مغفرت اور توبہ کی دعا "اللھم اغفرلی وتب علی" اگرچہ وہ غفلت ہی سے ہو مگر کبھی قبولیت کے اوقات میں کر لی جاتی ہے، تو مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی بار بار در وازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی اندر پہنچ ہی جاتا ہے، اور اس کا بہتر ہونا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں سو بار فرمایا کرتے تھے۔

اور جو شخص ایک بار یا تین بار "استغفر اللہ واتوب الیہ" کہے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو، تو آپ نے اس کی مغفرت کا یقینی اور قطعی حکم فرمایا ہے۔

بس اب تمہارے لئے نقاب اٹھا دی گئی ہے، جسے تو اپنے لئے بہتر سمجھو اختیار کر لو۔

کتاب الزہد میں حضرت لقمانؑ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، "اپنی زبان کو "اللھم اغفرلی" کا خوگر بناؤ" کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی ساعتیں ہیں جن میں وہ سائل کو محروم نہیں کرتا۔

شرح: اس لئے کہ توبہ اور استغفار کے وقت جو ندامت اور حضور قلب کا وقت ہے، غفلت کرنا حقیقت میں ہنسی اور بے ادبی ہے اور لفظ "استغفر اللہ" سے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کی خبر دینی ہے، جب حقیقت میں طلب نہ ہوئی تو یہ کہنا جھوٹ ہوا، اور گناہ سے یہاں شرعی گناہ مراد نہیں ہے بلکہ طریقت کی تقصیر اور بے ادبی اور مقام حضور سے غفلت مراد ہے کیونکہ اہل طریقت غفلت کو بھی معصیت سمجھتے ہیں خصوصاً توبہ اور استغفار کے وقت جس میں خشوع اور خضوع نہایت ضروری ہے۔

حضرت ملا علی قاریؒ رقمطراز ہیں کہ یہ شرعی گناہ نہیں بلکہ مقربین بارگاہ الٰہی کی نسبت تقصیر و کوتاہی ہے جس طرح "حسنات الابرار سیئات المقربین" ہے اچھے لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

علامہ تاج الدین سبکیؒ فرماتے ہیں استغفار کرنے سے ہر حالت میں فائدہ ہے، مگر حضور قلب کے ساتھ نور علیٰ نور ہے اور کمال کے جھوٹے سے گناہ لازم نہیں آتا، کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کوئی اللہ کو

یا کرے یا زبان سے بلا حضور قلب کے استغفار پڑھے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا بلکہ اپنے بعض اعضاء کے اعتبار سے عابد ہی ہوتا ہے۔

علامہ نووی نے کتاب الاذکار میں جو ربیع کا قول نقل کر کے شبہ ظاہر کیا ہے کہ "استغفر اللہ" کی کراہت اور اس کا جھوٹ ہونا میں نہ سمجھ سکا تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں کہ:

"ربیع کے قول گناہ اور کذب میں لف ونشر ہے کہ غفلت سے استغفار پڑھنے میں گناہ لازم آتا ہے اور غفلت کے ساتھ توبہ کرنے میں جھوٹ لازم آتا ہے، اس لئے کہ مومن ہمیشہ مغفرت کا طالب ہوتا ہے، اگرچہ غفلت کی وجہ سے بعض اوقات اسے خبر نہ ہو، تو جو شخص غفلت کے ساتھ مغفرت مانگ رہا ہے وہ سچا ہے کیونکہ واقع میں طلب اس میں ہے اگرچہ اس وقت حضور نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ "استغفر اللہ" کہنے میں جھوٹ نہ ہوگا بلکہ غفلت کا گناہ ہوگا، اور "اتوب الیہ" کو غفلت سے کہنے میں جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے رجوع کا بیان ہے اور رجوع کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔

اس سے علامہ نووی نے جو مطلق جھوٹ لازم آنا سمجھ کر اعتراض کیا تھا وہ جاتا رہا۔

"بالمغفرۃ" کا تعلق قطعہ سے ہے، یعنی قطعی اور یقینی اس کی بخشش کا حکم فرمایا ہے۔

"مرۃ او ثلاث مرات" فرمن الزحف سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، اور من قال سے بھی فرمن الزحف سے متعلق ہوگا تو اس کے یہ معنی ہوں گے، اگرچہ وہ ایک بار یا تین بار میدان جنگ سے بھاگا ہو تب بھی اس کی قطعی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر من قال کے متعلق ہوگا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس شخص نے ایک بار یا تین بار "استغفر اللہ واتوب الیہ" کہا ہو، تب بھی یقیناً اس کی مغفرت ہو جائے گی

آدابِ تلاوتِ قرآن

استماع وانصات وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

(اعراف رکوع ۲۴)

اور (لوگو) جب قرآن پڑھا جایا کرے (یعنی پیغمبر تم کو قرآن سناتے ہوں) تو (کان نہ لگاؤ بلکہ) اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، عجب نہیں (اس کی برکت سے) تم پر رحم کیا جائے۔

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ اُولٰۗىِٕكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۭ

(احقاف رکوع ۴)

اور (اے پیغمبر ان لوگوں سے اس وقت کا بھی ذکر کرو) جب ہم چند جنوں کو (گھیر کر) تمہاری طرف لے آئے کہ وہ قرآن سنیں پھر جب وہ اس (موقع) پر آحاضر ہوئے، تو (ایک دوسرے سے) بولے کہ چپ (بیٹھے) سنتے، رہو (پھر جب قرآن کا پڑھنا) تمام ہوا تو وہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ گئے کہ اُن کو (عذابِ الٰہی سے) ڈرائیں اور اُن سے جاکر) لگے کہنے کہ بھائیو! ہم ایک کتاب سُن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی (تمام) اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے (دین) حق (بتاتی) اور سیدھا رستہ دکھاتی ہے، بھائیو! (یہ پیغمبر محمدؐ) جو اللہ کی طرف سے منادی کرتے ہیں اِن کی بات مانو اور اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اور (آخرت کے) عذاب دردناک سے تم کو (اپنی) پناہ میں رکھے اور (یہ پیغمبر) جو اللہ کی طرف سے منادی کرتے ہیں جو کوئی ان کی بات نہ مانے گا وہ روئے زمین پر (کہیں) کو بھاگ کر اللہ کو (تو) عاجز کر سکتا نہیں اور نہ اللہ کے سوا (کوئی) اس کے حمایتی ہیں، ایسے لوگ صریح گمراہی میں (پڑے) ہیں۔

قرآن مجید کا حق ہے کہ تلاوت کے وقت چھ باتوں کی رعایت کی جائے۔

ایک یہ کہ تعظیم سے پڑھے اور تعظیم سے پڑھنے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے وضو کرے پھر قبلہ رُخ بیٹھے اور نہایت عجز وانکسار کے ساتھ مصروفِ تلاوت ہو، اور اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو تو باادب خاموشی سے سنے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، اُسے حرف حرف پر سو سو نیکیاں ملتی ہیں اور بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے، تو ہر ایک حرف پر پچاس نیکیوں کا ثواب پاتا ہے، اور نماز سے خارج باوضو تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف کے عوض پچیس پچیس نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، بے وضو پڑھتا ہے تو دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

ترتیل قرأت

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

(المزمل رکوع ۱)

(اے پیغمبر تم (جو روحی کی ہیبت سے) چادر لپیٹے پڑے ہو، رات (کے وقت نماز) میں کھڑے رہا کرو رسو وہ بھی ساری رات نہیں بلکہ) ساری رات سے کم یعنی آدھی رات یا اس میں سے (بھی) تھوڑا سا کم کر دیا کرو یا آدھی سے کچھ بڑھا دیا کرو اور قرآن کو خوب ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کرو۔

تدبر و تفکر

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۭ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝

(النساء رکوع ۱۱)

کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ کہیں سرِ مو فرق نہیں) اور اگر (قرآن) اللہ کے سوا (کسی اور) کے پاس سے (آیا) ہوتا تو ضرور اُس میں بہت سے اختلاف پاتے۔

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰي قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا۔ (محمد رکوع ۳)

کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) کو نہیں سوچتے یا دلوں پر تالے (لگے) ہیں۔

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ (ص رکوع ۳)

(اے پیغمبر! یہ قرآن بڑی) برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اُتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں (اس کے مطالب سے) نصیحت پکڑیں۔

دوسرے یہ کہ ٹھیر ٹھیر کر پڑھے اور مطالب میں خوب غور و تامل کرنا چاہئے، جلد ختم کرنے کا فکر نہ کرے۔

امام غزالیؒ احیاء علوم الدین میں رقمطراز ہیں "تورات میں آیا ہے کہ "خداوند فرماتا ہے، اے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ جب تیرے بھائی کا خط راستے میں پہنچتا ہے تو تو ٹھیر جاتا اور رستے سے الگ ہو کر پڑھنے بیٹھتا اور حرف حرف نہایت غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے یہ کتاب تورات میرا ایک فرمان ہے، جو میں نے تجھے لکھا اور حکم کیا کہ اس میں تا حد امکان غور و تامل کر اور اس کے قوانین کا پابند ہو، مگر تو اس سے انکار کرتا اور اس پر عمل کرنے سے جی چُراتا ہے، اور پڑھنا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا۔"

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کسی کو قرآن مجید جلدی جلدی پڑھتے دیکھا تو فرمایا شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اگر میں سورۂ زلزال اور قارعہ ٹھیر ٹھیر کر پڑھوں اور اُن کے مطالب میں غور و تامل سے کام لوں تو سورۂ بقرہ اور آل عمران کے جلدی پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔

تاثیر

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا

(اے پیغمبر) اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اُتارا ہوتا اور آدمی کی طرح اُس کو شعور بھی ہوتا، تو تم اس کو دیکھ لیتے کہ اللہ کے ڈر کے

مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○ (حشر رکوع ۳)

مارے جھک گیا (ہوتا اور) پھٹ پڑا ہوتا اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں)

تیسرے یہ کہ قرآن پڑھتے وقت روئے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت روؤ اور خود بخود رونا نہ آئے تو تکلف کرکے روؤ، یہ بھی فرمایا کہ قرآن رنج کے واسطے اترا ہے جب اس کی تلاوت میں مصروف ہو تو اپنے تئیں غمگین بناؤ، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ جو شخص قرآن کے احکام اور اس کے وعدہ وعید میں غور و تامل کرے گا اور اپنی عاجزی اور مسکنت اور بے حقیقی اور کوتاہی زیر نظر رکھے گا وہ خواہ نخواہ اندوہگیں ہوگا بلکہ اس پر غفلت نہ سوار ہو۔

چوتھے یہ کہ ہر ہر آیت کا حق ادا کرے اور ہر ہر آیت کے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیۂ وعید پر پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگے، آیۂ رحمت پر گذر ہو تو طالب رحمت ہو، تنزیہ کی آیت پڑھے تو اللہ کی تسبیح و تقدیس کرے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ تلاوتِ قرآن کے وقت آیۂ عذاب پر پہنچتے تو اللہ سے پناہ مانگتے، رحمت کی آیت پڑھتے تو طالب رحمت ہوتے تنزیہ کی آیت پر پہنچکر تسبیح کرتے اور قرآن شریف شروع کرتے وقت:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

میں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، پڑھتے۔

اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے:۔

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لِّيْ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

اے اللہ! قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم کر اور اسے میرے لئے مقتدا اور نور اور ہدایت اور رحمت کر الٰہی جو اس میں سے میں بھول گیا اسے مجھے یاد دلا اور جو میں نہیں جانتا مجھے سکھا اور اس کی تلاوت رات کی ساعتوں اور دن کی طرفوں میں میرے نصیب کر اور اے دونوں جہان کے پروردگار اسے میرے لئے حجت کر۔

قاری جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر سجدے میں جائے

پانچویں اگر ریا کا شبہ یا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ پڑھے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ چپکے چپکے قرآن مجید پڑھنا پکار کر پڑھنے پر ویسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے چپکے سے صدقہ دینا کھلم کھلا خیرات کرنے پر، وہاں اگر نمود و ریا اور کسی کی نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو پکار کر پڑھنا بہتر ہے تاکہ اور لوگ بھی مضامین قرآن سنکر مستفید ہوں اور اس کی ہمت جمع ہو، شوق بڑھے، آگاہی حاصل ہو، نیند بھاگے، سوتے جاگیں۔

آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضؓ کے مکان پر تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ نماز میں قرآن شریف چپکے چپکے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ تم آہستہ آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضؓ نے عرض کیا کہ جس سے میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضؓ کے پاس گئے اور ان کو چلا چلا کر قرآن پڑھتے دیکھا۔ فرمایا تم چلا چلا کر کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دونوں صاحبوں کی تصویب کی اور فرمایا تم دونوں اچھا کرتے ہو، معلوم ہوا کہ تمام اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں حضرات کی نیت بخیر تھی دونوں طرح پر مستحق تصویب ہوئے، قرآن دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے، تاکہ آنکھیں بھی ثواب سے محروم نہ رہیں، کہا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ دیکھ کر پڑھنا سات دفعہ حفظ پڑھنے کے برابر ہے، حفظ پڑھنے سے متشابہ لگنے کا خوف ہے اور متشابہ لگنے سے مطلب کے کچھ سے کچھ ہو جانے کا خوف ہے۔

چھٹے خوش آوازی سے پڑھنے کی کوشش کرے، جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو، ایک دفعہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ابوحذیفہ رضؓ کے غلام کو نہایت خوش آوازی سے قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ فِیْ اُمَّتِیْ مِثْلَهٗ اللہ کا شکر ہے جس نے میری اُمت میں ایسا شخص پیدا کیا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آواز جس قدر اچھی ہوگی قرآن کا اثر اتنا ہی زیادہ پڑے گا، لیکن کلمات وحروف میں بہت الحان کرنا جیسے قوالوں اور گویوں کی عادت ہے مکروہ ہے۔

یہ تلاوت کے آداب ظاہر تھے رہے آداب باطن وہ بھی چھ ہیں:-

اوّل یہ کہ کلام کی عظمت ذہن نشین کرے اور اسے اللہ کا کلام یقین کرے۔

دوسرے یہ کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے حق تعالیٰ کی عظمت دل میں ہو اور سمجھے کہ کس کا کلام پڑھتا ہے۔ کلام کی اور جس کا کلام ہے اس کی عظمت اور کلام کی حقیقت وہی دل پاتے ہیں جو اخلاق بد کی گندگی سے پاک اور ستھرے اور تعظیم و توقیر کے نور سے منور و آراستہ ہوتے ہیں یہی وجہ تھی کہ عکرمہ رضی اللہ عنہ جب مصحف کو کھولتے تو اُن پر غشی طاری ہو جاتی اور فرماتے کہ:

"هٰذَا كَلَامُ رَبِّیْ" "وہ میرے رب کا کلام ہے"

کوئی شخص قرآن کی عظمت نہیں جان سکتا تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت جب ہی دل میں سماتی ہے کہ آدمی اس کے صفات و افعال میں انتہا درجے کے غور و فکر سے کام لے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت دل حاضر رہے، غافل نہ ہو، وساوس نفس اُسے ادھر سے اُدھر نہ لئے پھریں اور جو کچھ غفلت کی حالت میں پڑھا اسے نہ پڑھنے کے برابر سمجھے کیونکہ قرآن مجید اصل میں ایمانداروں کا تماشہ گاہ ہے، اس میں بہت سے عجائبات اور حکمتیں موجود ہیں۔ اگر کسی

نے اس میں تامل و غور نہ کیا اس کی مثال بعینہ اس شخص کی سی ہے جو سیر کے لئے باغ میں تو پہنچا مگر اس کے عجائب و غرائب سے غافل رہ کر باہر چلا آیا، ایسے شخص کو اہل الرائے ضرور بے وقوف بتائیں گے تو جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے معنی نہ سمجھا اُسے بڑا کم نصیب اور محروم الخیر سمجھنا چاہئے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال رکھے تاکہ مضامین قرآن اچھی طرح سمجھ میں آجائیں اگر ایک مرتبہ کے پڑھنے سے نہ سمجھے تو دوسری اور تیسری دفعہ پڑھے اور کسی مضمون سے لذت حاصل ہو تو اسے مکرر کر کے پڑھے۔

حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم ایک شب نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے:۔

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

اگر تو ان کو عذاب دے تو (تجھ کو اختیار ہے) یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کرے تو (کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کیونکہ) بیشک تو ہی (سب پر) غالب (اور) حکمت والا ہے

حضرت سعید بن جبیرؓ نے آیت

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ○

اور (ہم گنہگاروں کو حکم دیں گے کہ) گنہگارو! آج (ان (نیکیوں سے) الگ رہو۔

میں ساری رات بسر کر دی۔ جو شخص ایک آیت پڑھے اور اس کی اگلی آیت کے معنی میں غور کرے اس نے پہلی آیت کا کچھ حق ادا نہیں کیا۔

حضرت عامر بن عبداللہ ہمیشہ وسواس کی شکایت کیا کرتے تھے، لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو دنیاوی وساوس ستاتے ہیں؟ جواب دیا کہ اگر میرے سینے میں زہر کی بجھی ہوئی چھریاں ماریں تو نماز میں دنیوی خیالات لانے سے یہ مجھے بہت آسان ہے، مجھے اکثر یہ خیال ہوا کرتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے آگے کیونکر کھڑا ہوں گا اور کس طرح وہاں سے لوٹوں گا۔

دیکھو! بزرگان دین اس طرح کے خیالات کو بھی وسوسہ جانتے تھے، پس آدمی کو مناسب ہے کہ جو آیت نماز میں پڑھے اُس کے معنی اور مطلب کے سوا اور کچھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال آیا اگرچہ وہ بات دینی ہی کیوں نہ ہو تو بھی وسواس ہے۔ آدمی کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے کہ ہر آیت میں اُسی کے معنی کی تصویر ذہن نشین رکھے اور دوسرے خیال کو پاس نہ آنے دے۔ مثلاً۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ہم نے آدمی کو مرکب نطفے سے پیدا کیا۔

تو نطفے کے عجائبات کا تصور کرے کہ ایک طرح کے پانی کے ایک قطرے سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، گوشت، پوست، ہڈی، رگ، پٹھے، سر، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، زبان وغیرہ

پانچواں ادب یہ ہے کہ قاری کا دل آیات کے اختلافِ معنی کے وقت صفاتِ مختلفہ کی طرف پھرتا رہے، مثلاً خوف کی آیت پر پہنچے تو دل پر خوف اور ہراس اور رقت غالب ہو، رحمت کی آیت پر گذرے تو دل میں فرحت اور انبساط پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا بیان ہو تو ہمہ تن تواضع اور تجسم انکسار ہو جائے کفار کے طعن آمیز اقوال سنے تو آواز نیچی کرلے اور شرم و خجالت کے لہجے میں پڑھے

چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح سنے کہ گویا حق تعالیٰ سے سنتا ہے اور فرض کرے کہ فی الحال اسی سے سنتا ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھے قرآن میں کچھ حلاوت اور لذت نہیں آتی تھی یہاں تک کہ میں نے فرض کرلیا کہ میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا ہوں، اس سے مجھے کچھ حلاوت میسر ہوئی پھر میں آگے بڑھا، اور فرض کیا کہ حضرت جبرئیل سے سنتا ہوں اس سے اور زیادہ حلاوت پائی اب اور آگے بڑھا اور عظیم الشان رتبے کو پہنچا چنانچہ اب میں اس طرح پڑھتا ہوں کہ گویا بے واسطے اللہ سے سنتا ہوں، اس وقت مجھے وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو اس سے پیشتر کبھی میسر نہیں ہوئی تھی ؛

toobaa-elibrary.blogspot.com

فَضْلُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَسُوَرٍ مِّنْهُ وَاٰيَاتٍ

اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِهٖ مُ يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَ مَسْاَلَتِيْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِي السَّآئِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى سَآئِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى خَلْقِهٖ تِ مِي تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَاقْرَؤُهٗ فَاِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهٗ فَقَرَاَهٗ وَقَامَ بِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ مُّلِئَ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهٗ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَثَلُ مَنْ يَّتَعَلَّمُهٗ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهٖ كَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِيَ عَلٰى مِسْكٍ تِ سَ قَ حِبْ

ترجمہ: قرآن عظیم اور اُس کی سورتوں اور آیتوں کی فضیلت

(حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے) قرآن مجید پڑھا کرو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا شفیع بن کر آئے گا۔ مسلم (عن ابی امامہؓ)

حق سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جس شخص کو قرآن مجید کی مشغولیت (یعنی تلاوت و تفہیم وغیرہ) کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو سب (دعائیں اور حاجتیں) مانگنے والوں سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہوں) اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ ترمذی، دارمی (عن ابی سعید الخدریؓ)

(حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے) قرآن شریف سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن مجید سیکھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے (یا نوافل میں پڑھنے والے) کی مثال اس مشک کی بھری ہوئی تھیلی کی سی ہے جس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہے اور اس شخص کی مثال جو قرآن شریف سیکھتا ہے

مگر عمل نہیں کرتا (یا سو جاتا ہے) حالانکہ وہ اس کے دل میں ہے، اس مشک کی تھیلی جیسی ہے جس کے اندر مشک تو ہے مگر اُس کا مُنہ بند ہے ——— ترمذی، (عن ابی ہریرۃ) نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان ؛

شرح ؛ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت و قرأت تعلیم و تعلّم اور تبلیغ و اشاعت غرض ہر طرح سے اسی کی خدمت میں مشغول رہا اور نہ ذکر کر سکا اور نہ اللہ سے کچھ حاجتیں مانگیں تو اللہ تعالےٰ اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز عنایت فرمائے گا ؛

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ ۞ لَا حَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ ۞ مُرِيْقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُ دَتِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهٖ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُهٗ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ اَجْرَانِ ۞ مُ

ترجمہ: جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ کم، دس گنا ثواب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا "الٓمٓ" ایک حرف ہے۔ بلکہ "الف" ایک حرف ہے، "لام" ایک حرف ہے "م" ایک حرف ہے۔ ترمذی (عن ابن مسعودؓ)

رشک کے دو ہی شخصوں پر ہے، ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا اور وہ دن رات اس پر عمل کرتا ہے (یا دن رات اس کو پڑھتا رہتا ہے) اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ دن رات (اس کی راہ رضا میں) اس کو خرچ کرتا ہے۔ بخاری مسلم (عن ابن عمرؓ)۔

قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائیگا پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں میں چڑھتا جا اور اسی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں (عمدہ آواز سے ٹھہر ٹھہر کر) پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام سب سے آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھے گا۔ ابوداؤد، ترمذی (عن ابن عمرؓ)

جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اور اس سے خوب واقف ہے تو وہ نیکیاں لکھنے والے بزرگ اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن مجید (اپنی زبان کی لکنت یا نہ جاننے کی وجہ سے) اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ بخاری مسلم (عن ابن عمرؓ)

شرح اہل نعمت والے کو دیکھ کر رشک کرنا صحیح نہیں مگر ایسی نعمت والوں کو دیکھ کر جن کی نعمت اللہ کے نزدیک اور محبوب کر دے، رشک کرنا صحیح اور درست ہے۔ مثلاً قاری، عالم، شہید اور مجاہد وغیرہ۔ **تو قلیل** خوش الحانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو کہتے ہیں۔

اَلْفَاتِحَةُ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِیْمُ خ د س ق اُعْطِیْتُ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مس بَیْنَا جِبْرَئِیْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِیْضًا مِّنْ فَوْقِہٖ فَرَفَعَ رَاْسَہٗ فَقَالَ ھٰذَا مَلَکٌ نَزَلَ اِلَی الْاَرْضِ لَمْ یَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْیَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَیْنِ اُوْتِیْتَھُمَا لَمْ یُؤْتَھُمَا نَبِیٌّ قَبْلَکَ فَاتِحَةُ الْکِتَابِ وَخَوَاتِیْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْھُمَا اِلَّا اُعْطِیْتَہٗ مُسْ

ترجمہ: سورۂ فاتحہ (الحمد) قرآن شریف کی سب سے بڑی (رتبہ والی) سورت ہے، (جس کا نام قرآن پاک میں) "سبع مثانی" اور "قرآن عظیم" ہے۔ بخاری، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

(حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے) مجھے "فاتحۃ الکتاب" عرش الٰہی کے نیچے سے عطا ہوئی ہے۔ حاکم (عن معقل بن یسارؓ)

اس اثنا میں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے (یکایک انھوں نے اوپر سے) ایک آواز سنی، اور سر اٹھا کر فرمایا "یہ ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا پھر اس فرشتہ نے سلام کیا اور کہا (یا رسول اللہ!) مبارک ہو! لیجئے یہ دو نور آپ کو دیئے گئے ہیں، اور (یہ نور) آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے، ایک سورۂ فاتحہ، دوسرے سورۂ بقر کی اخیر آیتیں، ان میں سے جو حرف آپ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا مسلم، نسائی،

سورۂ فاتحہ کی فضیلت

(عن ابن عباس)

شرح: ۱؎ السبع المثانی: سات آیتیں جو بار بار دوہرائی جاتی ہیں، الحمد کو سبع مثانی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی سات آیتیں ہیں، اور ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔

۲؎ القرآن العظیم: بڑا قرآن۔ الحمد کو قرآن عظیم مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے، کیونکہ یہ قرآن شریف کے تمام اصول مضامین کا خلاصہ ہے۔

۳؎ فاتحۃ الکتاب: کتاب کی ابتدا، الحمد کو "فاتحۃ الکتاب" اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کلام الٰہی کی سب سے پہلی سورت ہے جس سے کلام پاک کی ابتدا ہوتی ہے

اَلْبَقَرَةَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُقْرَأُ فِيْهِ الْبَقَرَةُ
مُتِّ سِ اِقْرَءُوْهَا فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَّتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَّ
لَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ مُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَّسَنَامُ الْقُرْاٰنِ الْبَقَرَةُ
تِ مُسْ حِبْ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهٗ
ثَلٰثَ لَيَالٍ وَّمَنْ قَرَأَهَا نَهَارًا لَمْ يَدْخُلِ الشَّيْطَانُ بَيْتَهٗ
ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ حِبْ اُعْطِيْتُ الْبَقَرَةَ مِنَ الذِّكْرِ الْاَوَّلِ مُسْ
اَلْبَقَرَةُ وَاٰلُ عِمْرٰنَ اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ
فَاِنَّهُمَا تَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا
غَيَايَتَانِ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ
عَنْ اَصْحَابِهِمَا مُ

ترجمہ: یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۂ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم، ترمذی، نسائی (عن ابی ہریرۃؓ)

سورۂ بقرہ پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا (اس پر عمل کرنا) برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اور جادوگر اور سست آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ مسلم (عن ابی امامہؓ)

ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورۂ بقرہ ہے۔ ترمذی، حاکم، ابن حبان (عن ابی ہریرۃؓ)

رات میں جو شخص سورۂ بقرہ پڑھے گا، شیطان اس کے گھر میں تین رات تک داخل نہیں ہوگا اور جو دن میں اسے پڑھے گا، شیطان اس کے گھر میں تین دن تک داخل نہیں ہوگا۔ ابن حبان (عن سہل بن سعدؓ)

(حضور انور صلے اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے) لوح محفوظ سے مجھے سورۂ بقرہ عطا فرمائی گئی ہے۔ حاکم (عن معقل بن یسارؓ)

سورۂ بقرہ کی فضیلت

دو چمکتی ہوئی سورتیں سورۂ بقرہ اور سورۂ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن دو ابر کے ٹکڑے، یا دو سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کے لئے اللہ تعالےٰ سے جھگڑیں گی مسلم (عن ابی امامۃؓ)

شرح: یعنی سورۂ بقرہ کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔

[1] **بَطَلَۃ:** باطل کی جمع ہے، جس کے معنی شیطان، جادوگر اور سست آدمی کے ہیں۔

[2] **سنام:** کے معنی اونٹ کی کوہان کے ہیں اس کی جمع اسمنۃ آتی ہے مگر اسے مرتبہ کی بلندی اور فضیلت کے موقع پر بھی بولتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے "فلان سنام قومہ" وہ اپنی قوم میں بڑا ہے یعنی قوم کی عزت و ناک

[3] **الذکر الاول:** کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں ایک لوح محفوظ دوسرے کتب سماویہ مثلاً توریت، زبور، انجیل وغیرہ۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ هِيَ اَعْظَمُ اٰيَةٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مُدَّهِيَ
سَيِّدَةُ اَيِ الْقُرْاٰنِ تِ حِبْ مُسْ لَا تَضَعُهَا عَلٰى
مَالٍ وَّلَا وَلَدٍ فَيَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حِبْ اٰلَا يَتَانِ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ
اٰخِرُ الْبَقَرَةِ لَا تَقْرَأَنِ فِيْ دَارٍ ثَلٰثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ
تِ سَ حِبْ مُسْ اِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ الْبَقَرَةَ بِاٰيَتَيْنِ اَعْطَانِيْهِمَا
مِنْ كَنْزِهِ الَّذِيْ تَحْتَ عَرْشِهِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ
نِسَاءَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ فَاِنَّهَا صَلٰوةٌ وَّقُرْاٰنٌ وَّدُعَاءٌ
مُسْ اَلْاَنْعَامُ لَمَّا نَزَلَتْ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ شَيَّعَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ مِنَ
الْمَلٰٓئِكَةِ مَا سَدَّ وَا الْاُفُقَ مُسْ

ترجمہ: آیۃ الکرسی (ثواب میں) قرآن مجید کی سب سے بڑھ کر آیت ہے۔ مسلم، ابوداؤد (عن ابی بن کعبؓ) (اور) یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ ترمذی، ابن حبان۔ حاکم (عن سہل بن سعد و ابی ہریرہؓ) اس لئے کہ اس میں اسماء الٰہی اور صفات الٰہیہ مذکور ہیں۔

جس بچے اور مال پر اسے پڑھ کر دم کیا جائے، یا لکھ کر ڈالدی جائے شیطان اسکے قریب نہیں آئیگا (عن سہل بن سعدؓ ابن حبان)

سورۂ بقرہ کی آخری دو آیتیں اٰمن الرسول سے ختم تک ایسی ہیں کہ جس گھر میں تین رات تک پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن نعمان بن بشیرؓ)

اللہ تعالےٰ نے سورۂ بقرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم کیا ہے، جنھیں اپنے اس خزانے سے مجھے دی ہیں جو اس کے عرش کے نیچے ہے، (انھیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھلاؤ، کیونکہ وہ رحمت ہیں، اور قرآن ہیں اور دعا ہیں حاکم، (عن ابی بن کعبؓ)

سورۂ انعام جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا پھر فرمایا اس سورت کے ساتھ اتنے فرشتے آئے، جن سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا۔ حاکم (عن جابرؓ)

آیۃ الکرسی کی فضیلت، آمن الرسول کی فضیلت، سورۂ انعام کی فضیلت

اَلْكَهْفُ مَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهٗ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ
الْجُمُعَتَيْنِ مُسْ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهٗ مِنَ النُّوْرِ
فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ مُوْمِنْ مَنْ قَرَأَهَا كَمَا اُنْزِلَتْ
كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا مِّنْ مَّقَامِهٖ اِلٰى مَكَّةَ وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ مِّنْ
اٰخِرِهَا فَخَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ سَ مُسْ مَنْ قَرَأَ
سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ مَّقَامِهٖ اِلٰى
مَكَّةَ وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ مِّنْ اٰخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ
لَمْ يَضُرُّهٗ طٰسْ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِهَا عُصِمَ
مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ مُرْدَسْتِ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ
مُرْدَ مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ سَ الْاَوَاخِرَ مِنَ الْكَهْفِ عُصِمَ
مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ مُرْدَسْ مَنْ قَرَأَ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِّنْ
اَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ تِ مَنْ
اَدْرَكَ الدَّجَّالَ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَهَا الْحَدِيْثَ مُرْعَهٗ
فَاِنَّهَا جِوَارٌ لَّهٗ مِنْ فِتْنَتِهٖ دَ وَاُعْطِيْتُ طٰهٰ وَالطَّوَاسِيْنَ
وَالْحَوَامِيْمَ مِنْ اَلْوَاحِ مُوْسٰى مُسْ قَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ
لَا يَقْرَاُهَا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اللّٰهَ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ اِلَّا غُفِرَ
لَهٗ اِقْرَءُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ سَ دَ قَ حِبَّ الْفَتْحُ هِيَ

اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْہِ الشَّمْسُ خَ سَ تِ

ترجمہ: جمعہ کے دن جو شخص سورۃ کہف پڑھے، اس کے لئے اس جمعہ سے اس جمعہ تک ایک نور روشن رہتا ہے۔ حاکم (عن ابی سعید الخدری رضؓ)

اور جو جمعہ کی رات میں اس کو پڑھے اس کے لئے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان کے برابر نور روشن ہوتا ہے۔ دارمی موقوفاً (عن ابی سعیدؓ)

اور جو اس کو اس طرح پڑھے جس طرح وہ اُتری ہے، تو وہ اس کے لئے اس کی جگہ سے مکہ تک نور ہوگی، اور جو اس کی آخری دس آیتیں پڑھتا رہے۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا اُس پر قابو نہیں پائے گا۔ نسائی، حاکم (عن ابی سعیدؓ)

اور جو سورۃ کہف پڑھتا رہے گا اس کے لئے وہ قیامت کے دن اس کی جگہ سے مکہ تک نور ہوگی، اور جو اس کی آخری دس آیتیں پڑھتا رہے گا اور پھر دجال نکلے گا تو وہ اُسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ طبرانی فی الاوسط (عن ابی سعیدؓ)

جو اس کی پہلی دس آیتیں یاد کرلے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی (عن ابی الدرداءؓ)

جو سورۃ کہف کی دس آیتیں یاد کرلے گا۔ مسلم، ابوداؤد (عن ابی الدرداءؓ)

(یا) آخری دس آیتیں پڑھتا رہے گا تو دجال کے فتنہ سے بچا رہے گا مسلم، ابوداؤد نسائی (عن ابی الدرداءؓ)

اور جو سورۃ کہف کی پہلی تین آیتیں پڑھتا رہے گا، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا ترمذی (عن ابی الدرداءؓ)

جو شخص دجال کو پائے اُسے چاہیے کہ اس پر سورۃ کہف کی پہلی دس آیتیں پڑھ دے (الحدیث) مسلم، سنن اربعہ (عن نواس بن سمعانؓ)

کیونکہ یہ آیتیں دجال کے فتنہ سے اس کے لئے قلعہ ہیں۔ ابوداؤد (عن ابی الدرداءؓ)

اور مجھ کو سورۃ طٰہٰ اور طواسین اور حوامیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے دی گئی ہیں۔ حاکم (عن معقل بن یسارؓ)

سورۃ یٰسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جو اس کو اللہ اور آخرت ہی کے لئے پڑھتا ہے، اس کی مغفرت ہوجاتی ہے، اسے اپنے مُردوں پر پڑھو، یعنی جب نزاع کا وقت ہو تو سناؤ۔ نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان (عن معقل بن یسارؓ)

سورۃ فتح مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ بخاری نسائی، ترمذی (عن عمرؓ)

سورۂ کہف کی فضیلت

سورۂ یٰسین کی فضیلت

سورۂ فتح کی فضیلت

سورۂ طٰہٰ، طواسین اور حوامیم کی فضیلت

شرح: طواسین، ان سورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں طٰسٓ ہو، جیسے سورۂ نمل اور سورۂ قصص۔

حوامیم: وہ سورتیں ہیں جن کے شروع میں حٰمٓ ہے اور وہ سات ہیں، سورۂ مؤمن، سورہ حٰمٓ سجدہ، سورۂ شوریٰ، سورۂ زخرف، سورۂ دخان، سورۂ جاثیہ، سورۂ احقاف۔

یعنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسند ہے

toobaa-elibrary.blogspot.com

تَبٰرَكَ الْمُلْكُ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شُفِّعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ حب
عه مُسْ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى يُغْفَرَ لَهٗ حب وَدِدْتُّ اَنَّهَا
فِيْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ مُسْ يُؤْتٰى الرَّجُلُ فِيْ قَبْرِهٖ فَتُؤْتٰى
رِجْلَاهُ فَتَقُوْلُ لَيْسَ لَكُمْ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِيْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ
ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ صَدْرِهٖ مِنْ بَطْنِهٖ تُحَيِّيْ مِنْ رَّأْسِهٖ كُلٌّ
يَّقُوْلُ ذٰلِكَ فَرِيَ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِيَ فِي التَّوْرٰىةِ
مَنْ قَرَأَهَا فِيْ لَيْلَةٍ فَقَدْ اَكْثَرَ وَاَطْيَبَ مَوْ مُسْ
اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ تِ تَعْدِلُ نِصْفَ
الْقُرْاٰنِ تِ مُسْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرِئْنِيْ سُوْرَةً جَامِعَةً
فَاَقْرَاَهٗ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ وَ
الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اُزِيْدُ عَلَيْهَا اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرَّجُلُ مَرَّتَيْنِ
دَسَ مُسْ حِبْ اَلْكَافِرُوْنَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ تِ تَعْدِلُ
رُبُعَ الْقُرْاٰنِ تِ مُسْ نِعْمَ السُّوْرَتَانِ هُمَا تُقْرَاٰنِ
فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اَلْكَافِرُوْنَ وَالْاِخْلَاصُ حِبْ
اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ تِ

ترجمہ: سورۂ ملک کی تیس آیتیں آدمی کی اس قدر سفارش کرتی ہیں جس سے وہ بخش دیا

سورۂ ملک کے فضائل

جاتا ہے۔ ابن حبان، سنن اربعہ، حاکم (عن ابی ہریرۃؓ)

(سورۃ ملک) اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک مغفرت مانگتی رہتی ہے جب تک کہ اسے بخش نہ دیا جائے۔ ابن حبان (عن ابی ہریرۃؓ)

(حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے) میں چاہتا ہوں (سورۃ ملک) ہر قلب مومن میں ہو (یعنی ہر شخص کو یاد ہو) حاکم (عن ابن عباسؓ)

عذاب کے فرشتے (جب) آدمی کے پاس اس کی قبر میں آتے ہیں تو اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو پاؤں کہتے ہیں تمہارے لئے (اس طرف سے کوئی) راستہ نہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے سینہ کی جانب سے (اور پھر) پیٹ کی طرف سے آتے ہیں، پھر سر کی جانب سے آتے ہیں (غرض) ہر عضو یہی کہتا ہے، پس یہ سورۃ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور تورات میں (اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے) کہ جس شخص نے رات میں اسے پڑھا اس نے بہت نیکیاں اور اچھے کام کئے۔ حاکم موقوفاً (عن ابن مسعودؓ)

سورۃ "اذا زلزلت" (ثواب میں) قرآن شریف کے چوتھائی (حصہ کے برابر) ہے۔ ترمذی (عن انسؓ)

(ایک روایت میں ہے کہ) وہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی، حاکم (عن ابن عباسؓ)

ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی جامع سورت پڑھا دیجئے، تو آپ نے انھیں "اذا زلزلت" پڑھا دی، جب آپ فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اور پھر چلے گئے، تو حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا یہ شخص کامیاب ہوا، یہ شخص کامیاب ہوا، ابوداؤد، حاکم، نسائی، ابن حبان (عن عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ)

"قل یا ایہا الکافرون" (ثواب میں) چوتھائی قرآن ہے۔ ترمذی (عن انسؓ)

(ایک روایت میں ہے کہ) چوتھائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ ترمذی، حاکم (عن ابن عباسؓ)

دو سورتیں (سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص) اچھی ہیں (اور) یہ دونوں فرض سے پہلے فجر کی دو رکعت سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ابن حبان (عن عائشہؓ)

سورۃ "اذا جاء نصر اللہ" (ثواب میں) چوتھائی قرآن ہے۔ ترمذی، (عن انسؓ)

سورۃ اذا زلزلت کی فضیلت

سورۃ قل یا ایہا الکافرون کی فضیلت

سورۃ اذا جاء نصر اللہ کی فضیلت

اَلْفَلَقِ وَالنَّاسِ اَلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا دس اِقْرَاْهُمَا
وَلَنْ تَقْرَاَ بِمِثْلِهِمَا س حب وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَآنِّ وَعَيْنِ الْاِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ
اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَاسِوَاهُمَا تِ س ق مَاسَاَلَ سَآئِلٌ وَ
لَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَا س مُص اِقْرَاْهُمَا كُلَّمَا نِمْتَ
وَكُلَّمَا قُمْتَ مُص اِقْرَاْ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَاِنَّكَ لَنْ تَقْرَاَ
بِسُوْرَةٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ وَاَبْلَغَ عِنْدَهٗ مِنْهَا فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَّا
تَفُوْتَكَ فَافْعَلْ مُس لَنْ تَقْرَاَ شَيْئًا اَبْلَغَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ قُلْ
اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ی اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ تَرَ مِثْلَهُنَّ
قَطُّ اَلْفَلَقِ وَالنَّاسِ مُ تِ س

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ سب سے بہتر دو سورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ والناس) نہ بتاؤں جو پڑھی جاتی ہیں؟ (ابوداؤد، نسائی، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ)

ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو کہ ان جیسی تم ہرگز نہیں پڑھو گے۔ نسائی، ابن حبان (عن جابر رضی اللہ عنہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ دونوں معوذتین (سورۃ فلق اور سورۃ ناس) نازل ہوئیں، تو آپ نے ان دونوں کو اختیار کر لیا اور ان کے علاوہ سب دعاؤں کو چھوڑ دیا۔ نسائی، ترمذی، ابن حبان، ابن ابی شیبہ

ان جیسی سورتوں کے ساتھ نہ کسی سائل نے سوال کیا اور نہ کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی۔ نسائی، ابن ابی شیبہ

جب تم سوؤ اور جاگو ان دونوں کو پڑھو۔ ابن ابی شیبہ (عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ)

نقل "اعوذ برب الفلق" پڑھا کرو، کیونکہ تم کوئی ایسی سورت نہیں پڑھ سکتے جو اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہو اور (اس سے پہلے) اس کے پاس پہنچنے والی ہو اور اگر ہو سکے تو سونے سے قضا کرو۔ حاکم عن عقبہ رضی اللہ عنہ

تم ہرگز کوئی ایسی چیز نہ پڑھو گے جو قل اعوذ برب الفلق سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والی ہو۔ حسن بن سفیان، ابن السنی

سورۂ فلق اور سورۂ ناس عجیب آیتیں ہیں جو رات کو اتری ہیں، تم نے ان جیسی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ابن السنی

سورۂ فلق اور سورۂ ناس کی فضیلت

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ خ م ت ق تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ خ د ت ق وَقَالَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا لِاَصْحَابِهٖ فِي الصَّلٰوةِ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهٗ خ م س وَقَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يُلَازِمُ قِرَآءَتَهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي الصَّلٰوةِ حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ خ ت وَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُهَا فَقَالَ وَجَبَتِ الْجَنَّةُ اَيْ لَهٗ م ت ط ا س مُس وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ خ د س مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ الرَّبُّ يَا عَبْدِيْ ادْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ ت

ترجمہ: "قل ھو اللہ احد" (ثواب میں) تہائی قرآن ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ (عن ابی سعید الخدریؓ) (دوسری روایت میں ہے کہ) تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ (عن ابی سعید الخدریؓ)

حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو ہر نماز میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، فرمایا کہ انہیں خبر دیدو کہ "اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھتا ہے۔" بخاری، مسلم، نسائی (عن عائشہؓ)

اور آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیؓ سے جو نماز میں ہمیشہ دوسری سورۃ کے ساتھ "قل ھو اللہ احد" بھی پڑھا کرتے تھے فرمایا کہ تمہاری اس سے یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائیگی۔ بخاری، ترمذی (عن انسؓ)

حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو (سورہ اخلاص) پڑھتے سنا تو فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی مسلم، ترمذی، طبرانی، نسائی، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

(حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضۂ قدرت میں میری جان ہے یہ (سورت) تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (بخاری، ابوداؤد، نسائی (عن ابی سعید الخدریؓ)

جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر اپنی داہنی کروٹ پر سو مرتبہ "قل ھو اللہ احد" پڑھ کر سو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے! تو اپنی داہنی جانب کی جنت میں داخل ہو کیونکہ داہنی جانب کی جنت کے باغ افضل و اعلیٰ ہیں) ترمذی (عن انسؓ)

وَالْاَدْعِيَةُ الَّتِيْ هِيَ غَيْرُ مَخْصُوْصَةٍ بِوَقْتٍ
وَّلَا سَبَبٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ
الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ
فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ
الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ع اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ خ م د ت حب مس ط

ترجمہ:۔ وہ دعائیں جو کسی وقت اور کسی سبب کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، عاجزی، سستی، بزدلی اور انتہائی بڑھاپے سے، اور قرض اور گناہ سے، اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب اور دوزخ کے فتنہ سے اور قبر کے فتنہ اور قبر کے عذاب سے، اور مالداری کے بُرے فتنہ اور محتاجی کے بُرے فتنہ سے، اور کانے دجّال کے بُرے فتنہ سے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اے اللہ! میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو گناہوں سے (ایسا) پاک کردے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کردے جیسا کہ مشرق و مغرب میں تو نے رکھا ہے۔ صحاح ستہ (عن عائشہؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے عاجزی، کاہلی، بزدلی اور انتہائی کبرسنی سے پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور زندگی و موت کے فتنہ سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن حبان، حاکم، طبرانی فی الصغیر (عن انسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَ
الْمَسْكَنَةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ
وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَآءِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ
وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ حِبْ مُسْ صَطْ اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ
وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ خَ مُ دَتِ سَ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ خَ تِ سَ

ترجمہ: اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دل کی سختی، غفلت، محتاجی، ذلت اور خواری سے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فقر سے اور کفر سے اور گناہ سے اور جھگڑے سے اور (لوگوں کے) سناوے اور دکھاوے سے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بہرہ پن، گونگے پن، دیوانگی، جذام اور بُرے امراض سے اور قرض کے بوجھ سے۔ ابن حبان، حاکم، طبرانی فی الصغیر (عن انسؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فکر وغم وعاجزی وسستی، بزدلی وبخل اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤں سے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی (عن انسؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ ناکارہ عمر تک پہنچوں، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ بخاری، ترمذی، نسائی (عن سعد بن ابی وقاصؓ)

(بیتر)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ
الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ
خَیْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ
لَّا یَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا یَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ
لَّا یُسْتَجَابُ لَهَا خ مُرتِ س مُص اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ
مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْٓءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ
الْقَبْرِ دس قَ حِبْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَآ اِلٰهَ
اِلَّآ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِیْٓ اَنْتَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَ
الْاِنْسُ یَمُوْتُوْنَ مُ خ س اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ
الْبَلَآءِ وَدَرَكِ الشَّقَآءِ وَسُوْٓءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ خ

ترجمہ: اے اللہ! میں عاجزی، سستی، بزدلی، کنجوسی، ضعف پیری اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ! میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اسے پاک کر دے تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا مالک و آقا ہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے (جو دنیا و آخرت میں) نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو اور اس طبیعت سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی شیبہ۔ (عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بزدلی، بخل اور بری عمر بہت ضعیف اور بوڑھے ہو جانے سے) اور سینہ کے فتنہ اور قبر کے عذاب سے، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان (عن عمر رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! میں تیرے غلبہ اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تو ہی وہ زندہ ہے جسے موت نہیں اور تمام جن و انس مر جائینگے مسلم، بخاری، نسائی (عن ابن عباس رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! ہم بلا و مصیبت سختیوں اور بدبختی اور بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتے

شرح: لَا یَخْشَعُ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان اور سکون نہ ہو اور جو چیز اللہ نے مقدر کر دی ہے اس پر قناعت

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ مُ
دَسَ قَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ
سَ مُصْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ مُ دَسَ اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِیْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِیْ
وَمِنْ شَرِّ قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِیِّیْ تِ دَسَ مُسْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ
مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ
دَسَ قَ مُسْ

ترجمہ: اے اللہ! میں اپنے کردہ اور ناکردہ عمل کی بُرائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں مسلم، ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ (عن عائشہؓ)

اے اللہ! میں اپنے علم اور جہل کی بُرائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن عائشہؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے چھٹ جانے سے اور تیری عافیت کے ہٹ جانے سے اور تیری سزا کے اچانک آجانے سے اور تیرے ہر غصہ سے مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن ابن عمرؓ)

اے اللہ! میں اپنے کان، ناک، دل، زبان، اور منی کی بُرائی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ترمذی، ابوداؤد نسائی، حاکم (عن شکل بن حمیدؓ)

اے اللہ! میں فقر، فاقہ، محتاجی و ذلت اور ظالم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوداؤد نسائی، ابن ماجہ، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: منی، میم پر زبر کے ساتھ۔ مَنِیَّۃٌ کی جمع ہے اس کے معنی موت اور مادۂ منویہ کے بھی (اس لئے اس کے دو ترجمے ہونگے، ایک یہ کہ میں منی کی بُرائی (یعنی زنا و لوطی) سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ موت کی بُرائی سے پناہ لیتا ہوں۔

مُنیٰ و منی چنی اور زبر کیساتھ مُنَیَّۃٌ کی جمع ہے اسکے معنی آرزو کے ہیں اور حدیث شریف میں زبر کیساتھ مروی ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّیْ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِی الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِیْ سَبِیْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ
اَمُوْتَ لَدِیْغًا دَسَّ مُسَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ
الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَآءِ تِ حِبَّ مُسَّ وَالْاَدْوَآءِ تِ
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِیُّكَ
مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْكَ الْبَلَاغُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ تِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ
السُّوْءِ فِیْ دَارِ الْاِقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّلُ سَ حِبَّ
مُسَّ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّیْنِ سَ حِبَّ مُسَّ

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، دب کر، گر کر، ڈوب کر، جل کر مرنے سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان مجھے مرتے وقت گمراہ کردے اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے راستہ میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مروں اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ سانپ کے کاٹے سے مروں۔ (ابوداؤد، نسائی، حاکم (عن ابی یسیر)

اے اللہ میں ناپسندیدہ اخلاق، اعمال، خواہشات نفسانی اور برے امراض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (ترمذی، ابن حبان، حاکم (عن قطبۃ بن مالک رض)

اے اللہ ہم تجھ سے وہ سب بھلائیاں مانگتے ہیں جو تیرے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور تو ہی مددگار ہے اور تو ہی کفایت کرنے والا ہے، اور طاقت و قوت تیری ہی مدد

سے ہے۔ ترمذی (عن ابی امامہؓ)
اے اللہ! میں مستقل گھر کے برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لئے کہ سفر کا ساتھی تو جدا ہو ہی جاتا ہے۔ نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)
میں کفر اور فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کر، جل کر مرنے کو شہید ہونا فرمایا ہے وہاں آپ نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے کیونکہ وہ وقت نازک ہوتا ہے۔ ممکن ہے صبر نہ کر سکے اور شیطان قابو پاکر راہِ حق سے بھٹکا دے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ مُسْ حِبْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا یَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَّا یَخْشَعُ وَدُعَآءٍ لَّا یُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ مُسْ مُصْ وَمِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِیْعُ مُسْ مُصْ وَمِنَ الْخِیَانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَمِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَمِنَ الْهَرَمِ وَمِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰٓی اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ عَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ مُنْجِیَاتِ اَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِیْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ مُسْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا یَنْفَعُ حِبْ

ترجمہ: اے اللہ! میں قرض کی زیادتی، دشمن کے غلبہ اور دشمنوں کے طعنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں حاکم، ابن حبان (عن عبد اللہ بن عمروؓ)

اے اللہ! میں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو اور اس طبیعت سے جو سیر نہ ہو تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابن مسعودؓ) اور بھوک سے کہ وہ بری ہمبستر ساتھی ہے۔ حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابن مسعودؓ و ابی ہریرۃؓ) اور خیانت سے (کہ وہ بُری ہمراز ہے) اور سستی، بزدلی، بخل اور بہت بوڑھا ہو جانے سے، اور اس سے کہ ناکارہ عمر تک پہنچوں، اور دجّال کے فتنہ اور قبر کے عذاب اور زندگی و موت کے فتنہ سے۔

اے اللہ! ہم تجھ سے مانگتے ہیں مغفرت کے اسباب، نجات دلانے والے کام، اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی کی غنیمت اور بہشت میں اپنا پہنچنا اور دوزخ سے نجات پانا۔ حاکم (عن ابن مسعودؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے کارآمد علم چاہتا ہوں، اور غیر نافع علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابن حبان (عن جابرؓ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَّا يُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَقَوْلٍ لَّا يُسْمَعُ حِبْسُ مُصْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ تَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا مُوْخُ مُ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ عَوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعِ مُصْ طَسْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَخَطَئِیْ وَعَمْدِیْ طَسْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ وَقَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ طٓ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ طَ

ترجمہ: اے اللہ! میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس عمل سے جو مقبول نہ ہو اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور اس بات سے جو سنی نہ جائے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن انسؓ)

اے اللہ! ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم پچھلے پیروں لوٹ جائیں یا ہم دین کے بارے میں آزمائش میں ڈالے جائیں یعنی خدانخواستہ ہم دین حق سے مرتد ہوجائیں یا دین کی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ بخاری، مسلم موقوفاً (عن ابن ابی ملیکہؒ)

ہم دوزخ کے عذاب اور سارے فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی اور دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابوعوانہ (عن زید بن ثابتؓ)

اے اللہ! میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جس میں عاجزی و فروتنی نہ ہو، اور

اس طبیعت سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں ان چار باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ عن ابن عمرؓ، طبرانی فی الاوسط (عن ابن عباسؓ)

اے اللہ! میرے دانستہ اور نادانستہ (سارے) گناہ بخش دے۔ طبرانی فی الاوسط (عن ابن عباسؓ)

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے اور ایسی طبیعت سے جو سیر نہ ہو۔ طبرانی (عن جریرؓ)

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور بہت زیادہ بوڑھا ہو جانے سے اور سینہ کے فتنہ اور قبر کے عذاب سے۔ طبرانی (عن ابن عباسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِیْ دَارِ الْمُقَامَةِ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَسَیِّئِ الْاَسْقَامِ دس مُص اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ د اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ د اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ د اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ خ مُ دس اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ خَطِيْٓئَتِیْ وَجَهْلِیْ وَاِسْرَافِیْ فِیْ اَمْرِیْ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ خ م مُص

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بُرے دن سے اور بُری رات سے، اور بُری گھڑی سے اور بُرے ساتھی سے اور مستقل گھر کے بُرے پڑوسی سے۔ طبرانی (عن عقبۃ بن عامرؓ)

اے اللہ! میں برص، جنون، جذام اور بُرے امراض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ابی شیبہ (عن انسؓ)

اے اللہ! میں جھگڑے، نفاق اور بدخلقی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوداؤد (عن ابی ہریرہؓ)

اے اللہ! میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بُری ہم خواب ہے اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بُری ہمراز ہے۔ ابوداؤد، نسائی

اے اللہ! میں ان چار باتوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے

جس میں خشوع نہ ہو، اس طبیعت سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ابوداؤد (عن ابی ہریرہؓ)

اے اللہ! ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، بقرہ رکوع ۲۵۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی (عن انسؓ)

اے اللہ! میری خطا، میری نادانی، میری اپنے کام میں زیادتی اور وہ کچھ جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف کر دے۔ بخاری، مسلم، ابن ابی شیبہ (عن ابی موسی الاشعریؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ جِدِّیْ وَهَزْلِیْ وَخَطَئِیْ وَعَمْدِیْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِیْ خ مُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ خ مُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ جِدِّیْ وَهَزْلِیْ وَخَطَئِیْ وَعَمْدِیْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِیْ مُصْ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّیْ خَطَایَایَ بِمَآءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِیْ مِنَ الْخَطَایَا كَمَا نَقَّیْتَ الثَّوْبَ الْاَبْیَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَیْنِیْ وَبَیْنَ خَطَایَایَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ خ مُ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ مُرْسٌ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ وَسَدِّدْنِیْ مُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ مُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى مُ تِ قَ

ترجمہ: اے اللہ! مجھ سے سچ اور ہنسی سے نادانستہ اور دانستہ (جو کچھ گناہ ہوئے ہوں) معاف فرما دے، اور یہ سب مجھ سے ہوا ہے۔ بخاری، مسلم (عن عائشہؓ)

دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری، مسلم (عن عائشہؓ)

الٰہی! سچ اور ہنسی سے، غلطی سے اور ارادۃً (جو تقصیر ہوئی ہو) معاف فرما، اور یہ مجھ سے ہوا ہے۔ زین ابی شیبہ (عن ابی موسیٰ الاشعریؓ)

اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے (ایسا) صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے۔ اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ مسلم، نسائی (عن عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ)

اے اللہ! مجھے ہدایت دے اور مجھے استوار رکھ۔ مسلم (عن ابی ہریرہؓ) ــــ اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت اور استقامت چاہتا ہوں۔ مسلم (عن ابی ہریرہؓ) ــــ اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پارسائی اور استغنا

چاہتا ہوں۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ (عن عبداللہ بن مسعودؓ)

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِیْ دِیْنِیَ الَّذِیْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِیْ وَاَصْلِحْ لِیْ دُنْیَایَ
الَّتِیْ فِیْهَا مَعَاشِیْ وَاَصْلِحْ لِیْ اٰخِرَتِیَ الَّتِیْ فِیْهَا مَعَادِیْ وَاجْعَلِ
الْحَیٰوةَ زِیَادَةً لِّیْ فِیْ کُلِّ خَیْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّیْ مِنْ
کُلِّ شَرٍّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَعَافِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَاهْدِنِیْ
رَبِّ اَعِنِّیْ وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ وَانْصُرْنِیْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَیَّ وَامْکُرْ لِیْ
وَلَا تَمْکُرْ عَلَیَّ وَاهْدِنِیْ وَیَسِّرِ الْهُدٰی لِیْ وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ
بَغٰی عَلَیَّ رَبِّ اجْعَلْنِیْ لَکَ ذَکَّارًا لَّکَ شَکَّارًا لَّکَ رَهَّابًا لَّکَ
مِطْوَاعًا لَّکَ مُخْبِتًا اِلَیْکَ اَوَّاهًا مُّنِیْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ
تَوْبَتِیْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِیْ وَاَجِبْ دَعْوَتِیْ وَثَبِّتْ حُجَّتِیْ وَسَدِّدْ
لِسَانِیْ وَاهْدِ قَلْبِیْ وَاسْلُلْ سَخِیْمَةَ صَدْرِیْ عَمَّ حِبَّ

مُسْ مُصْ

ترجمہ: اے اللہ! میرا دین سنوار دے جو میرا آسرا ہے اور میری دنیا بنا دے جو میری زندگی ہے، اور میری آخرت درست کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لئے ہر بھلائی میں ترقی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا۔ مسلم (عن ابی ہریرۃؓ)

اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے چین دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ مسلم (عن ابی مالکؓ) ــــ مسلم کی دوسری روایت میں "وَاهْدِنِیْ" (اور مجھے راہِ حق پر چلا) کا لفظ زیادہ ہے۔

اے میرے پروردگار میری مدد کر، اور میری مخالفت میں کسی کی مدد نہ کر، اور مجھے فتح دے اور میرے اوپر کسی کو غالب نہ کر، اور میرے حق میں تدبیر کر، اور میرے مقابلہ میں کسی کی تدبیر نہ چلا اور مجھے ہدایت دے اور میرے لئے ہدایت کو آسان کر اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے مقابلہ

میں مجھے مدد دے۔

اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا بہت یاد کرنے والا، بہت شکر گزار، تجھ ہی سے بہت ڈرنے والا، تیری ہی بہت فرمانبرداری کرنے والا، تیرا ہی بہت مطیع، تجھ ہی سے عاجزی وفروتنی کرنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ وزاری کرنے والا، تیری ہی طرف متوجہ ہونے والا، رجوع ہونے والا بنا دے۔

اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول کر، اور میری حجت (دینی) قائم رکھ اور میری زبان درست رکھ، اور میرے دل کو ہدایت پر رکھ، اور سینہ کی کدورت کو نکال دے۔ سنن اربعہ، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن ابن عباسؓ)

---

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهٗ قَ دَ اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا د

حِبْ مُسْطَ

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، اور ہم سے راضی ہوجا، اور ہمیں بہشت میں داخل کر، اور ہمیں دوزخ سے بچا دے، اور ہمارے تمام حالات درست کر دے۔ ابن ماجہ، ابوداؤد (عن ابی امامۃ الباہلیؓ)

اے اللہ! ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، اور ہمارے آپس کے تعلقات خوشگوار کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں تاریکیوں سے روشنی میں لا، اور ہمیں ظاہری و باطنی بے حیائیوں سے الگ رکھ، اور ہمارے کانوں میں، اور ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں، اور ہماری بیویوں میں، اور ہماری اولادوں میں برکت دے، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گذار اور ثناخوان بنا، اور نعمتوں کے قابل بنا، اور انھیں ہم پر پورا کر۔ ابوداؤد، ابن حبان، حاکم، طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ وَاَسْأَلُكَ عَزِیْمَةَ الرُّشْدِ
وَاَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْأَلُكَ لِسَانًا
صَادِقًا وَّقَلْبًا سَلِیْمًا وَّخُلُقًا مُّسْتَقِیْمًا وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ
وَاَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ
عَلَّامُ الْغُیُوْبِ تِ حِبْ مُسْ مُصْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَا
قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ
بِهٖ مِنِّیْ مُسْ اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْیَتِكَ
مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَیْنَنَا وَبَیْنَ مَعَاصِیْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا
بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْیَقِیْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَیْنَا مَصَآئِبَ الدُّنْیَا
وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْیَیْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ
مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰی مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰی مَنْ عَادَانَا
وَلَا تَجْعَلْ مُصِیْبَتَنَا فِیْ دِیْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا اَكْبَرَ هَمِّنَا
وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَیْنَا مَنْ لَّا
یَرْحَمُنَا تِ سَ مُسْ اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا
وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَیْنَا
وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا تِ سَ مُسْ اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِیْ رُشْدِیْ
وَاَعِذْنِیْ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ تِ

toobaa-elibrary.blogspot.com

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے (دینی) امور میں ثابت قدمی، اعلیٰ صلاحیت، تیری نعمتوں کے شکریہ کی توفیق، حسن عبادت، زبان صادق، قلب سلیم اور اخلاق صحیح چاہتا ہوں اور اس برائی سے جسے تو جانتا ہے تیری پناہ لیتا ہوں اور وہ بھلائی مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، اور اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بیشک تو ہی ہر غائب کا جاننے والا ہے۔ ترمذی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ (عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ)

الٰہی! میرے اگلے پچھلے، کھلے چھپے اور جن گناہوں کو تو زیادہ جانتا ہے، معاف فرما۔ حاکم، احمد (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

اور مسند احمد میں "لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ" تیرے سوا کوئی معبود نہیں رکے الفاظ بھی ہیں۔ (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! ہمیں اپنے خوف کا ایسا حصہ دے جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت جس سے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہماری قوت کو کام کا رکھ، اور اس کی خیر کو ہمارے بعد (بھی) باقی رکھ، اور ہم پر جو ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے، اور جو ہم سے دشمنی کرے، اس پر ہمیں غلبہ دے، اور ہمیں دینی مصیبت میں مبتلا نہ کر، اور دنیا کو نہ ہمارا مقصود اعظم بنا، اور نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود، اور جو ہم پر نامہربان ہو اس کو ہمارا حاکم نہ کر۔ ترمذی، نسائی، حاکم (عن ابن عمر رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! ہمیں بڑھا اور ہم کو گھٹا مت، اور ہمیں آبرو دے، اور ہمیں خوار نہ کر، اور ہمیں عطا کر، اور ہمیں محروم نہ رکھ، اور ہمیں ہی غالب رکھ، دوسروں کو ہم پر غالب نہ کر، اور ہمیں خوش رکھ، اور ہم سے خوش رہ۔ ترمذی، نسائی، حاکم (عن معاذ بن جبل و ثوبان رضی اللہ عنہم)

اے اللہ! میرے دل میں میری سعادت ڈال دے، اور مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ۔ ترمذی (عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ)

اَللّٰهُمَّ قِنِیْ شَرَّ نَفْسِیْ وَاعْزِمْ لِیْ عَلٰی رُشْدِ اَمْرِیْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَخْطَاْتُ وَمَا عَمَدْتُّ وَمَا جَهِلْتُ مُسْ سَرْحِبْ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِیْنِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِیْ وَتَرْحَمَنِیْ وَاِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِیْ غَیْرَ مَفْتُوْنٍ وَّاَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ یُّقَرِّبُ اِلٰی حُبِّكَ تِ مُسْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَّفْسِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ تِ مُسْ

ترجمہ: اے اللہ! مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ، اور مجھے میرے کام کی اصلاح کی ہمت دے، اے اللہ! جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ علانیہ کیا، اور جو کچھ بھول کر کیا، اور جو کچھ قصداً کیا، اور جو مجھے معلوم نہیں وہ سب معاف کر دے۔ (حاکم، نسائی، ابن حبان عن حصین بن عبید)

میں اللہ سے دنیا و آخرت (دونوں) میں عافیت چاہتا ہوں۔ (ترمذی عن ابن عباس)

اے اللہ! میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی اور غریبوں کی محبت کی توفیق چاہتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے، اور جب تو لوگوں کو آزمانا چاہے تو مجھے بغیر آزمائش اٹھالے، اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت سے قریب کر دے۔ (ترمذی، حاکم عن ابی الدرداء)

اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اے اللہ! اپنی محبت مجھے میری جان سے، میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دے۔ (ترمذی، حاکم عن ابی الدرداء)

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یَّنْفَعُنِیْ حُبُّهٗ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ
فَمَا رَزَقْتَنِیْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّیْ فِیْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ
وَمَا زَوَیْتَ عَنِّیْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّیْ فِیْمَا تُحِبُّ ت
اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِیْ بِسَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّیْ وَانْصُرْنِیْ
عَلٰی مَنْ یَّظْلِمُنِیْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِیْ ت مُس رِیَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ
ثَبِّتْ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ ت س مُس اَصِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ
اِیْمَانًا لَّا یَرْتَدُّ وَنَعِیْمًا لَّا یَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی
اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ اَعْلٰی دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ س حب مُس
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ صِحَّةً فِیْ اِیْمَانٍ وَّاِیْمَانًا فِیْ حُسْنِ خُلُقٍ
وَّنَجَاحًا تَتْبَعُهٗ فَلَاحًا وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِیَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ
وَرِضْوَانًا س مُس

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اپنی محبت نصیب کر، اور اس شخص کی جس کی محبت تیرے یہاں مجھے نفع دے، یا اللہ! جس طرح تو نے مجھے وہ دیا ہے جو مجھے پسند ہے، تو اسے میرا معین بھی اس کام میں بنا دے جو تجھے پسند ہے اور جو کچھ تو نے مجھ سے میری مرغوبات دور رکھی ہیں، تو اسے میرے حق میں تیری مرضیات کے لئے فراغت کا سبب بنا دے۔ ترمذی (عن عبد اللہ ابن بریدۃ الخطمی رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! مجھے میری سماعت اور میری بینائی سے (پورا پورا) استفادہ نصیب فرما اور (آخر عمر تک) ان دونوں کو باقی رکھ اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر میری مدد کر اور اس سے میرا انتقام لے۔ ترمذی، حاکم، بزار۔ (عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

اے دلوں کے پلٹنے والے! میرا دل اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ ترمذی، نسائی، حاکم، احمد، ابو یعلی (عن ام سلمۃ وعائشہ رضی اللہ عنہما)

اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جو جاتا نہ رہے، اور ایسا آرام جو ختم نہ ہو، اور جنت کے اعلیٰ درجہ کی۔ میں اپنے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ نسائی، ابن حبان، حاکم (ابن مسعودؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے صحت ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ اور کامیابی ہیں کے بعد فلاح بھی ہو، اور تیری رحمت، عافیت، مغفرت اور خوشنودی مانگتا ہوں۔ نسائی، حاکم (عن انسؓ)

شرح: یعنی میری محبوب اور مرغوب چیزیں جو تو نے مجھ سے دور رکھی ہیں، اس کا یہ اثر پیدا فرما کہ میں تیری ہی مرضیات کو پسند کرنے لگوں، اور اس کے ماسوا کو نہیں۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَعَلِّمْنِیْ مَا یَنْفَعُنِیْ وَازْدُنِیْ عِلْمًا
تَنْفَعُنِیْ بِهٖ سَ مُسْ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِیْ بِمَا عَلَّمْتَنِیْ وَعَلِّمْنِیْ مَا یَنْفَعُنِیْ
وَزِدْنِیْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ
اَهْلِ النَّارِ ق مُصْ اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَیْبَ وَقُدْرَتِكَ
عَلَی الْخَلْقِ اَحْیِنِیْ مَا عَلِمْتَ الْحَیٰوةَ خَیْرًا لِّیْ وَتَوَفَّنِیْ اِذَا
عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِّیْ وَاَسْاَلُكَ خَشْیَتَكَ فِی الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ
وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِی الرِّضٰی وَالْغَضَبِ وَاَسْاَلُكَ نَعِیْمًا لَّا
یَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَیْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَاَسْاَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ
الْعَیْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰی
لِقَآئِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ وَّفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ
زَیِّنَّا بِزِیْنَةِ الْاِیْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِیْنَ سَ مُسْ طٰ

ترجمہ: اے اللہ! جو علم تو نے مجھے دیا ہے، اس سے مجھے نفع بھی دے اور مجھے وہ علم نصیب فرما جس سے تو مجھے نفع دے۔ نسائی، حاکم (عن انس رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! تو نے جو علم مجھے دیا ہے، اس سے مجھے نفع دے اور مجھے زیادہ علم عطا کر، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور میں دوزخ والوں کی حالت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! تو اپنے علم الغیب اور مخلوق پر قدرت مطلق ہونے کے صدقہ میں مجھے زندہ رکھ، جبتک تیرے علم میں میری زندگی میرے لئے بہتر ہو، مجھے وفات دے جب تیرے علم میں موت میرے لئے بہتر ہو اور میں تجھ سے ظاہر و باطن میں تیرا ڈر اور عیش و ملیش میں سچائی مانگتا ہوں ——— اور تجھ سے ایسا آرام مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے ——— اور میں تجھ سے تیرے فیصلہ پر تسلیم و رضا اور موت کے بعد پُر لطف زندگی اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں ——— اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، آزار دینے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والی بلا سے ——— اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ

اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَّاَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَآءٍ قَضَيْتَهٗ لِیْ خَيْرًا قف حب مس وَاَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِیْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا مس اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْیِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ حب مس

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ہر بھلائی جلد ہونے والی بھی اور دیر میں ہونے والی بھی جس کا مجھے علم ہے، اور جس کا مجھے علم نہیں سب کی سب مانگتا ہوں اور ہر برائی سے جلد ہونے والی اور دیر میں ہونے والی بھی جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اے اللہ! میں تجھ سے وہ سب بھلائیاں مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ان تمام برائیوں سے جن سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور وہ قول وعمل جو اس سے قریب کردے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس قول وعمل سے جو اسکے قریب کردے، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر کردے اور درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ تو میرے حق میں فیصلہ کرے اس کا انجام اچھا کر۔ (ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، عن عبسہ بن ابی ارطاۃ)

اے اللہ! ہمارے ہر کام کا انجام بہتر کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَّاحْفَظْنِيْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا
وَّاحْفَظْنِيْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا وَّلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهٗ بِيَدِكَ مُسْ حِبْ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ وَاَسْاَلُكَ
سِنَ الْخَيْرِ الَّذِيْ هُوَ بِيَدِكَ كُلِّهٖ حِبْ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ
رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ
مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ مُسْ طَ اَللّٰهُمَّ
لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا
قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طَ طَبْ

ترجمہ: الٰہی مجھے اٹھتے، بیٹھتے، سوتے (جاگتے) اسلام ہی پر قائم رکھ اور کسی دشمن اور کسی حاسد کو مجھ پر طعنہ کا موقع نہ دے۔ الٰہی میں تجھ سے وہ سب بھلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ (حاکم، ابن حبان عن عمر بن الخطاب)

اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضۂ قدرت میں ہے اور وہ بھلائیاں مانگتا ہوں جو تمام تر تیرے ہی قبضہ میں ہیں۔ (ابن حبان عن عمرؓ)

اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری رحمت کے اسباب اور مغفرت کے سامان اور ہر گناہ سے حفاظت اور جنت کی کامیابی اور دوزخ سے نجات۔ (حاکم، طبرانی عن عمرؓ)

اے اللہ! ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ جسے بخش نہ دے، اور نہ کوئی ایسی تشویش جسے تو دور نہ کر دے، اور نہ کوئی ایسا قرض جسے تو ادا نہ کر دے، اور نہ کوئی دنیا اور آخرت کی ایسی حاجت جسے تو پوری نہ کر دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ (طبرانی فی الکبیر والدعاء عن انسؓ)

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ مُسْ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ رَ اَللّٰهُمَّ

قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ

لِّيْ بِخَيْرٍ مُسْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً

سَوِيَّةً وَّمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ يٍّ وَّلَا فَاضِحٍ مُسْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ضَعِيْفٌ

فَقَوِّنِيْ فِيْ رِضَاكَ ضَعْفِيْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِيْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ

مُنْتَهٰى رِضَائِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِيْ وَاِنِّيْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِيْ

وَاِنِّيْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِيْ مُسْ مُصْ

ترجمہ: اے اللہ! ہماری اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں مدد فرما۔ حاکم، احمد (عن ابی ہریرہؓ)

اے اللہ! میری مدد فرما اپنی یاد اپنے شکر اور اپنی طرح بندگی کرنے پر، بزار (عن ابی ہریرہؓ)

اے اللہ! جو تو نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے قانع کر دے، اور اس میں میرے لئے برکت عطا کر، اور میری ہر گم شدہ چیز کا مجھے نعم البدل عطا فرما۔ حاکم (عن ابن عباسؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ زندگی، ڈھنگ کی موت، اور ایسی مراجعت چاہتا ہوں جس میں میری رسوائی اور فضیحت نہ ہو۔ حاکم (عن ابن عمرؓ)

اے اللہ! میں کمزور ہوں سو میری کمزوری کو اپنی رضا (کے چاہنے) میں قوت دے اور مجھ کو بھلائی کی توفیق دے اور اسلام کو میری پسندیدگی کی انتہا بنا۔

اے اللہ! میں کمزور ہوں مجھے قوت دے، میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے، میں محتاج ہوں مجھے رزق دے۔ حاکم، ابن ابی شیبہ (عن بریدۃ بن خصیب الاسلمیؓ)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَكَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاِثْمِ
وَالْكَسَلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ
وَالْمَغْرَمِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ
مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ
بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ هٰذَا مَا سَاَلَ مُحَمَّدٌ رَبَّهٗ طٰسٓ
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَسْاَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَآءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ
وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيٰوةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَ
ثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَتِيْ وَتَقَبَّلْ
صَلَاتِيْ وَاغْفِرْ خَطِيْٓئَتِيْ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ
اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهٗ وَجَوَامِعَهٗ
وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَظَاهِرَهٗ وَبَاطِنَهٗ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ
الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَاْتِيْ وَخَيْرَ مَا اَفْعَلُ
وَخَيْرَ مَآ اَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ
الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ
وَتَضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ اَمْرِيْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِيْ وَتُحَصِّنَ فَرْجِيْ وَ
تُنَوِّرَ قَلْبِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ

اٰمِیْنَ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُکَ اَنْ تُبَارِکَ لِیْ فِیْ سَمْعِیْ وَفِیْ بَصَرِیْ وَفِیْ رُوْحِیْ وَفِیْ خَلْقِیْ وَفِیْ خُلُقِیْ وَفِیْ اَھْلِیْ وَفِیْ مَحْیَایَ وَفِیْ مَمَاتِیْ وَفِیْ عَمَلِیْ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِیْ وَاَسْاَلُکَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّۃِ اٰمِیْنَ مُسْرَطَسْ

ترجمہ: اے اللہ! تو ہی اوّل ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے۔ تیرے بعد کوئی چیز نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر زمین پر چلنے والے سے جو تیرے قبضۂ قدرت میں ہے اور پناہ مانگتا ہوں گناہ (طاعت میں) سستی، قبر کے عذاب اور آزمائش سے اور پناہ مانگتا ہوں ناجائز افعال اور قرض سے، الٰہی مجھے میرے گناہوں سے ایسا پاک کردے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کردے جتنا کہ مشرق و مغرب میں تو نے فاصلہ رکھا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگی ہیں۔ طبرانی فی الکبیر والاوسط (عن ام سلمہؓ)

اے اللہ! میں تجھ ہی سے بہترین سوال، بہترین دعا، بہترین کامیابی، بہترین اجر اور بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتا ہوں، مجھے جمے رہنے، ثابت قدم رکھ اور میری نیکیوں کا پلہ بھاری کردے اور میرا ایمان ثابت و استوار رکھ اور میرا درجہ بلند کر، اور میری نماز قبول فرما، اور میری خطا بخش دے، اور میں تجھ ہی سے جنت کے بلند درجے مانگتا ہوں۔ آمین۔

اے اللہ! میں تجھ ہی سے خیر کی ابتدائیں اور انتہائیں بھی مانگتا ہوں، اور سب خیر (دینی و دنیاوی) اور خیر کا اوّل بھی اور خیر کا آخر بھی، اور خیر کا ظاہر بھی اور خیر کا باطن بھی، اور جنت کے بلند درجے، آمین۔ اے اللہ! میں تجھ ہی سے اپنے ہر اس عمل کی خیر مانگتا ہوں جسے میں (اپنے اعضاء و جوارح اور قلب و جگر سے) کروں، اور اس کی بھی خیر جو پسندیدہ ہے، اور اس کی بھی خیر جو ظاہر ہے، اور جنت کے بلند درجے۔ آمین

اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا ذکر بلند کردے اور میرا بوجھ دور کردے، اور میرا کام بنادے، اور میرا دل پاک کردے، اور میری شرمگاہ محفوظ رکھ، اور میرا دل روشن کردے، اور میرا (ایک ایک) گناہ بخش دے اور میں تجھ سے بہشت کے بلند درجے مانگتا ہوں۔ آمین۔ اے اللہ! میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ تو برکت دے میری سماعت میں، اور میری بصارت میں اور میری روح میں، اور میری پیدائش میں، اور میری سیرت میں اور میرے گھر بار میں، اور میری زندگی میں، اور میری موت میں، اور میرے عمل میں اور میری نیکیاں قبول کر، اور میں تجھ سے بہشت کے بلند درجے مانگتا ہوں۔ آمین (اے اللہ! میری دعا قبول فرمائے) حاکم، طبرانی فی الکبیر والاوسط (عن ام سلمہؓ)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمُرِيْ
مُسْ طَسْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ حٰبْ
يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ وَلَا يَصِفُهُ
الْوَاصِفُوْنَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ
يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَائِيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ
وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ
عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُوَارِيْ مِنْهُ سَمَآءٌ سَمَآءً وَلَا اَرْضٌ اَرْضًا وَلَا بَحْرٌ
مَا فِيْ قَعْرِهٖ وَلَا جَبَلٌ مَا فِيْ وَعْرِهٖ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ
عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ طٰسٓ يَا وَلِيَّ
الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبِّتْنِيْ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ ط

ترجمہ: الٰہی مجھے بڑھاپے اور اخیر عمر میں فراخ روزی عطا کر، حاکم، طبرانی فی الاوسط (عن عائشہؓ)
اے اللہ! میرے گناہ، میری بھول چوک، اور میرا قصد و ارادہ بخش دے۔ ابن حبان (عن عثمان بن العلصؓ)
اے وہ ذات کہ آنکھیں جس کے دیدار کی تاب نہیں لاسکتیں، خیالات و نظرات جسے نہیں پاسکتے، ثناخوان جس کی تعریف و توصیف نہیں کرسکتے، حوادث جسے متغیر نہیں کرسکتے، گردش زمانہ جسے ڈرا نہیں سکتا جو پہاڑوں کے بوجھ، دریاؤں کے پیمانے جانتا ہے، مینہ کی بوندیں اور درخت کے پتے جس کی شمار میں ہیں اور نہ رات جسے اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے اور دن اپنی روشنی سے جگمگا دیتا ہے اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو چھپا سکتی ہے، اور نہ دریا اس چیز کو جو اس کی گہرائی میں ہے، اور نہ پہاڑ اس چیز کو جو اس کی کان میں ہے چھپا سکتا ہے۔ میری آخری عمر کو بہترین عمر اور میرے آخری عمل کو بہترین عمل فرما، اور میرا بہترین دن وہ کر جس روز میں تجھ سے ملوں طبرانی فی الاوسط (عن انسؓ)
اے اسلام اور مسلمانوں کے مددگار مجھے اسلام پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ میں تجھ سے مل جاؤں طبرانی (عن انسؓ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَآءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَآئِكَ فِیْ غَيْرِ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ ط طٰسٓمٓ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِی الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْیِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَطْ مَنْ كَانَ ذٰلِكَ دُعَآءَهٗ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهُ الْبَلَآءُ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ غِنَایَ وَغِنَا مَوْلَایَ اَطْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ عِيْشَةً نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَّلَا فَاضِحٍ ط اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاَدْخِلْنِی الْجَنَّةَ ط

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے فیصلہ پر رضامندی اور موت کے بعد پُرلطف زندگی، اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق بغیر اس کے کہ آزار دینے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والی بلا کے بغیر ہو۔ طبرانی فی الکبیر والاوسط (عن فضالہؓ)

اے اللہ! ہمارے ہر کام کا انجام بہتر کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ احمد، طبرانی (عن بسر بن ابی ارطاۃؓ)

جس شخص کی یہ دعا ہوگی وہ مصیبت میں گرفتار ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ طبرانی (عن بسر بن ابی ارطاۃؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے اپنا اور اپنے متعلقین کا (ظاہری و باطنی) غنا چاہتا ہوں۔ احمد، طبرانی (عن ابی صرمہؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ زندگی، اور ڈھنگ کی موت، اور ایسی واپسی مانگتا ہوں جس میں میری ذلت و رسوائی نہ ہو۔ (عن ابی عمیرؓ)

اے اللہ! مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے جنت میں داخل کر۔ طبرانی (عن ابن عمروؓ)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَفِيْ اٰخِرَتِيَ الَّتِيْ اِلَيْهَا مَصِيْرِيْ وَفِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا بَلَاغِيْ وَاجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَّفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَاَنْ تَتُوْبَ عَلَيَّ وَاِنْ اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اَنْ تَقْبِضَنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّاَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ طٰسٓمٓ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا طٰسٓمٓ اَللّٰهُمَّ ضَعْ فِيْ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا وَزِيْنَتَهَا وَسَلْمَهَا طٰسٓمٓ

ترجمہ: اے اللہ! میرے دین میں برکت دے جو میرا بچاؤ ہے، اور میری آخرت میں جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری دنیا میں جو میرا وسیلہ ہے، اور زندگی کو میرے لئے بھلائی میں ترقی، اور موت کو میرے حق میں ہر برائی سے امن بنا دے۔ بزار (عن زبیر ابن العوامؓ)

اے اللہ! مجھے بڑا صبر کرنے والا، اور بڑا شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ بزار (عن ثوبانؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ چیزوں کی، اور برائیوں کے چھوڑنے کی، اور غریبوں کی محبت کی دعا مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو میری توبہ قبول کرلے اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانا چاہے تو مجھے بغیر آزمائش اٹھالے۔ بزار (عن عائشہؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے مفید اور سود مند علم چاہتا ہوں، اور غیر مفید اور بے سود علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ طبرانی فی الکبیر والاوسط (عن عائشہ وجابرؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے مفید علم اور مقبول عمل چاہتا ہوں۔ طبرانی فی الاوسط (عن جابرؓ)

اے اللہ! ہمارے ملک میں برکت، شادابی اور امن عطا فرما۔ طبرانی فی الاوسط (عن سمرہؓ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ الْاَوَّلُ فَلَا شَیْءَ قَبْلَكَ وَالْاٰخِرُ فَلَا شَیْءَ بَعْدَكَ وَالظَّاهِرُ فَلَا شَیْءَ فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَا شَیْءَ دُوْنَكَ اَنْ تَقْضِیَ عَنَّا الدَّیْنَ وَاَنْ تُغْنِیَنَا مِنَ الْفَقْرِ مُصْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَهْدِیْكَ لِاَرْشَدِ اَمْرِیْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ حِبْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِیْ وَاَسْتَهْدِیْكَ لِاَرْشَدِ اَمْرِیْ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ فَتُبْ عَلَیَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّیْ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِیْ اِلَیْكَ وَاجْعَلْ غِنَایَ فِیْ صَدْرِیْ وَبَارِكْ لِیْ فِیْمَا رَزَقْتَنِیْ وَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّیْ مُصْ یَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِیْلَ وَسَتَرَ الْقَبِیْحَ یَا مَنْ لَّا یُؤَاخِذُ بِالْجَرِیْرَةِ وَلَا یَهْتِكُ السِّتْرَ یَا عَظِیْمَ الْعَفْوِ یَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ یَا بَاسِطَ الْیَدَیْنِ بِالرَّحْمَةِ یَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوٰی یَا مُنْتَهٰی كُلِّ شَكْوٰی یَا كَرِیْمَ الصَّفْحِ یَا عَظِیْمَ الْمَنِّ یَا مُبْتَدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا یَا رَبَّنَا وَیَا سَیِّدَنَا وَیَا مَوْلَانَا وَیَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا اَسْأَلُكَ یَا اَللّٰهُ اَنْ لَّا تَشْوِیَ خَلْقٍ بِالنَّارِ مُسْ

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اس لئے کہ تُو ہی اوّل ہے تیرے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے تیرے نیچے کوئی چیز نہیں یہ مانگتا ہوں کہ تو میرا قرض ادا کردے اور ہماری مفلسی کو ہماری دولتمندی سے بدل دے

ابن ابی شیبہ (عن ابی ہریرہؓ)

اے اللہ! میں اپنے ہر اس کام کی جو میرے حق میں بہت بہتر ہو تیری رہنمائی چاہتا ہوں، اور اپنے نفس کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابن حبان (عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ)

اے اللہ! میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور اپنے معاملات میں میانہ روی طلب کرتا ہوں، اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول کرلے بیشک تو ہی میرا رب ہے۔ اے اللہ! مجھے اپنی طرف راغب کرلے، اور میرا دل مستغنی کردے، اور جو کچھ تو نے مجھے نصیب کیا ہے، اس میں مجھے برکت دے، اور مجھ سے قبول فرمالے، بیشک تو ہی میرا رب ہے ابن ابی شیبہ، (عن عمر رضی اللہ عنہ)

اے وہ ذات جس نے اچھائی کو ظاہر کیا، اور برائی کو چھپایا، اے وہ جو گناہوں پر مواخذہ نہیں کرتا، اور رعیبوں کی پردہ دری نہیں کرتا، اے بہت معاف کرنے والے، اے بہت درگزر کرنے والے، اے عام بخشش کرنے والے، اے دونوں پر رحمت سے کشادہ کرنے والے، اے ہر راز کے رازدار، اے ہر شکایت کے منتہا، اے بڑے درگذر کرنے والے، اے بڑے احسان کرنے والے، اے استحقاق سے پہلے نعمتوں کے دینے والے، اے ہمارے رب! اے ہمارے سردار! اے ہمارے مالک! اے ہماری رغبت کی انتہا! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ! میرے بدن کو جہنم کی آگ سے نہ بھوننا، حاکم (عن عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

تَمَّ نُوْرُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ بَسَطْتَ يَدَكَ فَاَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهُكَ اَكْرَمُ الْوُجُوْهِ وَجَاهُكَ اَعْظَمُ الْجَاهِ وَعَطِيَّتُكَ اَفْضَلُ الْعَطِيَّةِ وَاَهْنَاهَا تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَتُعْطٰى رَبَّنَا فَتَغْفِرُ وَتُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضُّرَّ وَتَشْفِي السَّقِيْمَ وَتَغْفِرُ الذَّنْبَ وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَلَا يُجْزٰى بِآلَائِكَ اَحَدٌ وَلَا يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَآئِلٍ صِ مُوْمُصَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهٗ لَا يَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ طٰ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا اَخْطَاْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ اَرَطْ

ترجمہ: تیرا نور پورا ہوا تو تُو نے ہدایت کی، پس تیرے ہی لئے تعریف ہے، تیرا حلم بڑا ہوا تو تو نے بخشش کی پس تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو نے اپنے ہاتھ کشادہ کئے تو عطا کیا، پس تو ہی قابل تعریف ہے۔ اے رب ہمارے! تیری ذات سب سے مقدس ہے، اور تیرا رُتبہ سب سے بڑا ہے اور تیری بخشش سب سے بڑھ کر اور خوشگوار ہے۔ اے رب! تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تو اس کا ثواب دیتا ہے، اور تیری نافرمانی کی جاتی ہے تو تو بخش دیتا ہے اور تو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور مصیبت دُور کرتا ہے، اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور گناہ بخشتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، تیری نعمتوں کا نہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی ثنا خواں تیری تعریف کر سکتا ہے، ابو یعلیٰ موقوفاً۔ ابن ابی شیبہ (عن علیؓ)

اے اللہ! میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت چاہتا ہوں، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی ان کا مالک نہیں۔ طبرانی (عن ابن مسعودؓ)

اے اللہ! مجھے بخش دے جو کچھ میں نے بھول کر کیا، اور جو کچھ میں نے قصداً کیا، اور جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ میں نے علانیہ کیا اور جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں۔ احمد، بزار، طبرانی (عن عمران بن حصینؓ)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَظُلْمَنَا وَهَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَخَطَأَنَا وَعَمْدَنَا وَكُلَّ ذٰلِكَ عِنْدَنَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَهَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَلَا تَحْرِمْنِيْ بَرَكَةَ مَا اَعْطَيْتَنِيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ فِيْمَا اَحْرَمْتَنِيْ طس اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ اَصِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ اَصِ سَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ تٓ سٓ قٓ حٰمٓ مٓ سٓ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَدْعُ اللّٰهَ بِهٖ فَقَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ اَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ شَيْئًا اَسْاَلُهٗ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ يَا عَمِّ سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط

ترجمہ: اے اللہ! ہمارے گناہ اور ہمارا ظلم بخش دے اور (وہ گناہ بھی) جو ہم سے ہنسی سے اور سچ مچ، اور جو غلطی سے اور ارادۃً ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم ہی سے ہوا ہے۔ احمد، طبرانی (عن عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ)

اے اللہ! جو کچھ مجھ سے نادانستہ اور دانستہ، سہواً اور قصداً (گناہ) سرزد ہوئے ہیں، معاف فرما دے، اور جو کچھ تو نے دیا ہے اس کی برکت سے محروم نہ کر، اور جس چیز سے محروم رکھا ہے اُس کی آزمائش نہ فرما۔ طبرانی فی الاوسط (عن ابی بن کعبؓ)

اے اللہ! تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ احمد۔ ابو یعلیٰ (عن اُم سلمہؓ)

اے رب! بخش دے اور رحم کر، اور مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ احمد، ابو یعلیٰ (عن ابن مسعودؓ)

(حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ) اللہ سے بخشش اور عافیت مانگو! کیونکہ یقیناً (ایمان) کے بعد کسی کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم (عن ابی بکر الصدیقؓ)

(حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضورِ اقدس صلے اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا) یا رسول اللہ! مجھے کوئی چیز ایسی بتا دیجئے جس کی میں اللہ سے دعا کروں۔ آپؐ نے فرمایا اپنے پروردگار سے عافیت مانگئے، میں کچھ دن بعد پھر حاضرِ خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز فرما دیجئے جسے میں اپنے رب عزوجل سے مانگوں، آپ نے فرمایا اے چچا جان اللہ سے دنیا اور آخرت میں آرام و سلامتی طلب کیجئے۔ طبرانی (عن ابن عباسؓ)

toobaa-elibrary.blogspot.com

يَا عَمِّ أَكْثِرِ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ ط مَا سَأَلَ اللهَ الْعِبَادُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَيُعَافِيَهُمْ ر يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تُعَلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَفْسِي قَالَ بَلَى قُولِي اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا أَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللّٰهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي وَإِنَّ الْكَافِرَ يُلَقَّنُ حُجَّتَهُ وَلٰكِنْ يَقُولُ اللّٰهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّةَ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ ط

ترجمہ: اے چچاجان! عافیت کی کثرت سے دعا کیا کیجئے۔ طبرانی (عن ابن عباسؓ)

بندوں نے اللہ سے کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں مانگی کہ وہ ان کی مغفرت کر دے، اور انھیں عافیت دے۔ بزار (عن ابی الدرداءؓ)

(حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا) یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے ایسی دعا نہیں سکھاتے؟ جو میں اپنے لئے مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں! تو کہو، اے اللہ! اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے رب! میرے گناہ بخش دے، اور میرے دل سے غصّہ نکال دے، اور جبتک تو ہمیں زندہ رکھے گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ احمد (عن ام سلمہؓ)

کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے میری حجت تلقین کر، کیونکہ کافر کو بھی اس کی حجت تلقین کی جاتی ہے، بلکہ کہے اے اللہ مجھے موت کے وقت ایمان کی حجت (یعنی لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) تلقین فرما۔ طبرانی (عن عائشہؓ)

فَضْلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ حِبْ أَدَتِ سَ مُسْ أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ دَسَ قَحِبْ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھنے کی فضیلت

ترجمہ: (رسول اللہ ﷺ) پر بہترین درود وسلام ہو۔

جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبیؐ پر درود بھیجیں تو وہ لوگ قیامت کے دن اس مجلس پر حسرت اور افسوس کریں گے، اگرچہ وہ ثواب کے لئے جنت میں داخل ہوں۔ ابن حبان، احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم (عن ابی ہریرہؓ)

(حضور کا ارشاد ہے) جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان (عن اوس بن اوسؓ)

درود شریف کی فضیلت

شرح: یعنی لوگ کسی جگہ نہ بیٹھیں اور اس جگہ نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو جب وہ قیامت میں درود شریف کا ثواب دیکھیں گے تو اس وقت اس نشست پر حسرت وافسوس کریں گے۔ شارحان حدیث نے اس کے دو مفہوم لکھے ہیں کہ حسرت ہر شخص کو ہوگی یا صرف اس شخص کو ہوگی جس نے نہ ذکر کیا ہو نا اور نہ درود بھیجا ہوگا۔

علامہ نسفیؒ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس کا ہر شخص اللہ کا ذکر بھی کرے اور درود بھی بھیجے، اگر ایک سے بھی رہ جانے کا تو سب کو حسرت وافسوس ہوگا، اور ایک کا کرنا دوسرے کے واسطے سود مند نہ ہوگا۔ لیکن ملا علی قاری رقمطراز ہیں کہ جو شخص نہ کرے گا حسرت اسی کو ہوگی، سب کو نہیں ہوگی

جمعہ کا دن آپ نے اس لئے فرمایا کہ وہ دن سب سے افضل ہے، اور آپ بھی سید الانبیاء ہیں۔

لَيْسَ يُصَلِّيْ عَلَيَّ اَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهٗ
مُسْ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ
عَلَيْهِ السَّلَامَ دَ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً
تِ حِبْ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ تِ
سَ حِبْ مُسْ اَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَيَّ فَاِنَّهَا زَكٰوةٌ لَّكُمْ
صِ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ تِ
حِبْ رَطَ

ترجمہ: جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود میرے سامنے ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ حاکم (عن ابن مسعودؓ)

جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابوداؤد (عن ابی ہریرہؓ)

قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود بھیجا ہوگا۔ ترمذی، ابن حبان (عن ابن مسعودؓ)

بخیل وہی ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی، نسائی، ابن حبان، حاکم (عن علیؓ)

مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، اس لئے کہ وہ تمہارے واسطے زکوٰۃ (یعنی فلاح اور نجات کا ذریعہ) ہے۔ ابویعلی (عن ابی ہریرہؓ)

وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی، ابن حبان، بزار، طبرانی (عن ابی ہریرہؓ)

شرح: اس حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرتؐ زندہ نہیں ہیں سلام کے جواب کے وقت روح لوٹ آتی ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عالم برزخ میں زندہ ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت کی روح اطہر جو جناب باری میں مستغرق رہتی ہے اس سے افاقہ فرما کر متوجہ کرتے ہیں تاکہ سلام کا جواب دیں اور یہ مطلب نہیں ہے کہ روح القدس بدن سے جدا ہے صرف جواب کے وقت آجاتی ہے۔

بقاء: اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کسی مجلس میں لیا جائے تو ہزار بار آپ پر درود بھیجا جائے، مگر علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کا نام مبارک لیا جائے تو ایک بار درود بھیجنا واجب ہے، اور ہر بار۔ درود

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ سَ طَسْ صِ ىٰ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ىٰ مَنْ ذَكَرَنِيْ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ صِ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِيَ السَّلَامَ سَ حِبْ مُسْ اِنِّيْ لَقِيْتُ جِبْرَئِيْلَ فَبَشَّرَنِيْ وَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ شُكْرًا مُسْ اَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ جَعَلْتُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا يُكْفٰى هَمَّكَ وَ يُغْفَرُ ذَنْبُكَ اَلْحَدِيْثَ تِ مُسْ اَ

ترجمہ: جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے۔ نسائی، طبرانی فی الاوسط، ابو یعلےٰ، ابن سنی (عن انسؓ)

جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالےٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ابن سنی (عن انسؓ)

جو کوئی میرا ذکر کرے اُسے چاہئے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ ابو یعلےٰ (عن انسؓ)

بیشک اللہ کے کچھ فرشتے (زمین میں) پھرنے والے ہیں جو میری اُمت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔ نسائی، ابن حبان، حاکم (عن ابن مسعودؓ)

میں جبرئیل علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے مجھے اس بات کی خوشخبری سُنائی کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس پر میں نے سجدۂ شکر ادا کیا۔ حاکم، احمد (عن عبد الرحمٰن بن عوفؓ)

(حضرت ابی بن کعبؓ نے عرض کیا) یا رسول اللہ! میں نے اپنا تمام وقت آپ کے درود ہی کے لئے کر دیا، تو آپؐ نے فرمایا اب تیری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اور تیری تمام آرزوئیں پوری ہو جائیں گی، اور تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے

ترمذی، حاکم، احمد (عن ابی بن کعبؓ)

شرح : یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھ میں اور محبوب رب العالمین میں تو اتنی دوری ہے، میرا درود وسلام آپ تک کیسے پہنچے گا، بلکہ ہمیشہ توجہ اور حضور قلب کے ساتھ درود پڑھتا رہے، زمین کے پھرنے والے فرشتے بارگاہ رسالت میں اسے پہنچا دیتے ہیں۔

پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یارسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں، تو جو وقت میں نے دعا کے لئے متعین کیا ہے اس میں سے درود کے لئے کتنا وقت مقرر کروں۔ آپ نے فرمایا جس قدر تم چاہو۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے عرض کیا چوتھائی وقت مقرر کردوں؟ آپ نے فرمایا جس قدر چاہو صرف کرو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا آدھا وقت مقرر کروں۔ آپ نے فرمایا جس قدر تم چاہو مگر دو تہائی سے زیادہ ہو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا، تب حضرت ابی بن کعبؓ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے سارا وقت آپ کے درود ہی کے لئے کر دیا۔ اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ اب تیری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی اور تمام آرزوئیں پوری ہو جائیں گی اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ وَاحِدَۃً صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ عَشْرًا مُدَّتِ سَ
طَ جَآءَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ وَّالْبُشْرٰی فِیْ وَجْھِہٖ
فَقَالَ اِنَّہٗ جَآءَنِیْ جِبْرَئِیْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّکَ یَقُوْلُ اَمَا یُرْضِیْکَ
یَا مُحَمَّدُ اَنَّہٗ لَا یُصَلِّیْ عَلَیْکَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِکَ اِلَّا صَلَّیْتُ
عَلَیْہِ عَشْرًا وَّلَا یُسَلِّمُ عَلَیْکَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِکَ اِلَّا صَلَّیْتُ
عَلَیْہِ عَشْرًا سَ حِبْ مُسْ مُصْ فِیْ مَنْ صَلّٰی عَلَیَّ وَاحِدَۃً
صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَّحُطَّتْ عَنْہُ عَشْرُ خَطِیْئَاتٍ
وَرُفِعَتْ لَہٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ سَ حِبْ مُسْ رَطَ وَکُتِبَ لَہٗ
بِھَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ سَ طَ مَنْ صَلّٰی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَسَلَّمَ وَاحِدَۃً صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَمَلٰٓئِکَتُہٗ سَبْعِیْنَ صَلٰوۃً اَ

ترجمہ: جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بیشمار رحمت نازل فرماتا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم (عن ابی مونیٰ)

ایک روز آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ خوش معلوم ہوتے تھے، آپ نے فرمایا مجھ سے جبرئیل علیہ السلام نے آکر کہا، آپ کا رب فرماتا ہے (اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم) کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے؟ کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے تو میں بھی اس پر بیشمار رحمت نازل کروں، اور جو ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجوں؟ (نسائی، ابن حبان، حاکم، ابن ابی شیبہ، دارمی (عن ابی طلحہ)

جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور (بہشت میں) دس درجہ بلند ہوتے ہیں۔ (نسائی، ابن حبان، حاکم، بزار، طبرانی (عن انس)) ـــــ اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ (نسائی، طبرانی، (عن عمرو بن سعد و عن ابی ہریرہ)) ـــــ جو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ (احمد (عن عبداللہ بن عمرو)

وَكَيْفِيَّةُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ طَسٓ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ تِ وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِذَا سَاَلْتَ اللّٰهَ حَاجَةً فَابْدَاْ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ بِكَرَمِهٖ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يَّدَعَ مَا بَيْنَهُمَا

ترجمہ، حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنے کا طریقہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ہر دعا (بارگاہ الٰہی تک پہنچنے سے) رُکی رہتی ہے، جبتک محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ طبرانی فی الاوسط (عن علیؓ)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دُعا آسمان وزمین کے درمیان میں رُکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی (اللہ کے پاس) نہیں (جاتی) جبتک تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو ترمذی (عن عمر بن الخطابؓ)
شیخ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے کوئی حاجت مانگو تو، اسے نبی صلے اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر شروع کرو، پھر جو چاہو دعا مانگو، اُس کے بعد پھر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہی اسے ختم کرو، اور وہ (اللہ) اس سے بالاتر ہے کہ ان دونوں کے درمیان کو چھوڑ دے۔

شرح، یعنی دعا کی قبولیت درود شریف پہنچنے پر موقوف ہے، کیونکہ درود شریف تو قبول ہی ہوتا ہے جو بھی دعا اس کے ذریعہ سے مانگی جائے گی قبول ہوگی، اس لئے ہر دعا مانگنے والے کو چاہئے کہ اپنی دعا کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھے۔
یعنی اوّل وآخر درود شریف پڑھنے کے طفیل میں ان کے بیچ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے دونوں درود کو تو قبول فرماتا ہی ہے، تو جو (دعا) اُن کے درمیان ہوگی وہ بھی قبول ہو جائے گی۔
شیخ ابوسلیمانؒ کا نام عبدالرحمٰن ہے شام کے بڑے اولیاء اور فضلاء میں سے ہیں ۲۱۵ھ میں وفات پائی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ بِحَقِّهٖ عِنْدَكَ ارْفَعْ عَنِ الْخَلْقِ مَا نَزَلَ بِهِمْ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِمْ مَّنْ لَّا يَرْحَمُهُمْ فَقَدْ حَلَّ بِهِمْ مَّا لَا يَرْفَعُهٗ غَيْرُكَ وَلَا يَدْفَعُهٗ سِوَاكَ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا يَا كَرِيْمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ترجمہ: اے اللہ! محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بیشک تو ہی تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ محمد صلے اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، بیشک تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔

اے اللہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر (برابر) رحمت بھیج جب تک ان کو یاد کرنے والے انھیں یاد کرتے رہیں، اے اللہ! حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج جب تک ان کے ذکر سے غفلت برتنے والے غفلت برتتے رہیں، اور کثرت سے سلام بھیج۔

یا اللہ! محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے طفیل میں جو تجھ پر ہے مخلوقات سے وہ مصیبت دُور کر دے جو ان پر نازل ہوئی ہے اور ان پر ایسا شخص مسلط نہ فرما جو ان پر رحم نہ کرے، ان پر ایسی مصیبت اتری ہوئی ہے، جس کو نہ تیرے سوا کوئی دور کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہٹا سکتا ہے۔ اے اللہ! ہماری مصیبت دُور کر دے اے کرم کرنے والے، اے سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

قَالَ الْمُؤَلِّفُ الشَّيْخُ الْاَجَلُّ رِحْلَةُ اَجِلَّةِ الْعُلَمَآءِ وَارِثُ عُلُوْمِ الْاَنْبِيَآءِ خَاتَمُ الْمُحَدِّثِيْنَ وَحِيْدُ الْعَصْرِ شَرْقًا وَّغَرْبًا وَّفَرِيْدُ الدَّهْرِ بَرًّا وَّبَحْرًا الَّذِيْ نَالَ فِي الْاٰفَاقِ حَظًّا مِّنَ الْاِشْتِهَارِ اِشْتِهَارَ الشَّمْسِ فِيْ نِصْفِ النَّهَارِ صَاحِبُ الْاَنْفَاسِ الْقُدْسِيَّةِ وَالْكَمَالَاتِ الْاُنْسِيَّةِ وَالْاَخْلَاقِ السَّنِيَّةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَلَكَاتِ الْمَلَكِيَّةِ مَوْلَانَا شَمْسُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنُ الْجَزَرِيِّ اَفَاضَ اللّٰهُ بَرَكَاتِهٖ عَلَى الْعَالَمِيْنَ عُمُوْمًا وَّعَلٰى اَصْحَابِهٖ خُصُوْصًا قَالَ كَاتِبُهٗ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَزَرِيِّ لَطَفَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مُحْرِبَتِهٖ وَاَخَذَ بِيَدِهٖ فِيْ شِدَّتِهٖ فَرَغْتُ مِنْ تَرْصِيْفِ هٰذَا الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ الثَّانِيْ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ سَنَةَ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ وَسَبْعِ مِائَةٍ بِمَدْرَسَتِيَ الَّتِيْ اَنْشَاْتُهَا بِرَاْسِ عَقَبَةِ الْكَتَّانِ دَاخِلَ دِمَشْقَ الْمَحْرُوْسَةِ حَمَاهَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْاٰفَاتِ وَسَائِرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا وَجَمِيْعُ اَبْوَابِ دِمَشْقَ مُغْلَقَةٌ بَلْ مُشَيَّدَةٌ بِالْاَحْجَارِ وَالْحَلَائِقُ يَسْتَغِيْثُوْنَ عَلَى الْاَسْوَارِ وَالنَّاسُ فِيْ جُهْدٍ عَظِيْمٍ مِّنَ الْحِصَارِ وَالْمِيَاهُ مَقْطُوْعَةٌ وَّالْاَيَادِيْ مَرْفُوْعَةٌ وَّقَدْ اُحْرِقَ ظَوَاهِرُ الْبَلَدِ وَنُهِبَ اَكْثَرُهٗ وَكُلُّ اَحَدٍ خَآئِفٌ

toobaa-elibrary.blogspot.com

عَلٰی نَفْسِہٖ وَمَالِہٖ وَاَھْلِہٖ وَجُلِّ مَنْ دُنُوْبِہٖ وَسُوْءِ اَعْمَالِہٖ
وَقَدْ تَحَصَّنَ بِمَا یُقْدَرُ عَلَیْہِ فَجَعَلْتُ ھٰذَا حِصْنِیْ وَتَوَکَّلْتُ
عَلَی اللّٰہِ تَعَالٰی وَھُوَ حَسْبِیْ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ

ترجمہ: مصنف کتاب جو بہت بڑے شیخ، علمائے کرام کے مرجع، علوم انبیاء کے وارث، خاتم المحدثین، یکتائے زمانہ، یگانۂ روزگار ہیں، جن کی شہرت زمانہ میں اس طرح ہے، جس طرح آفتاب کی تمازت نصف النہار کے وقت ہوتی ہے، جن کی تقریر نہایت شستہ اور تحریر نہایت دلپذیر ہے، جن کے اخلاق انتہائی بلند، اور سیرت انتہائی پاکیزہ ہے (ہمارے سردار) جن کا لقب شمس الدین نام محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوض و برکات سے عالم کے تمام لوگوں کو عموماً اور ان کے ساتھیوں کو خصوصاً فیض یاب فرمائے، فرماتے ہیں:۔

اس کتاب کا مصنف محمد بن محمد بن محمد ابن الجزری اللہ تعالیٰ غربت میں اس پر لطف و کرم فرمائے اور شدت و سختی میں اس کی دستگیری کرے، کہتا ہے کہ میں اس حصن حصین کی تصنیف سے جو سید المرسلین خاتم النبیین کے کلام کا مجموعہ ہے، بروز اتوار بتاریخ بائیس ذی الحجہ ۷۹۱ھ کو اپنے مدرسے میں فارغ ہوا، جو میں نے دمشق کے (ایک موضع) عقبۃ الکتان کے سرے پر بنایا ہے۔ اللہ اسے اور مسلمانوں کے تمام شہروں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور یہ کتاب اس فتنہ و فساد کے وقت ختم ہوئی، جبکہ دمشق کے تمام دروازے بند بلکہ پتھروں سے مستحکم تھے، اور مخلوق شہر پناہ پر بارگاہ الٰہی میں فریاد کر رہی تھی، اور لوگ (ظالموں کے) محاصرہ کی وجہ سے بڑی مصیبت میں تھے، یہاں تک کہ پانی تک بند کر دیا گیا تھا، (لوگوں کے) ہاتھ عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزۃ میں اٹھے ہوئے تھے، شہر کے گرد و نواح جلا دیئے گئے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر لوٹ بھی لئے گئے تھے، ہر شخص اپنے جان و مال اور اہل و عیال کے بارے میں خائف اور اپنے گناہوں اور بداعمالیوں سے خوف زدہ تھا ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق پناہ لے رکھی تھی، پس میں نے اس کتاب کو اپنی پناہ بنایا اور اللہ پر بھروسہ کیا، وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

وَقَدْ اَجَزْتُ اَوْلَادِیْ اَبَا الْفَتْحِ مُحَمَّدًا وَّ اَبَا بَكْرٍ اَحْمَدَ وَاَبَا الْقَاسِمِ عَلِیًّا وَّ اَبَا الْخَیْرِ مُحَمَّدًا وَّ فَاطِمَةَ وَعَآئِشَةَ وَسَلْمٰی وَ خَدِیْجَةَ رِوَایَتَهٗ عَنِّیْ مَعَ جَمِیْعِ مَا یَجُوْزُ لِیْ رِوَایَتُهٗ وَكَذٰلِكَ اَجَزْتُ اَهْلَ عَصْرِیْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ اَوَّلًا وَّ اٰخِرًا وَّ بَاطِنًا وَّ ظَاهِرًا وَصَلَاتُهٗ عَلٰی سَیِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَامُهٗ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمُؤَلِّفِهٖ وَلِكَاتِبِهٖ وَلِمَنْ قَرَأَ فِیْهِ وَلِمَنْ دَعَا لَهُمْ بِالْخَیْرِ وَلِسَآئِرِ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ

تمت

ترجمہ: اور میں نے اپنے لڑکوں ابوالفتح محمد اور ابوبکر احمد، اور ابوالقاسم علی، اور ابوالخیر محمد اور لڑکیوں فاطمہ عائشہ، سلمٰی اور خدیجہ کو اس کی اور تمام اُن چیزوں کی اجازت دے دی جن کی روایت کی مجھے اجازت ہے اور اسی طرح اپنے تمام اہلِ زمانہ کو اجازت دے دی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو کیتا و یگانہ، اوّل و آخر اور ظاہر و باطن ہے اس کی رحمت نازل ہو سیّد الخلائق (مخلوق کے سردار) محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر اور اس کا سلام ہو آپ پر اور آپ کے اصحاب پر۔

اے اللہ! اس کتاب کے مصنف اور اس کے کاتب اور اس کے پڑھنے والے کو بخش دے، اور جو ان کے لئے دعائے خیر کرے اُس کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہر تعریف اللہ ہی کے لئے ہے، جو کیتا و یگانہ ہے، اور ہمارے سردار محمد صلے اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجے ہیں اللہ بس ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور بہترین حامی اور بہترین مددگار ہے۔

ابوالحسن محمد امین الدلجوی کاتب کتاب ہذا

نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی پاکستان

toobaa-elibrary.blogspot.com

https://archive.org/download/UddahAlHisnAlHasin/Uddah-al-Hisn-al-Hasin.pdf

اسلامی اذکار اور دعاؤں کا مختصر و جامع
موضوعی دائرۂ معارف

عُدّۃُ الحِصن الحَصین

(خلاصۂ حِصنِ حَصین)



تالیف
شمس الدین محمد بن محمد ابن جزری شافعیؒ

ترجمہ و تشریح
مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی

رئیس قسم تخصص علوم حدیث
جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی
و استاذ حدیث جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی

مکتبۃ الکوثر کراچی